

اشارہ  
فتاویٰ رضویہ

مرتب  
قاری محمد رمضان ضیاء اللوی

رضا فاؤنڈیشن

ہارمونی ٹراؤسڈ رضویہ  
لاہور پاکستان



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

# فتاویٰ رضویہ

مع تخریج و ترجمہ عربی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ

رضا فاؤنڈیشن

جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوہاری دروازہ لاہور

پاکستان (۵۴۰۰۰)

# اشارہ فتاویٰ رضویہ

مرتب

ابوالضیاء محمد رمضان سیالوی

رضا فاؤنڈیشن

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

پاکستان

marfat.com

Marfat.com

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

|              |       |  |
|--------------|-------|--|
| نام کتاب     | ..... | اشاریہ مسائل فتاویٰ رضویہ  |
| فیضانِ کرامت | ..... | مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ   |
| سرپرستی      | ..... | صاحبزادہ مولانا محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی، ناظم اعلیٰ جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور شیخوپورہ |
| اہتمام       | ..... | صاحبزادہ مولانا قاری نصیر احمد ہزاروی ناظم شعبہ نشر و اشاعت، رضا فاؤنڈیشن، لاہور       |
| مرتب         | ..... | علامہ قاری حافظ ابوالضیاء محمد رمضان سیالوی  |
| کیپوزنگ      | ..... | فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور/ ناظم اعلیٰ جامعہ نور الاسلام لاہور                     |
| کیپوزرز      | ..... | النظامیہ کمپوزنگ سنٹر جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور   |
| اشاعت        | ..... | مولانا محمد اکرام اللہ بٹ، حافظ محمد کاشف جمیل، خواجہ محمد قاسم قادری                  |
| ناشر         | ..... | ربیع الاول ۱۴۲۷ھ بمطابق اپریل ۲۰۰۶ء  |
| صفحات        | ..... | رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری گیٹ لاہور                              |
| مطبع         | ..... |  |
| قیمت         | ..... |  |

ملنے کے پتے

☆..... رضا فاؤنڈیشن، جامعہ نظامیہ رضویہ اندرون لوہاری دروازہ، لاہور۔

0300-9415300 042-7665772

☆..... مکتبہ اہلسنت جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور۔

☆..... ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور

☆..... شبیر برادرز، 40 بی اردو بازار، لاہور

☆☆.....☆☆.....☆☆.....☆☆

## پیش لفظ

از: استاذ العلماء والمدرسين حضرت علامہ مولانا

حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ

شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور/ شیخوپورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله ..... !

رضا فاؤنڈیشن لاہور پاکستان کے زیر اہتمام فتاویٰ رضویہ شریف تقریباً پندرہ سال کے قلیل عرصہ میں تیس جلدوں میں مکمل ہوا۔ جو تقریباً بائیس ہزار (22000) صفحات، 6847 سوالوں کے جوابات اور 206 رسائل پر مشتمل ہے۔

پیش نظر کتاب "اشاریہ مسائل فتاویٰ رضویہ" فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ مولانا قاری حافظ ابوالفضیاء محمد رمضان سیالوی زید مجدہ کی علمی تحقیقی کاوش ہے، اس سے قبل مولانا فن تجوید میں ایک کتاب "اساس التجوید" اور آسان قرآنی تعلیم کے لئے "بسم اللہ قاعدہ" تصنیف فرما چکے ہیں جو اکثر مدارس اور سکولوں میں داخل نصاب ہیں۔

مولانا موصوف نے جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور سے 2004ء میں علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی اور تنظیم المدارس کے تحت منعقدہ عالمیہ (ایم۔ اے) کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور 2005ء میں جامعہ نعیمیہ لاہور سے تخصص فی الفقہ (مفتی کورس) کیا، مولانا موصوف انتہائی محنتی، معاملہ فہم، زیرک، مستعد اور مخلص عالم دین ہیں، احیاء سنت، تزویج مسلک اہل سنت و جماعت، تبلیغ دین، خدمت خلق اور خدمت دین کے جذبہ سے سرشار ہیں۔ آپ نے انتہائی محنت سے بڑے مختصر وقت میں

اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے یہ اشاریہ تیار فرمایا ہے اور اس کو جلد وار کی بجائے حروف تہجی کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے، ہر مسئلہ کے مختصر عنوان کے آگے فتاویٰ رضویہ کی تیس جلدوں کے وہ تمام صفحات درج کر دیئے ہیں جن پر وہ مسئلہ مذکور ہے ”گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔“ اللہ کریم بطفیل سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم مولانا موصوف کی کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین

یاد رہے کہ فتاویٰ رضویہ کی جلد اول مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن کی مولانا محمد احمد مصباحی صاحب زید مجدہ کے ترجمہ کے ساتھ نئی کتابت کروائی گئی، نیا ترجمہ قدرے تفصیلی ہے جس سے ضخامت بڑھ گئی چنانچہ اس کو دو حصوں میں منقسم کرنا پڑا اور فتاویٰ رضویہ کی تیس جلدوں کی ”فہارس“ پر مشتمل بھی ایک الگ جلد شائع کی جا رہی ہے اس طرح اب یہ ذخیرہ علمی مجموعی طور پر تینتیس جلدوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔

حافظ محمد عبدالستار سعیدی غفرلہ

شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور / شیخوپورہ

☆.....☆.....☆.....☆.....☆.....☆

# کلمات خیر

از: استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا

مفتی محمد صدیق ہزاروی سعیدی ازہری دامت برکاتہ

شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حقی فتاویٰ کی دنیا میں مجدد ملت فقیر اعظم حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ کا فتاویٰ "العطایا النبویة فی الفتاوی الرضویہ" المعروف "فتاوی رضویہ" اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن و سنت کے دلائل سے مزین، حکمت و دانش کی دولت سے مالا مال اور حالات حاضرہ کے تقاضوں کا آئینہ دار یہ فتاویٰ صرف فتاویٰ ہی نہیں بلکہ جملہ علوم اسلامیہ کا عظیم انسائیکلو پیڈیا بھی ہے۔

فتاویٰ رضویہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت و اشکاف الفاظ کی صورت میں واضح ہوتی ہے کہ صرف، نحو بلاغت، اصول فقہ، اصول حدیث، منطق، فلسفہ اور سائنس پر مشتمل علوم کے ساتھ ساتھ مذاہب باطلہ کا رد اسی عظیم فتاویٰ کے ضمنی موضوعات میں شامل ہیں۔

فتاویٰ رضویہ کے ذریعے مستفتی کو اپنے سوال کا نہ صرف درست جواب ملا بلکہ دوسطری جواب کی بجائے صفحات پر مشتمل دلائل کے انبار کو اپنے جلو میں لئے ہوئے فتاویٰ کی سوغات اس (مستفتی) کا مقدر بنی۔

مروڑ زمانہ کے ساتھ ساتھ جہاں درس و تدریس کے تقاضے بدلتے ہیں وہاں تصنیف و تالیف اور اشاعت و طباعت کے طور طریقوں میں تغیر و تبدل کا عمل بھی حسن فہم کی غمازی کرتا ہے۔

اسی حسن فہم اور ذوق سلیم کی دولت سے مخدوم اہل سنت، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، فقیر ملت حضرت علامہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمہ اللہ کو خلاق عالم نے مالا مال کیا تھا، بہتر سے بہتر اور جدید سے جدید ترین کی طرف آپ کا سفر اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس عظیم فقہی انسائیکلو پیڈیا کو عام فہم قالب میں ڈھالتے ہوئے دور حاضر کے طباعتی تقاضوں کے مطابق منظر عام پر لایا جائے، چنانچہ حضرت مفتی اعظم علیہ الرحمۃ کی نگرانی میں مختلف علماء اور سکالرز حضرات نے اس کی عربی اور فارسی عبارات کو اردو زبان میں منتقل کیا اور پھر اس فتاویٰ کا اکثر حصہ آپ کی نگرانی میں اور باقی ماندہ آپ کے وصال کے بعد نہایت دیدہ زیب طباعت کے ساتھ تین جلدوں



میں ”رضا فاؤنڈیشن لاہور“ کے زیر اہتمام منظر عام پر آیا۔

حضرت مفتی اعظم رحمہ اللہ نے اس عظیم منصوبہ کی تکمیل میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور پھر آپ کے علمی جانشین فاضل نوجوان حضرت صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی سلمہ اللہ نے اپنے والد ماجد علیہ الرحمۃ کے اس عظیم مشن کی طرف کامل توجہ مبذول کی اور الحمد للہ یہ عظیم منصوبہ اور جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام مکمل ہوا۔

فتاویٰ رضویہ سے استفادہ کو مزید آسان کرنے کی خاطر اس کی تمام مجلدات کی فہرستوں کو ایک جلد میں یکجا کر دیا گیا تاکہ صرف ایک جلد کو کھول کر دیکھنے سے معلوم ہو جائے کہ کس جلد میں کون کون سے مسائل ہیں، یقیناً یہ بھی ایک ضروری اور عمدہ کوشش ہے جس کا سہرا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ نظامیہ رضویہ کے سر ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک ”ختامہ مسک“ کی صورت اس فتاویٰ کا اشاریہ ہے جس میں فاضل جلیل علامہ قاری حافظ ابوالفیاء محمد رمضان سیالوی سلمہ اللہ نے حروف تہجی کے اعتبار سے ایک موضوع سے متعلقہ مسائل کی فہرست الگ مرتب کر دی ہے۔

راقم کے خیال میں یہ اشاریہ پورے فتاویٰ کی جان ہے اور اس کے لئے علامہ مولانا قاری حافظ محمد رمضان سیالوی مبارک باد کے مستحق ہیں۔

عزیز القدر علامہ سیالوی جامعہ نظامیہ رضویہ کے ان فضلاء میں شامل ہیں جن پر یقیناً جامعہ کو فخر ہے اور ان ہی لوگوں کی وجہ سے ملک اور بیرون ملک جامعہ کی شہرت بام عروج تک پہنچتی ہے اور اس کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ اس پینتیس سالہ نوجوان نے 3 جون 1971ء کو ضلع جہلم کے ایک گاؤں پنڈی سید پور میں محترم محمد لطیف صاحب کے ہاں آنکھ کھولی اور پھر جب قسمت نے یادری کی تو گھریلو تربیت کے ساتھ ساتھ علمی اور روحانی دنیا کی نامور شخصیات اور عظیم علمی مراکز سے وابستگی کا شرف حاصل ہوا، جس کے نتیجے میں آج اس نوجوان نے یہ عظیم کارنامہ انجام دیا۔

فاضل نوجوان علامہ قاری محمد رمضان سیالوی زید مجدہ اپنے گاؤں میں مڈل تک دنیوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد عظیم علمی اور روحانی مرکز دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام آستانہ عالیہ سیال شریف (سرگودھا) میں حفظ قرآن مجید کی لازوال دولت سے مالا مال ہوئے اور جب ان کا سینہ نور قرآن سے منور ہوا تو منزل کی طرف سفر آسان ہو گیا چنانچہ انہوں نے مجود عصر استاذ القراء قاری محمد اسماعیل سیالوی مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شمس العلوم جامعہ رضویہ کراچی میں نہ صرف یہ کہ فن تجوید میں مہارت حاصل کی بلکہ جامعہ تجوید قرآن کارساز کراچی میں پانچ سال تک تجوید کی تدریس کا فریضہ بھی انجام دیا اور اس کے ساتھ ساتھ A گریڈ میں میٹرک کا امتحان بھی پاس کیا۔



قرآن مجید سے محبت اور اس کی تدریسی خدمت کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج بیت اللہ شریف کی سعادت عطا فرمائی اور اس کے بعد اور رمضان المبارک میں عمرہ اور مسجد نبوی شریف میں احکاف کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔  
 ”جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں“

علامہ قاری محمد رمضان سیالوی کا علمی ذوق رکاوٹوں کی زنجیریں کاٹا گیا اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے چنانچہ انہوں نے ورس نظامی کی طرف توجہ کی تو اہل سنت کی عظیم علمی درسگاہ جامعہ نظامیہ رضویہ بلاہور کا انتخاب کیا، تکمیل علوم کے ساتھ ساتھ جدید عصری تعلیم اور کمپیوٹر کورسز میں بھی مہارت حاصل کی اور بالآخر دورہ حدیث کے اجراء 2004ء میں سید فراغت اور دستار فضیلت کا شرف حاصل کیا۔ 2005ء میں جامعہ نعیمیہ لاہور میں تخصص فی الفقہ (منقہ کورس) کیا، اپریل 2005ء میں دوبارہ عمرہ کی سعادت حاصل کی اور پھر دمشق (شام) میں سابق مفتی اعظم شام الدکتور الشیخ احمد کفتار وعلیہ الرحمۃ کی قائم کردہ یونیورسٹی میں ائمہ و خطباء کورس میں شمولیت اختیار کی، اس دوران مقامات مقدسہ کی زیارت اور جید علماء سے اجازت حدیث اور مشائخ تصوف سے ”سلسلہ شاذلیہ ہاشمیہ“ میں اجازت حاصل کی۔

فاضل نوجوان علامہ محمد رمضان سیالوی کو رمضان المبارک 1426 ہجری میں بیلبجینم کے تبلیغی دورہ کا شرف بھی حاصل ہوا چنانچہ وہاں کی اسلامی تنظیم ”اینٹورپن اسلامک ایسوسی ایشن“ کے اراکین جن کی دعوت پر آپ وہاں تشریف لے گئے، اس تنظیم کے ارکان اور دیگر مسلمانوں نے آپ کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں آپ کو مستقل طور پر ”جامع مسجد نور الحرم واسلامک سنٹر“ کے لئے بیلبجینم آنے کی دعوت دی، آج کل علامہ سیالوی جامعہ نظامیہ رضویہ میں فتویٰ نویسی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، سات سال کا عرصہ آپ نے کینال ویو لاہور کی مرکزی جامع مسجد نور مصطفوی میں خطابت و امامت کے فرائض انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اخراجات پر طبعی ادارہ ”جامعہ نور الاسلام للینات“ قائم کیا، علاوہ ازیں جامعہ نظامیہ کے اس ہونہار فاضل نے ”اساس التجدید“ کے نام سے قواعد تجوید پر ایک کتاب لکھی جو اکثر مدارس اہل سنت میں شامل نصاب ہے۔ نیز مدارس اور سکولز کے طلباء و طالبات کے لئے ”بسم اللہ قاعدہ“ کے نام سے ایک قاعدہ بھی لکھا۔

الحمد للہ ! علامہ قاری محمد رمضان سیالوی جامعہ نظامیہ رضویہ کے قابل فخر سکالرز میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے، اللہ تعالیٰ فاضل عزیز کو علمی اور تحقیقی میدان میں روشن ستارے کی صورت عطا فرمائے۔ آمین

محمد صدیق ہزاروی سعیدی ازہری غفرلہ

شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

# منظر و پس منظر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله و كفى والصلوة والسلام على سيد الانبياء وعلى آله واصحابه و

من تبعهم باحسان إلى يوم الجزاء .

سال 2005ء میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہو لاہور میں ”تخصص فی الفقہ“ (مفتی کورس) کی تکمیل کے بعد جب امسال 2006ء میں اپنی مادر علمی ”جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری دروازہ لاہور“ میں فتویٰ کی عملی تربیت کے لئے حاضر ہوا۔ (واضح ہو کہ یہ عملی تربیت گزشتہ سال تخصص فی الفقہ کا حصہ تھی مگر میرے 4 ماہ کے سفر شام و زیارت حرین شریفین کی وجہ سے مکمل نہ کی جاسکی) تو استاذ محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تنویر القادری صاحب مدظلہ جو جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور کے شعبہ افتاء کے انچارج ہیں، نے مسجد کے متعلق ایک فتویٰ میرے ہاتھ میں تھا کہ کتب کی الماری کی طرف ایک مخصوص انداز بے نیازی سے اشارہ کر کے فرمایا ”اس سوال کا جواب تلاش کریں، حوالہ جات لکھیں اور فتاویٰ رضویہ سے اس جواب میں خصوصی استفادہ کریں“ ابتدائی کتب فتاویٰ میں جواب کی جزئیات دیکھنے کے بعد جب فتاویٰ رضویہ کی طرف متوجہ ہوا تو معاً خیال آیا کہ یہ جواب کس جلد میں ہوگا کیونکہ فتاویٰ رضویہ امام اہل سنت مجددین و ملت حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے عظیم علمی، تحقیقی و فکری شاہکار کی صورت میں 30 جلدوں پر مشتمل میرے سامنے تھا اور اس کی 30 جلدوں میں اشاعت مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی علیہ الرحمۃ و دیگر مقتدر اساتذہ و علماء اہلسنت کا عظیم مشترکہ کارنامہ ہے اور اس کی تکمیل کا سہرا جانشین مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ مولانا محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی مدظلہ العالی کے سر ہے۔ چنانچہ جلد اول سے دیکھنا شروع کیا تو جلد نمبر 8-16 میں اور مسجد کے متعلقہ بعض مسائل جلد 20-21-22-28 میں دستیاب ہوئے۔ یوں ایک جواب کی تلاش میں تقریباً پوری 30 جلدوں کی تفصیلی اور اجمالی فہارس کی ورق گردانی کرنی پڑی۔ ایک علمی اور تحقیقی ذوق کے حامل طالب علم کے لئے یہ بات کوفت کا باعث ہرگز نہ تھی بلکہ اس دوران دیگر کئی اور مسائل سامنے آ گئے مگر چند دن بعد جب فتاویٰ



کے جوابات کا بوجھ بڑھا تو ذہن اس کے عمل کا حلاشی ہوا، ”بس یہی بات اس اشاریہ کے بنانے کا محرک بنی کہ کم وقت میں زیادہ مآخذ تک کیسے پہنچا جائے“ اور جب حسن اتفاق دیکھئے کہ جانشین مفتی اعظم پاکستان حضرت صاحبزادہ مولانا محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی دامت فیوضہم جو ”الولد سر لایبہ“ کا کامل صداق ہیں، قلاوی رضویہ کی ۳۰ جلدوں میں تکمیل کے بعد اس کو ایک مکمل سیٹ کی صورت میں بیروت کے انداز پر طبع کرانے کے عظیم کام کی پلاننگ کر رہے تھے، جب فقیر نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا تو صاحبزادہ صاحب نے کمال شفقت و سرپرستی فرماتے ہوئے بلا تاخیر اس کام کو شروع کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔

فوری طور پر استاذ مکرم و مشفق حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالستار سعیدی دامت برکاتہم العالیہ سے ضروری رہنمائی اور ہدایات کے بعد جامعہ سے 20 دن کی چھٹی لے کر متوکلا علی اللہ اس کام کو شروع کر دیا اس اشاریہ کی ترتیب میں استاذی المکرم جامع المعقول والمعتول حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی دامت برکاتہ کی مرتب کردہ قلاوی رضویہ کی 30 جلدوں کی تفصیلی اور اجمالی فہرستوں کو بنیادی حیثیت حاصل رہی لیکن ساتھ ساتھ اصل کتاب سے بھرپور استفادہ کیا۔

اس کام کی ترتیب کے مشکل مراحل بلاشبہ اہل علم و تحقیق پر عیاں ہیں مگر اساتذہ کی دعاؤں کی برکت سے روزانہ نماز فجر سے سات گئے تک نماز و طعام کے وقفہ کے ساتھ روزانہ کی ڈیڑھ اور دو جلدوں کے اشاریہ کی تیاری کے ہدف کے بعد یہ کام 20 دنوں کے مختصر عرصہ میں مکمل ہوا، الحمد للہ علیٰ ذلک۔ اس دوران تمام ذاتی مصروفیات کو کلی طور پر منقطع کرنا ضروری تھا اور اس سلسلے میں میری زوجہ صالحہ ”ام النور“ کا بنیادی کردار ہے کہ جس نے تمام معاملات سے مجھے حتمی طور پر فارغ رکھا اور بھرپور تعاون فرمایا۔ جزاھا اللہ تعالیٰ

دوسرا مشکل مرحلہ اس کی فوری کمپوزنگ اور طباعت کے لئے جلد از جلد تیاری کا تھا جبکہ جامعہ کے شعبہ کمپیوٹر کے انچارج اور انتہائی تخلص و مہربان ساتھی مولانا محمد اکرام اللہ بٹ صاحب اپنی ساری ٹیم کیساتھ قلاوی رضویہ کی مکمل ۳۰ جلدوں کی فہارس کی کمپوزنگ و پروف ریڈنگ کے سلسلے میں گذشتہ تقریباً 2 ماہ سے مشغول تھے چنانچہ فہارس کی جلد سے فراغت کے بعد انہوں نے خود اور ان کے باقی ساتھیوں صاحبزادہ حافظ محمد کاشف جمیل صاحب، مولانا محمد قاسم قادری صاحب اور مولانا محمد شہزاد ہاشمی صاحب نے مسائل قلاوی رضویہ کے اشاریہ کی کمپوزنگ دن رات ایک کر کے بالآخر 5 دن کے مختصر عرصہ میں اس کام کو

فائل پرنٹ کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ مسلسل کام کی تسکین کے بعد ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ضروری تھی، چنانچہ شعبہ کمپیوٹر کے تمام رفقاء کے ہمراہ لکشمی چوک (لاہور) میں دعوت طعام اور پھر حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری، فاتحہ اور اجتماعی دعائے خیر پر یہ کام مجھ پر تعالیٰ بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا۔

میں خاص طور پر استاذی المکرم حضرت مولانا علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے پیش لفظ لکھ کر میری حوصلہ افزائی فرمائی اور استاذی المکرم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صدیق ہزاروی ازہری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے کلمات تحسین تحریر فرما کر میرے ماضی کی یادوں کو انتہائی خوبصورت پیرائے میں تازہ کر کے میرے جذبوں اور حوصلوں کو نئی جلا بخشی۔

اور جانشین مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ محمد عبدالمصطفیٰ ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ نے ہر مرحلہ پر میری سرپرستی فرما کر اسے فوری طور پر فتاویٰ رضویہ کے ساتھ شامل کر کے طبع کرادیا، جو یقیناً ان کی محبت، شفقت، خلوص اور مسلک اہلسنت وجماعت کی ترویج و اشاعت کے کام سے دلی لگن کی بین دلیل اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ سے عقیدت و احترام کا واضح اور منہ بولتا ثبوت ہے۔

جو حضرات اس اشاریہ سے استفادہ فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی حوالہ جات میں غلطی پائیں، ادارہ کو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کی جاسکے۔  
اللہ کریم بوسیدہ سید المرسلین ﷺ اس کام کو مزید تحقیقی و علمی خدمات کا پیش خیمہ فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر میرے لئے ذریعہ نجات فرمائے۔ آمین ثم آمین

حدرہ

ابوالضیاء محمد رمضان سیالوی غفرلہ

جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور

22.03.06



| صفحہ نمبر | فہرست اشاریہ                | صفحہ نمبر | فہرست اشاریہ         |
|-----------|-----------------------------|-----------|----------------------|
| ۲۹        | اقامت                       | ۳         | پیش نظر              |
| ۲۹        | اقرار                       | ۵         | کلمات خیر            |
| ۳۰        | اکراه                       | ۸         | مظروہیں معر          |
| ۳۰        | ایمان الصلوٰۃ               |           | (الف)                |
| ۳۰        | امانت رامين رانات           | ۲۱        | ایمان / ہانا         |
| ۳۱        | امام رامت                   | ۲۱        | اچارہ / اجیر / اجرت  |
| ۳۵        | امکان کذب                   |           | اجتہاد: دیکھئے مجہد  |
| ۳۶        | امر بالمعروف ونہی عن المنکر | ۲۳        | احتمالی تمہر         |
| ۳۶        | انگریز راگریزی              | ۲۳        | احکام                |
| ۳۷        | انگلی، انگشت                | ۲۳        | احرام                |
| ۳۷        | انگوشی، انگوشے              | ۲۳        | احیائے سموات         |
| ۳۸        | انبیاء                      | ۲۳        | ادراک القریحہ        |
|           | انجاس: دیکھئے نجاستیں       | ۲۳        | اذان                 |
|           | انشورس: دیکھئے بیمہ         |           | ارتداد: دیکھئے مرتد  |
| ۳۹        | اولیاء                      | ۲۵        | اسبال ازار           |
| ۴۱        | اوقات نماز                  | ۲۶        | استاذ                |
| ۴۲        | اہل کتاب                    | ۲۶        | استبراء              |
| ۴۲        | ایصال ثواب                  | ۲۶        | استقاء               |
| ۴۳        | ایلاء                       | ۲۶        | اسراف                |
|           | ایمان: دیکھئے قسم           | ۲۶        | اشامب                |
| ۴۳        | ایمان ابوطالب               | ۲۶        | اشاک آکھنچ           |
|           | ( آ )                       | ۲۷        | استحقاق              |
| ۴۳        | آداب دعا و استغفار          | ۲۷        | استحسان              |
| ۴۴        | آریہ                        | ۲۷        | استیجاب              |
| ۴۴        | آمین                        | ۲۷        | استمداد و استعانت    |
| ۴۴        | آئینہ                       |           | اضحیہ: دیکھئے قربانی |
|           | ( ب )                       | ۲۸        | اعکاف / معکف         |
| ۴۴        | بارش                        | ۲۸        | اقاء                 |
|           |                             | ۲۸        | افطار و کھر          |

| صفحہ | فہرست اشاریہ           | صفحہ | فہرست ارشاریہ         |
|------|------------------------|------|-----------------------|
| ۵۶   | تدبیر                  | ۴۴   | بال                   |
| ۵۶   | تراویح                 |      | بائن : دیکھئے صریح    |
| ۵۷   | ترک موالات             | ۴۶   | بدعت                  |
| ۵۷   | تجبہ بالغیر            | ۴۶   | بدگمانی               |
| ۵۷   | تصوف و اخلاق           | ۴۶   | برش                   |
| ۵۹   | تصویر شیخ              | ۴۶   | بلاغت                 |
| ۵۹   | تصویر                  | ۴۷   | بلوغ / بالغ           |
|      | تعزیر..... دیکھئے حدود | ۴۸   | بنک                   |
| ۵۹   | تعزیرت                 | ۴۸   | بوسہ                  |
| ۶۰   | تعزیرتہ                | ۴۹   | بوہرہ                 |
| ۶۰   | تطبیق الطلاق           |      | بیماری : دیکھئے علاج  |
| ۶۰   | تفسیر                  | ۴۹   | بیع / بیوع            |
| ۶۶   | تقدیر                  | ۵۲   | بیعت                  |
| ۶۶   | تقلید                  | ۵۲   | بیمہ                  |
| ۶۶   | تلاوت                  |      | ( پ )                 |
| ۶۷   | تملیک                  | ۵۳   | پانی                  |
| ۶۷   | توارث و تعامل          | ۵۳   | پراویڈنٹ فنڈ          |
| ۶۷   | توبہ و استغفار         |      | پردہ : دیکھئے ستر     |
| ۶۸   | توسل                   |      | پرورش : دیکھئے حضانتہ |
| ۶۹   | توقیت و تعیین          | ۵۳   | پینہ                  |
| ۶۹   | توہین                  | ۵۳   | پیر / مرشد            |
| ۶۹   | تہجد                   | ۵۴   | پیشاب                 |
| ۷۰   | تہمت                   |      | ( ت )                 |
| ۷۰   | تہنیم                  | ۵۵   | تالاب                 |
|      | ( ٹ )                  |      | تاوان : دیکھئے ضمان   |
| ۷۱   | ٹخنے                   | ۵۵   | تھویب                 |
| ۷۱   | ٹوپی                   |      | تجوید : دیکھئے قرأت   |
| ۷۱   | ٹیپ ریکارڈ             |      | تحفہ : دیکھئے ہدیہ    |



| صفحہ نمبر | فہرست اشاریہ                  | صفحہ نمبر | فہرست اشاریہ           |
|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------|
| ۸۴        | چور / چوری                    |           | ( ج )                  |
| ۸۴        | چوہا                          | ۷۲        | جانور                  |
|           | ( ج )                         |           | جواب ..... دیکھئے سوزہ |
| ۸۵        | چج                            | ۷۲        | جرمانہ                 |
|           | چجاب : دیکھئے ستر             | ۷۲        | جماعت                  |
| ۸۶        | چجر                           | ۷۳        | جماع                   |
| ۸۶        | حداد                          | ۷۳        | جمع بین الاقنین        |
| ۸۶        | حدث                           | ۷۳        | جمع بین المصلو تین     |
| ۸۷        | حدود                          | ۷۳        | محمد المبارک           |
| ۸۸        | حدیثیہ فوائد                  | ۷۶        | جناز                   |
| ۹۳        | حرام                          | ۷۷        | جنایات                 |
|           | حربی کافر : دیکھئے کافر       | ۷۷        | جب / جنابت             |
|           | حرمت مصاہرہ : دیکھئے مصاہرت   | ۷۸        | جن / ہمزاد             |
| ۹۸        | حروف                          | ۷۸        | جنس ارض                |
|           | حساب : دیکھئے ریاضی           | ۷۸        | جنون / مجنون           |
| ۹۸        | حضانہ                         | ۷۸        | جبین                   |
| ۹۸        | حک                            | ۷۹        | جوا                    |
| ۹۹        | حقوق                          | ۷۹        | جوتا                   |
|           | حکایت : دیکھئے واقعہ          | ۸۰        | جہاد                   |
| ۹۹        | حکمت                          | ۸۰        | جہاز / جہیز            |
| ۱۱۰       | حلال                          | ۸۰        | جہاز                   |
| ۱۰۰       | حمل                           | ۸۱        | جھوٹا                  |
| ۱۰۱       | حوالہ                         | ۸۱        | جھوٹے خدا              |
| ۱۰۱       | حوض                           |           | ( ج )                  |
| ۱۰۱       | حیف                           | ۸۲        | چاند                   |
| ۱۰۲       | حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم | ۸۲        | چاندی                  |
| ۱۰۲       | حیلہ                          | ۸۳        | چاشت                   |
|           |                               | ۸۳        | چم                     |

| صفحہ | فہرست اشاریہ           | صفحہ | فہرست ارشاریہ  |
|------|------------------------|------|----------------|
| ۱۱۶  | دہ درود                |      | ( خ )          |
| ۱۱۶  | دیت                    | ۱۰۴  | خاک شفاء       |
| ۱۱۶  | دین                    | ۱۰۴  | ختم نبوت       |
|      | ( ڈ )                  | ۱۰۴  | ختنہ           |
| ۱۱۷  | ڈاڑھی                  | ۱۰۵  | خراج           |
| ۱۱۸  | ڈاک خانہ               | ۱۰۵  | خضاب           |
| ۱۱۸  | ڈول                    | ۱۰۵  | خط و کتابت     |
|      | ( ذ )                  | ۱۰۵  | خطبہ           |
| ۱۱۹  | ذبح / ذابح / ذبايح     | ۱۰۶  | خندق           |
| ۱۱۹  | ذکر الہی               | ۱۰۶  | خوشی           |
|      | ذمی کافر : دیکھئے کافر | ۱۰۶  | خنزیر          |
| ۱۲۰  | ذنب                    | ۱۰۶  | خلافت          |
| ۱۲۰  | ذی رحم محرم            | ۱۰۷  | خلع            |
|      | ( ر )                  | ۱۰۷  | خلیفہ بنانا    |
| ۱۲۰  | راضی                   | ۱۰۷  | خواب           |
|      | رہا : دیکھئے سود       | ۱۰۸  | خودکشی         |
| ۱۲۱  | رجعت                   | ۱۰۸  | خیار           |
| ۱۲۱  | رحم                    |      | ( د )          |
| ۱۲۱  | رد بندہ ہاں            | ۱۰۸  | دارالحرب       |
| ۱۲۳  | رد غیر مقلدین          | ۱۰۹  | دارالاسلام     |
| ۱۲۵  | رد شیعہ و روافض        | ۱۰۹  | درود پاک       |
| ۱۲۶  | رد قادیانیت            | ۱۱۱  | دعا / دعائیں   |
| ۱۲۷  | رد نیچریت              | ۱۱۳  | دعوت           |
| ۱۲۷  | رد صوفیاء کذاب         | ۱۱۴  | دعوی           |
| ۱۲۷  | رسم و رواج             | ۱۱۴  | دف             |
| ۱۲۷  | رسم قرآن               | ۱۱۴  | دفن / جائے دفن |
| ۱۲۷  | رشوت                   | ۱۱۵  | دلہن           |
| ۱۲۸  | رضاعت                  | ۱۱۵  | دودھ           |

| صفحہ نمبر | فہرست اشاریہ       | صفحہ نمبر | فہرست اشاریہ        |
|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
| ۱۴۰       | جدہ لعظیمی         | ۱۲۸       | رفیع الدین          |
| ۱۴۱       | جدہ تلاوت          | ۱۲۹       | رقص                 |
| ۱۴۲       | جدہ کبوتر          | ۱۲۹       | رموز                |
| ۱۴۲       | کافور              | ۱۲۹       | روپیہ               |
| ۱۴۲       | سرمہ               | ۱۲۹       | روٹی                |
| ۱۴۲       | سفر / مسافر        | ۱۲۹       | روح                 |
| ۱۴۳       | سلام               | ۱۳۰       | روزہ                |
| ۱۴۳       | سماج               | ۱۳۱       | رویہ حلال           |
| ۱۴۳       | سماج موقی          | ۱۳۱       | رہن                 |
| ۱۴۳       | سنت                | ۱۳۲       | ریاضی و ہندسہ       |
| ۱۴۳       | سند                | ۱۳۳       | ریشم                |
| ۱۴۳       | سنتی               | ۱۳۵       | ریل                 |
| ۱۴۳       | سواری              |           | (ف)                 |
| ۱۴۶       | سود                | ۱۳۳       | زکوٰۃ               |
|           | سور: دیکھئے جھوٹا  | ۱۳۵       | زم زم               |
| ۱۴۹       | سوال / سائل        | ۱۳۵       | زمن                 |
|           | سوک: دیکھئے حداد   | ۱۳۶       | زن                  |
| ۱۴۹       | سونا (Gold)        | ۱۳۶       | زنا / زانی / زانیہ  |
| ۱۵۰       | سیاست              | ۱۳۸       | زوج / زوجہ / زوجیت  |
| ۱۵۱       | سید / سیدہ / سادات | ۱۳۸       | زیارت               |
| ۱۵۱       | سیر                | ۱۳۹       | زینت                |
| ۱۵۲       | سیرت               | ۱۳۹       | زیور / زیورات       |
|           | ..... ش            |           | (ف)                 |
| ۱۵۴       | شبینہ              |           | سائنس: دیکھئے فلسفہ |
| ۱۵۴       | شراب / شرابی       | ۱۳۹       | سایہ                |
| ۱۵۵       | شرب                | ۱۴۰       | سبیل                |
| ۱۵۶       | شرکت               | ۱۴۰       | ستر / حجاب / پردہ   |
| ۱۵۷       | شرط                | ۱۴۰       | سترہ                |
| ۱۵۷       | شکار               | ۱۴۰       |                     |



| صفحہ | فہرست اشاریہ           | صفحہ | فہرست اشاریہ          |
|------|------------------------|------|-----------------------|
| ۱۶۸  | طریقہ                  | ۱۵۷  | شعر                   |
| ۱۶۹  | طلاق                   | ۱۵۸  | شعار                  |
| ۱۷۱  | طواف                   | ۱۵۸  | شفاعت                 |
| ۱۷۱  | طہارت                  | ۱۵۹  | شفقہ                  |
|      | ( ظ )                  | ۱۵۹  | شہادت / گواہی         |
| ۱۷۲  | ظروف                   | ۱۶۱  | شہد                   |
| ۱۷۲  | قلم                    | ۱۶۱  | شہر                   |
| ۱۷۲  | ظہار                   | ۱۶۱  | شہنشاہ                |
| ۱۷۲  | ظہر                    | ۱۶۲  | شہید                  |
|      | ( ع )                  | ۱۶۲  | شیطان                 |
| ۱۷۳  | عاق                    |      | ☆ ..... ص .....       |
| ۱۷۳  | عاریت                  | ۱۶۲  | صابن                  |
|      | عبث : دیکھئے لہو و لعب | ۱۶۲  | صبح صادق و کاذب       |
| ۱۷۳  | عشق / عتاق             | ۱۶۲  | صحابہ                 |
| ۱۷۳  | عدت                    | ۱۶۳  | صدقہ                  |
| ۱۷۵  | عرس                    | ۱۶۳  | صرف                   |
| ۱۷۵  | عرف                    | ۱۶۳  | صریح و بائن           |
| ۱۷۶  | عرفہ                   | ۱۶۳  | صلح                   |
| ۱۷۶  | عروض و قوائی           |      | صلوٰۃ و سلام : دیکھئے |
| ۱۷۶  | عشر                    | ۱۶۵  | صوفیاء                |
| ۱۷۶  | عقائد                  | ۱۶۵  | ضید                   |
| ۱۸۱  | عقیقہ                  |      | ( ض )                 |
| ۱۸۱  | علاج                   | ۱۶۵  | ضحوہ کبریٰ            |
| ۱۸۲  | علم / علماء / تعلیم    | ۱۶۵  | ضروریات دین           |
| ۱۸۳  | عمامہ                  | ۱۶۶  | زمان                  |
| ۱۸۳  | عمرہ                   |      | ( ط )                 |
|      | عملیات : دیکھئے ورد    | ۱۶۷  | طب                    |
| ۱۸۳  | عشیرین                 | ۱۶۷  | طبیعیات               |

| صفحہ | فہرست اشاریہ             | صفحہ | فہرست اشاریہ         |
|------|--------------------------|------|----------------------|
| ۲۰۸  | فوٹوگراف                 | ۱۸۳  | گورت                 |
|      | ( ق )                    | ۱۸۸  | محمد                 |
| ۲۰۸  | قادیانی                  | ۱۸۹  | عیادت                |
| ۲۰۸  | قاضی / قضا               | ۱۸۹  | عیدگاہ               |
| ۲۱۰  | قبر / قبرستان            | ۱۸۹  | عیدین                |
| ۲۱۲  | قلبہ                     | ۱۹۰  | عیسیٰ علیہ السلام    |
| ۲۱۲  | قتل                      |      | ( غ )                |
|      | قدر و قضا : دیکھئے تقدیر | ۱۹۰  | غمن                  |
| ۲۱۳  | قذف                      | ۱۹۰  | غراب                 |
| ۲۱۳  | قرآن کریم                | ۱۹۰  | غروب                 |
| ۲۱۶  | قرأت                     | ۱۹۰  | غسل                  |
| ۲۱۷  | قربانی                   | ۱۹۲  | غیب                  |
|      | قرض : مزید دیکھئے دین    | ۱۹۲  | غیب                  |
| ۲۱۸  | قسم                      | ۱۹۳  | غیبنا مسلم           |
| ۲۱۸  | قسم / یمین               | ۱۹۳  |                      |
| ۲۱۹  | قسمت                     |      | ( ف )                |
| ۲۲۰  | قصاص                     | ۱۹۳  | فاتحہ                |
| ۲۲۰  | قضا                      | ۱۹۳  | فاتح                 |
| ۲۲۰  | قضائے عمری               |      | فتویٰ : دیکھئے افتاء |
|      | قمار : دیکھئے جوا        | ۱۹۷  | فحش گوئی             |
| ۲۲۱  | قتوت                     | ۱۹۷  | فدیہ                 |
| ۲۲۱  | قے                       | ۱۹۷  | فرض                  |
| ۲۲۱  | قیام تعظیمی              |      | فرائض : دیکھئے میراث |
| ۲۲۱  | قیلولہ                   | ۱۹۸  | فضائل و مناقب        |
|      | ( ک )                    | ۲۰۵  | فضولی                |
| ۲۲۳  | کافر / کفر               | ۲۰۶  | فطرانہ               |
| ۲۲۳  | کتا                      | ۲۰۷  | قلندہ                |
| ۲۲۳  | کھجور                    | ۲۰۸  | تفسیر                |

| صفحہ | فہرست اشاریہ           | صفحہ | فہرست ارشاریہ        |
|------|------------------------|------|----------------------|
| ۲۳۲  | مباح                   | ۲۲۲  | کرامت                |
| ۲۳۲  | مباہلہ                 | ۲۲۲  | کریملا               |
| ۲۳۲  | متارکہ                 | ۲۲۵  | کسب                  |
| ۲۳۵  | متعہ                   | ۲۲۵  | کشتی                 |
| ۲۳۵  | مجتہد / اجتہاد         | ۲۲۵  | کفارہ                |
| ۲۳۵  | مجذد                   | ۲۲۵  | کفالتہ / کفالت       |
| ۲۳۵  | مجالس / مجالس          | ۲۲۵  | کفن                  |
|      | مجنون : دیکھئے جنون    | ۲۲۵  | کفو / کفاءة          |
|      | مخافل : دیکھئے مجلس    | ۲۲۷  | کنواں                |
| ۲۳۶  | محراب                  | ۲۲۷  | کنایات               |
| ۲۳۶  | محرمت                  |      | کوا : دیکھئے غراب    |
|      | مداینات : دیکھئے دین   |      | ( گ )                |
| ۲۳۶  | مدرسہ                  | ۲۲۸  | گالی                 |
| ۲۳۷  | مذی                    | ۲۲۸  | گرد                  |
| ۲۳۷  | مردہ / مردہ            | ۲۲۸  | گرہن                 |
|      | مردہ : دیکھئے موت      | ۲۲۸  | گزر                  |
| ۲۳۸  | مرشد                   | ۲۲۸  | گناہ                 |
| ۲۳۸  | مرض / مرض الموت / مریض | ۲۲۹  | گوشت                 |
| ۲۳۹  | مرید                   | ۲۲۹  | گاؤکشی               |
| ۲۳۹  | مزارات                 |      | ( ل )                |
| ۲۴۰  | مزارعہ                 | ۲۲۹  | لباس                 |
| ۲۴۰  | مزامیر                 |      | لحمیہ : دیکھئے ڈاڑھی |
|      | مسافر : دیکھئے سفر     | ۲۲۹  | لعان                 |
| ۲۴۰  | مسبق                   | ۲۳۰  | لغت                  |
| ۲۴۱  | مستحب                  | ۲۳۳  | لقمہ                 |
| ۲۴۱  | مستعمل                 | ۲۳۳  | لگان                 |
| ۲۴۲  | مسجد                   | ۲۳۳  | لہوولعب              |
| ۲۴۶  | مسح                    |      | ( م )                |
| ۲۴۶  | مسواک                  |      |                      |



| صفحہ نمبر | فہرست الفاظ                  | صفحہ نمبر | فہرست الفاظ          |
|-----------|------------------------------|-----------|----------------------|
| ۲۶۰       | موت                          | ۲۴۶       | موت زلی              |
| ۲۶۰       | میراث                        | ۲۴۷       | موت                  |
|           | میت : دیکھئے موت             | ۲۴۷       | مصروف                |
| ۲۶۲       | میراث                        | ۲۴۷       | مصروف / مصروف        |
| ۲۶۵       | میلا                         | ۲۴۸       | مصروف                |
|           | ( ن )                        | ۲۴۸       | مصروف                |
| ۲۶۶       | نافع و ضار                   | ۲۴۸       | مصروف                |
| ۲۶۶       | ناوعلی                       | ۲۴۸       | مصروف                |
| ۲۶۶       | ناخن                         |           | مصروف : دیکھئے مصروف |
| ۲۶۶       | ناف                          |           | مصروف : دیکھئے مصروف |
| ۲۶۶       | نام رکھنا                    | ۲۴۹       | مصروف                |
| ۲۶۶       | نہیز تیر                     | ۲۴۹       | مصروف                |
| ۲۶۷       | نجاتیں                       | ۲۴۹       | مصروف                |
| ۲۶۸       | نحو                          | ۲۴۹       | مصروف                |
| ۲۶۹       | نذر                          | ۲۵۰       | مصروف                |
| ۲۶۹       | نسب                          | ۲۵۲       | مصروف                |
| ۲۷۰       | نصاری / نصرانی               | ۲۵۲       | مصروف                |
| ۲۷۱       | نظر                          | ۲۵۲       | مصروف                |
| ۲۷۱       | نفاں                         | ۲۵۲       | مصروف                |
|           | نفاق ..... دیکھئے منافق      | ۲۵۲       | مصروف                |
| ۲۷۲       | نقہ                          | ۲۵۷       | مصروف                |
| ۲۷۲       | نقشہ                         | ۲۵۸       | مصروف                |
| ۲۷۲       | نکاح                         | ۲۵۸       | مصروف                |
| ۲۷۵       | نماز                         | ۲۵۸       | مصروف                |
| ۲۸۰       | ننگے سر                      |           | مصروف : دیکھئے مصروف |
| ۲۸۰       | نواقض وضو                    | ۲۵۸       | مصروف                |
| ۲۸۱       | نوٹ                          |           | مصروف : دیکھئے مصروف |
| ۲۸۱       | نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم | ۲۵۸       | مصروف                |
| ۲۸۱       | نوافل                        | ۲۶۰       | مصروف / مصروف        |

| صفحہ | فہرست اشاریہ                  | صفحہ | فہرست اشاریہ                |
|------|-------------------------------|------|-----------------------------|
| ۲۹۳  | وعظ / واعظ                    | ۲۸۲  | نہار                        |
| ۲۹۳  | وقف                           | ۲۸۲  | نہر                         |
| ۲۹۵  | وکالت / وکیل                  | ۲۸۲  | نیت                         |
| ۲۹۶  | ولی / ولایت / اولیاء          | ۲۸۲  | نیاز                        |
| ۲۹۸  | ولیمہ                         | ۲۸۲  | نیلام                       |
|      | ( ۵ )                         | ۲۸۳  | نیند                        |
| ۲۹۸  | مہ                            |      | ( ۹ )                       |
| ۳۰۰  | ہدیہ / ہدایا                  | ۲۸۳  | واجب                        |
| ۳۰۱  | ہلال                          | ۲۸۵  | واقعہ                       |
|      | ہمزاد : دیکھئے جن             | ۲۸۸  | والدین                      |
| ۳۰۱  | ہندو                          | ۲۸۹  | وتر                         |
| ۳۰۲  | ہنڈی                          | ۲۸۹  | وجد                         |
| ۳۰۲  | ہجرت                          | ۲۸۹  | وحدۃ الوجود                 |
| ۳۰۳  | ہیت                           |      | وراثت : دیکھئے میراث        |
|      | ( ۷ )                         | ۲۹۰  | ورد / اوراد / وظیفہ / وظائف |
| ۳۰۳  | پارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم | ۲۹۰  | ورزش                        |
| ۳۰۳  | یتیم                          |      | وسیلہ : دیکھئے توسل         |
| ۳۰۳  | یزید                          |      | وصی / وصیت / وصایا          |
|      | یمین : دیکھئے قسم             | ۲۹۱  | وضو                         |
|      | یہود : دیکھئے نصاری           |      | وظائف : دیکھئے ورد          |
|      |                               |      | وعدہ : دیکھئے عہد           |
|      | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆                    |      |                             |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## ﴿الف﴾

ابلیا / ابلیا:

|        |   |                    |
|--------|---|--------------------|
| ۳۶۳۳۵۲ | ۲ | پہلی ہجرت کے احکام |
|--------|---|--------------------|

اجارہ / اجرت / اجیر:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۰۶۵۵۰۰ | ۲  | اجارہ کے کچھ مسائل                         |
| ۵۲۳     | ۲  | مہاجر لانے پر اجیر اور جہاز کا حکم         |
| ۵۲۱     | ۲  | قبر پر قرآن پڑھنے کی اجرت کا حکم           |
| ۷۲۸     | ۲  | کافر کی خدمت گاری کی نوکری                 |
| ۶۲۷     | ۶  | قرآن خوانی کی اجرت                         |
| ۶۳۰     | ۶  | امامت کی تنخواہ کا حکم                     |
| ۶۳۲     | ۷  | ختم قرآن پر اجرت کی ایک صورت               |
| ۹۵      | ۸  | مسجد کے حجرہ میں تعویذ لکھنے کی اجرت لینا  |
| ۲۷۹     | ۹  | ٹکی کی زمین کرایہ پر دینا                  |
| ۶۳۶     | ۹  | تلاوت قرآن پر اجرت                         |
| ۱۷۸     | ۱۱ | مکان کرایہ پر دینے کا ایک مسئلہ            |
| ۲۵۵     | ۱۱ | تکاح خواں کی اجرت کا حکم                   |
| ۲۲۸     | ۱۲ | اشیائے مستصنوعہ معروفہ کو اجرت پر بیوانا   |
| ۵۹۵     | ۱۳ | امامت، اذان اور تعلیم قرآن کی اجرت جائز    |
| ۲۲۲     | ۱۳ | مسلمان مجوسی کے ہاں مزدوری کرے تو حرج نہیں |
| ۱۰۸     | ۱۶ | شریک کا مال مشترک میں اجیر کرنا جائز نہیں  |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۱۷۵     | ۱۶  | اجارہ کی دکان میں اپنے مال کے انشانے کے احکام                |
| ۲۲۹     | ۱۶  | کرایہ اگر شرح سود سے مقرر ہو تو حکم                          |
| ۵۱۱     | ۱۶  | اجارہ کے لئے ایجاب و قبول و تراخی طرفین ضروری ہے             |
| ۲۰۸     | ۱۶  | اجیر خاص کا حکم  |
| ۹۰      | ۱۷  | اجارہ باطلہ کی رقم غصب ہے                                    |
| ۵۵۸     | ۱۸  | امامت کی اجرت جائز ہے  |
| ۷۳۵     | ۱۸  | مستاجر و وقف کی جائیداد کا بڑھا ہوا کرایہ نہ دے تو اجارہ فسخ |
| ۶۰۶۵۲۰۵ | ۱۹  | باب الاجارہ  |
| ۱۸۳     | ۲۰  | اجارہ کی مدت تمام ہونے پر زمیندار کا اختیار                  |
| ۲۰۹     | ۲۰  | اجارہ فاسد کی ایک صورت                                       |
| ۳۰۷     | ۲۰  | ذبح و قطع کی اجرت جائز                                       |
| ۲۲۹     | ۲۰  | قربانی کا گوشت قصاب کو اجرت میں دیا تو حرام                  |
| ۵۸۶     | ۲۰  | گوشت بنانے کی اجرت مجرا کرنے کی ایک صورت                     |
| ۱۱۳     | ۲۱  | تلقین اسلام پر اجرت لینا گناہ ہے                             |
| ۳۱۸     | ۲۱  | اجرت مجہول میں اجارہ کا حکم                                  |
| ۱۸۷     | ۲۱  | معاصی پر اجارہ جائز نہیں                                     |
| ۳۲۳     | ۲۱  | موقوفہ زمین کو اجارہ پر دینے کا حکم                          |
| ۱۰۶     | ۲۳  | تھیٹر تماشے کی اجرت حرام                                     |
| ۵۳۷     | ۲۳  | تلاوت قرآن کی اجرت حرام                                      |
| ۵۰۲     | ۲۳  | امامت پر اجرت لینا حلال ہے                                   |
| ۱۷۹     | ۲۳  | مزدور کا گرجے کی تعمیر کے لئے کام کرنا                       |
| ۵۵      | ۲۷  | سواری کا کرایہ رہ جائے تو حکم                                |

| صفحہ | جلد | موضوع  |
|------|-----|--|
| ۲۲۱  | ۲۵  | مکان مردوں کو مرتحن سے کرایہ لینا منع        |
| ۲۲۷  | ۲۵  | مردوں کے شے کا اجارہ مرتحن کی اجازت پر موقوف |
| ۲۵۹  | ۲۵  | اجرت معمول تو اجارہ حرام                     |

اجتہاد:

دیکھئے مجہد:

احتیاطی نظریہ:

|          |    |                                  |
|----------|----|----------------------------------|
| ۳۵۴، ۲۹۴ | ۸  | احتیاطی نظریہ سے کا طریقہ        |
| ۳۶۵      | ۸  | احتیاطی نظریہ عوام کے لئے نہیں   |
| ۳۹۸      | ۸  | احتیاطی نظریہ کہاں منع ہے        |
| ۳۶۲      | ۸  | احتیاطی نظریہ خواہش کے لئے ہے    |
| ۲۰۵      | ۲۹ | جموع کے بعد احتیاطی نظریہ کا حکم |

احکام:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۱۸۱ | ۴  | مسجد میں احکام ہو تو کیا کرے         |
| ۲۵۲ | ۴  | عورت کو احکام                        |
| ۳۲۴ | ۴  | بغیر ثبوت کے احکام کا حکم            |
| ۶۴۸ | ۶  | کثرت احکام کا حکم                    |
| ۱۵۵ | ۱۵ | انبیاء علیہم السلام احکام سے پاک ہیں |

احرام:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۶۱  | ۲  | احرام کا غسل                         |
| ۱۸۳ | ۳  | حالت احرام میں زعفران کے پانی سے غسل |
| ۷۳۱ | ۱۰ | احرام اور اس کے احکام                |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                           |
|------|-----|---------------------------------------|
| ۷۷۸  | ۱۰  | احرام کی کیفیت                        |
| ۷۸۱  | ۱۰  | احرام کا مسنون طریقہ                  |
| ۶۳۱  | ۲۲  | احرام باندھے زبور کو قتل کرنے کا حکم  |
| ۶۵۷  | ۲۲  | عورت کے لئے احرام سے نکلنے میں قصر ہے |

## احیائے موات:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۴۸۰ | ۲  | خود روگھاس کا حکم                           |
| ۴۹۵ | ۲  | مباح شے پر قبضے کی نو صورتیں                |
| ۴۹۶ | ۲  | مباح چیز پر قبضے کے لئے وکیل کا حکم         |
| ۵۰۰ | ۲  | بلا اجرت مباح چیز منگوانے کی تین صورتیں     |
| ۴۸۶ | ۳  | سرکاری زمین میں کنواں کھودنے کا مسئلہ       |
| ۱۸۰ | ۲۰ | سلطانی زمین میں حق استقرار ملنے کی ایک صورت |

## ادارک الفریضہ:

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| ۱۳۹۵۱۲۹ | ۸ | باب ادراک الفریضہ |
|---------|---|-------------------|

## اذان:

|         |   |                                 |
|---------|---|---------------------------------|
| ۶۷۶۳۶۱  | ۵ | باب الاذان                      |
| ۶۷۶۳۶۵۳ | ۵ | اذانِ قبر                       |
| ۱۹۳     | ۷ | جماعتِ ثانیہ کے لئے اذان کا حکم |
| ۱۹۶     | ۷ | اذان کے بعد انتظار کا حکم       |
| ۴۰۲     | ۸ | اذانِ جمعہ                      |
| ۴۶۸     | ۸ | اذانِ خطبہ                      |
| ۵۰۴۳۹۷  | ۸ | اذانِ ثانی جمعہ                 |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                 |
|---------|-----|---|
| ۱۶۳     | ۹   | قبر پر اذان کا حکم                          |
| ۳۸۵     | ۱۱  | الاذان جمعہ کی بیخ                          |
| ۵۹۵     | ۱۳  | اذان پر اجرت جائز                           |
| ۲۳۰     | ۱۶  | جو امام نماز اذان دے نہ دینے دے، وہ قاسم ہے |
| ۲۱۵     | ۲۱  | اذان سے استہزاء کفر ہے۔                     |
| ۲۲۳     | ۲۲  | عورت کو اذان دینا جائز نہیں                 |
| ۳۷۳     | ۲۳  | قبر پر اذان                                 |
| ۱۷۴     | ۲۳  | آفت کے وقت اذان جائز                        |
| ۳۷۹۶۳۷۲ | ۲۳  | رفضیوں کی اذان سننے کا تفصیلی حکم           |
| ۶۰۴     | ۲۳  | اذان جمعہ کے وقت تجارت مکروہ تحریمی         |
| ۳۵۲     | ۲۳  | بچے کے کان میں اذان                         |
| ۳۵۳۶۵۳  | ۲۸  | خطبہ جمعہ کی اذان کا تفصیلی بیان            |
| ۳۱۹     | ۲۸  | مقام مؤذن کی صحیح تعیین                     |
| ۲۸۳     | ۲۹  | اذان میں انگوٹھے چومنا                      |
| ۲۱۳     | ۳۰  | حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی محشر میں اذان     |

ارتداد :

دیکھئے مرتد:

اسبال ازار

|          |    |                            |
|----------|----|----------------------------|
| ۳۷۶      | ۲۱ | اسبال ازار اور اس کے احکام |
| ۱۶۶، ۱۶۳ | ۲۲ | اسبال ازار اور اس کے احکام |
| ۹۷       | ۲۳ | اسبال ازار اور اس کے احکام |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

استاذ :

|     |    |                                     |
|-----|----|-------------------------------------|
| ۵۲۷ | ۲  | استاذ کی خدمت لینے کی حدود          |
| ۴۵۱ | ۱۹ | استاذ کا مقام                       |
| ۴۵۱ | ۱۹ | استاذ کا حق                         |
| ۶۳۸ | ۲۳ | استاذ کا حق                         |
| ۶۵۲ | ۲۳ | استاذ کے شاگرد کو سزا دینے کی شرائط |
| ۳۶۵ | ۲۳ | اساتذہ کے حقوق کا بیان              |

استبراء:

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| ۶۰۱ | ۳ | استبراء کا حکم |
|-----|---|----------------|

استسقاء:

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| ۶۳۱ | ۸ | باب الاستسقاء |
|-----|---|---------------|

اسراف :

|     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| ۹۲۶ | ۱ | اسراف کا معنی اور تفصیل |
|-----|---|-------------------------|

اشامپ:

|     |    |                                    |
|-----|----|------------------------------------|
| ۱۳۳ | ۱۷ | اشامپ کی بیع                       |
| ۱۳۸ | ۱۷ | اشامپ کی خریداری کی چھ جائز صورتیں |
| ۶۳۹ | ۱۷ | اشامپ کی بیع مکروہ                 |
| ۲۱۸ | ۱۸ | اشامپ سادہ کے احکام                |

اشاک آپہنچ:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۶۲ | ۱۷ | کمپنی کے حصص کی بیع و شراء (اشاک آپہنچ) کا حکم |
|-----|----|--|

|      |     |       |
|------|-----|-------|
| صفحہ | جلد | موضوع |
|------|-----|-------|

انتخابات:

|         |    |                 |
|---------|----|-----------------|
| ۵۶۶۵۵۶۲ | ۱۷ | انتخابات کا باب |
|---------|----|-----------------|

اصناف:

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| ۶۰۰۵۵۹۷ | ۱۷ | اصناف کا باب |
|---------|----|--------------|

استنجاہ:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۳۳۰     | ۱  | استنجاہ کے بعد پانی کا استعمال                |
| ۳۳۱     | ۱  | بوسے استنجاہ کا طریقہ                         |
| ۵۹۵     | ۱  | مقدار آب استنجاہ مختلف ہے                     |
| ۶۶۷     | ۱  | حیرک انگیزی کو وقت استنجاہ تاڑے               |
| ۳۸      | ۲  | استنجاہ سے بچے ہوئے پانی سے وضو کا حکم        |
| ۲۷۳     | ۲  | دھواں کے چشم دیتے ہوئے پانی سے استنجاہ کا حکم |
| ۴۵۳     | ۲  | ذمیلے سے استنجاہ کا عمل طہارت ہے              |
| ۲۷۲     | ۳  | ذمیلے سے استنجاہ کا عمل طہارت ہے              |
| ۶۱۰۵۷۷۵ | ۴  | باب الاستنجاہ                                 |
| ۵۹۹     | ۴  | استنجاہ کا نذر سے                             |
| ۱۲۱     | ۹  | استنجاہ آب زرم زم سے                          |
| ۴۸۱     | ۱۰ | پانی سے استنجاہ کرنے میں ریح خارج ہو          |
| ۶۴۹     | ۲۲ | کسی جانور کی لید یا ہڈی سے استنجاہ منع ہے     |
| ۶۸۰     | ۲۳ | کس طرح استنجاہ کرنا روزے کو توڑتا ہے          |

استمداد / استعانت:

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| ۳۳۱۵۳۰۱ | ۲۱ | محبوبان خدا سے استمداد کا تفصیلی بیان |
|---------|----|---------------------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                      |
|------|-----|----------------------------------|
| ۳۱۹  | ۲۱  | استعانت کے جواز کی تصانیف کے نام |

اضحیہ:

دیکھئے قربانی:

اعتکاف / معتکف:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۴۷۹ | ۳  | غیر معتکف کا مسجد میں سونا              |
| ۶۰  | ۸  | معتکف کا مسجد کے صحن میں آنا جانا       |
| ۹۲  | ۸  | معتکف کا مسجد میں سونا                  |
| ۹۶  | ۸  | معتکف مسجد میں احتیاط سے کھائے          |
| ۶۵۳ | ۱۰ | رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف            |
| ۷۶۸ | ۱۰ | ہر مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے           |
| ۸۲۷ | ۱۰ | ہمیشہ مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے        |
| ۲۸۸ | ۱۶ | غیر معتکف مسجد میں اخراجِ ریح نہ کرے    |
| ۳۱۳ | ۱۶ | معتکف کو تجارت کے لئے بیع و شراء منع ہے |
| ۴۳۳ | ۱۶ | غیر معتکف کو مسجد میں سونا منع ہے       |
| ۳۷۵ | ۲۳ | بے اعتکاف مسجد میں سونا منع ہے          |

افتاء:

|         |    |                                    |
|---------|----|------------------------------------|
| ۲۳۹۵۱۰۳ | ۱  | ہر مسئلہ میں فتویٰ قولِ امام پر ہے |
| ۱۳۹     | ۲۸ | قولِ مرجوح پر فتویٰ کا حکم         |
| ۶۸۰     | ۲۸ | چند غلط فتوؤں کی نشاندہی           |

افطار و سحر:

|         |    |                     |
|---------|----|---------------------|
| ۶۳۳۵۵۶۱ | ۱۰ | افطار و سحر کا بیان |
|---------|----|---------------------|



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## اقامت :

|         |   |                                       |
|---------|---|---------------------------------------|
| ۱۵۶     | ۵ | جماعت کا یہ کے لئے اقامت میں حرج نہیں |
| ۶۵۰۵۶۲۹ | ۵ | اقامت میں انگوٹھے چومنا               |
| ۴۹۸     | ۸ | اقامت مسجد میں ہوگی                   |

## اقرار :

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۱۲۳     | ۱۱ | میرداد اقرار زوجیت کا حکم                        |
| ۱۳۰     | ۱۱ | اقرار نکاح کی صورت                               |
| ۱۷۷     | ۱۱ | اقرار کی تہریف                                   |
| ۳۳۶۶۳۳۳ | ۱۱ | اقرار زنا کا مسئلہ                               |
| ۳۳۷     | ۱۱ | میرداد اقرار سے نکلا جاتا ہے                     |
| ۵۷۲     | ۱۱ | اقرار سے انکار کا حکم                            |
| ۴۰۰     | ۱۲ | اقرار طلاق کا حکم                                |
| ۶۰۸     | ۱۲ | عطا کی طلاق اقرار شوہر پر موقوف                  |
| ۴۱۶     | ۱۳ | اقرار حمل زنا سے                                 |
| ۴۵۷     | ۱۳ | منکوحہ کی ماں سے اقرار زنا                       |
| ۸۲      | ۱۷ | اقرار پینہ سے قوی حجت ہے                         |
| ۸۲      | ۱۷ | غائب منسوب میں مالک کی ملکیت کا اقرار کرے تو حکم |
| ۴۸۳     | ۱۸ | اقرار کا قاعدہ کلیہ                              |
| ۵۸۴     | ۱۸ | اقرار اور دعویٰ کا فرق                           |
| ۱۸۳     | ۱۸ | ساز سے زنا کا اقرار پھر انکار کا حکم             |
| ۲۲۲     | ۱۸ | جھوٹے اقرار کا حکم                               |

| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ                        |
|--------|-----|------------------------------------|
| ۳۱۶    | ۱۸  | اپنا اقرار قابل مؤاخذہ ہے          |
| ۶۷۲    | ۱۸  | اقرار کے بعد خطا کا دعویٰ مردود ہے |
| ۱۱۷۶۹۷ | ۱۹  | باب الاقرار                        |
| ۳۲۹    | ۲۵  | اقرار ہر حال میں تسلیم ہوگا        |
| ۵۰۰    | ۲۵  | اقرار کا ذب باطل ہے                |
| ۵۷۲    | ۲۵  | زیور میں عورت کے اقرار کا حکم      |

اکراہ:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۳۸۵     | ۱۲ | اکراہ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے                   |
| ۳۷۹     | ۱۲ | شوہر سے جبراً طلاق کب درست ہے                   |
| ۵۷۱     | ۱۲ | بعد طلاق بائن عورت پر نکاح ثانی کے لئے جبر نہیں |
| ۵۸۰     | ۱۲ | مکرہ کے تمام تصرفات لازم                        |
| ۲۱۸     | ۱۷ | لوگوں کے اصرار پر مجبوری اکراہ شرعی نہیں        |
| ۶۱۳۵۶۰۹ | ۱۹ | باب الاکراہ                                     |

اماکن الصلوٰۃ:

|         |   |                      |
|---------|---|----------------------|
| ۳۵۸۵۳۳۳ | ۵ | فصل فی اماکن الصلوٰۃ |
|---------|---|----------------------|

امانت / امین:

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| ۲۲۰     | ۱۲ | امین ضامن ہے جبکہ تعدی کرے          |
| ۳۸۹     | ۱۶ | امانت کا اپنے صرفہ میں لانا حرام ہے |
| ۱۰۲     | ۱۷ | قبضہ امانت کی ایک صورت کا بیان      |
| ۳۱۱     | ۱۸ | امانت استہلاک کے بعد غصب ہو جاتی ہے |
| ۱۷۱۵۱۵۳ | ۱۹ | باب الامانات                        |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۶۳۶  | ۲۵  | امین، امانت کی رقم کو درگاہ کی موجودگی میں از خود خیرات نہ کرے |
| ۳۳۳  | ۲۵  | امانت میں وصیت   |
| ۴۴۸  | ۲۵  | زیور امانت ہو تو شہادت عادلہ پر موقوف ہے                       |
| ۹۳   | ۲۹  | امانت میں خیانت جائز نہیں                                      |

### امام / امانت:

|            |   |  |
|------------|---|--|
| ۴۲۵        | ۳ | قاضی معین کی امانت                                     |
| ۴۲۶        | ۳ | عیدین کی امانت کون کرے                                 |
| ۲۷۸        | ۵ | حدیث امانت و جبرائیل                                   |
| ۳۶۴        | ۵ | امام کے انتظار کا حکم                                  |
| ۲۰۴ تا ۱۹۰ | ۶ | سلام کے بعد امام کیسے بیٹھے                            |
| ۶۴۷ تا ۳۷۹ | ۶ | باب الامتہ   |
| ۳۷         | ۷ | امام مسجد میں کہاں کھڑا ہو                             |
| ۵۲         | ۷ | مقتدی کی التحیات پورا کرنے سے پہلے امام کھڑا ہو تو حکم |
| ۶۰         | ۷ | امام کے ساتھ دوسرا مقتدی آئے تو کیا کرے                |
| ۱۳۱        | ۷ | امام کے انتظار کا حکم                                  |
| ۱۳۸        | ۷ | امام کے ساتھ دوسرا مقتدی آئے تو کیا کرے                |
| ۱۴۰        | ۷ | امام اور جماعت کے درمیان فاصلہ                         |
| ۱۵۱        | ۷ | امام آمین بالجبر کرے تو حنفی کیا کرے                   |
| ۱۷۲        | ۷ | امام کہاں کھڑا ہو                                      |
| ۱۹۷        | ۷ | امام کا وضو ٹوٹے تو باہر کیسے آئے                      |
| ۲۰۱        | ۷ | امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو حکم                       |
| ۲۰۵        | ۷ | امام کے انتظار میں تاخیر جماعت کا حکم                  |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|----------|-----|---|
| ۲۱۸      | ۷   | امام کے لئے مصیبتی کا حکم                       |
| ۲۲۹      | ۷   | امام پر مقتدی کا حکم نہیں                       |
| ۱۱۶      | ۷   | حنفی مقتدی کے شافعی امام کی اقتداء کی شرائط     |
| ۲۲۹      | ۷   | امام کا وضو جاتا رہے تو کیا کرے                 |
| ۲۵۰      | ۷   | امام امی کو خلیفہ کرے اس نے دوسرے کو کیا تو حکم |
| ۲۸۲، ۲۵۹ | ۸   | جمعہ، عیدین، کسوف کا امام کیسا ہو               |
| ۲۹۹      | ۸   | امام میں شرعی عیب ہو تو حکم                     |
| ۲۰۲      | ۸   | شافعی امام کے پیچھے حنفی کی اقتداء              |
| ۵۶۷      | ۸   | جمعہ، عیدین اور نماز پنجگانہ کی امامت میں فرق   |
| ۵۸۳      | ۸   | عید پڑھنے والا عید کا امام نہ ہوگا              |
| ۱۷۳      | ۹   | رافضی کی نماز جنازہ پڑھانے والے کی امامت        |
| ۲۰۲      | ۹   | سرکار کے جنازہ میں امامت نہ ہونے کی حکمت        |
| ۲۰۵      | ۹   | وہابی رافضی کی امامت                            |
| ۲۰۳      | ۱۰  | کلاہ پوش کے پیچھے عمامہ والے کی امامت           |
| ۲۰۵      | ۱۰  | ناذر مفترض کی اقتداء نہ کرے                     |
| ۲۰۷      | ۱۰  | نابالغوں کی امامت                               |
| ۲۹۱      | ۱۰  | امام کے لئے زکوٰۃ، حرم قربانی لینے کا حکم       |
| ۲۲۰، ۲۳۹ | ۱۱  | امام فاسق معلن ہو تو حکم                        |
| ۲۶۶      | ۱۱  | معتدہ کا نکاح پڑھانے والے کی امامت کا حکم       |
| ۲۳۳      | ۱۱  | فاسق معلن کی امامت                              |
| ۱۹۰      | ۱۱  | جاہل کی امامت کا حکم                            |
| ۲۶۲      | ۱۲  | فاسق کی امامت                                   |



| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                                       |
|----------|-----|---|
| ۴۶۲      | ۱۲  | تاریخ مکوہ غیر کی امامت                           |
| ۵۹۵      | ۱۳  | امامت پر اجرت جائز                                |
| ۶۵۲      | ۱۳  | فاسق معین کی امامت                                |
| ۴۵۴      | ۱۳  | والدین کی خدمت نہ کرنے والے کی امامت              |
| ۱۲۲      | ۱۳  | امامت کبریٰ کی شرط                                |
| ۲۵۳      | ۱۳  | کون امامت کا اہل نہیں                             |
| ۲۹۴      | ۱۳  | امامت بدعتی کا حکم                                |
| ۳۱۸      | ۱۳  | فاسق معین کون ہے اور اس کی امامت کا حکم           |
| ۱۳۹      | ۱۵  | فاسق ناقابل امامت                                 |
| ۴۴۶      | ۱۵  | فاسق کی امامت                                     |
| ۳۲۳      | ۱۶  | امامت کی نیابت کی تفصیل                           |
| ۳۶۱      | ۱۶  | فاسق کی امامت ناجائز                              |
| ۴۱۸      | ۱۶  | امام مسجد کی صفات                                 |
| ۴۷۷، ۴۵۷ | ۱۶  | جو لائق امامت نہیں اس کو معزول کر دیا جائے        |
| ۵۸۱      | ۱۶  | فاسق معین کی امامت                                |
| ۵۹۶      | ۱۶  | امام کی بکراہت اقتداء درست ہے                     |
| ۵۸۱، ۵۶۷ | ۱۶  | مفضول افضل کی امامت کرا سکتا ہے                   |
| ۲۶۹      | ۱۷  | سود خور کی امامت                                  |
| ۳۳۲      | ۱۸  | امام کے قعدہ اولیٰ میں بھول کر کھڑا ہونے کا مسئلہ |
| ۵۵۸      | ۱۸  | امامت کی اجرت جائز ہے                             |
| ۶۲۳      | ۱۸  | امامت فاسق معین                                   |
| ۵۲۱، ۵۰۲ | ۱۹  | امامت پر اجرت کا حکم                              |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۲۸۳  | ۱۹  | فاسق کی امامت   |
| ۱۶۹  | ۲۱  | حق کے مقابل باطل کی اعانت کرنے والے کی امامت کا حکم     |
| ۲۷۷  | ۲۱  | مشرک کی تعظیم کرنے والے امام کی امامت کا حکم            |
| ۲۷۸  | ۲۱  | بد مذہبوں کی مجلس رکھنے والے امام کی امامت کا حکم       |
| ۲۸۳  | ۲۱  | بد مذہبوں کی تکفیر نہ کرنے والے امام کی امامت کا حکم    |
| ۶۱۲  | ۲۱  | سورکا گوشت پکا کر غیر مسلموں کو کھلانے والے امام کا حکم |
| ۶۱۵  | ۲۱  | عہدہ امامت قابل نفرت لوگوں کو نہ دیا جائے               |
| ۱۶۹  | ۲۱  | جھوٹی گواہی دینے والے کی امامت ناجائز                   |
| ۲۸۳  | ۲۱  | دیوبندیوں کو کافر نہ کہنے والے کی امامت کی تفصیل        |
| ۲۵۶  | ۲۱  | پانچ ائمہ جن کی امامت کبریٰ پر اجماع                    |
| ۱۳۰  | ۲۲  | مسجد میں امام کے لئے پاؤں دبوانے کا حکم                 |
| ۲۱۲  | ۲۲  | بد مذہب امامت کے اہل نہیں                               |
| ۲۱۲  | ۲۲  | فاسق کی امامت ممنوع ہے                                  |
| ۹۵   | ۲۳  | عورت ساتھ لے کر پھرنے والے کی امامت کا حکم              |
| ۹۶   | ۲۳  | غیر سنی اگر سنیوں کی مسجد میں امامت کرائے تو حکم        |
| ۹۷   | ۲۳  | جاہل امام بنے تو حکم                                    |
| ۹۸   | ۲۳  | ولد الزناء کی امامت                                     |
| ۹۸   | ۲۳  | فاسق معلن کی امامت                                      |
| ۹۸   | ۲۳  | جھوٹی تہمت لگانے والے کی امامت                          |
| ۱۰۲  | ۲۳  | جھوٹی گواہی دینے والے کی امامت                          |
| ۱۰۲  | ۲۳  | غیر سید اگر سید ہونا ظاہر کرے تو اس کی امامت            |
| ۱۰۳  | ۲۳  | سود خور کی امامت  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۱۹۱  | ۲۳  | کفر حرام سے پیدا ہونے والے کی امامت                          |
| ۲۰۰  | ۲۳  | باپ کے غیر کی طرف منسوب کرنے والے کی امامت                   |
| ۲۰۶  | ۲۳  | امامت منفری میں شرف نسب کا حکم                               |
| ۲۰۶  | ۲۳  | حق بالاملتہ کون  |
| ۲۹۹  | ۲۳  | حاشی کی امامت  |
| ۷۲۶  | ۲۳  | حاشی کو امام بنانے والے بھی گناہگار                          |
| ۱۱۲  | ۲۳  | چوری یا جوئے کے مال پر ختم پڑھ کر کھانے والے کی امامت منع ہے |
| ۲۰۰  | ۲۳  | باپ کے غیر کی طرف نسب کو منسوب کرنے والے کی امامت کا حکم     |
| ۲۰۶  | ۲۳  | امامت کبریٰ قریش کے ساتھ خاص ہے                              |
| ۳۳۳  | ۲۳  | طلد الزنماء کی امامت   |
| ۳۳۳  | ۲۳  | مشککین کی امامت کا حکم                                       |
| ۵۰۲  | ۲۳  | امامت پر اجرت حلال   |
| ۵۳۰  | ۲۳  | امام کا عراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے                          |
| ۳۳۳  | ۲۳  | امامت کا زیادہ حق دار کون                                    |
| ۲۰۵  | ۲۳  | ماں کے گستاخ اور کاذب و سارق کی امامت کا حکم                 |
| ۳۳۰  | ۲۶  | امامت سے مراد کیا ہے   |
| ۱۹۳  | ۲۹  | غیر مقلدین کے پیچھے نماز کا حکم                              |
| ۲۱۹  | ۲۹  | مکر میلاد وغیرہ کے پیچھے نماز کا حکم                         |
| ۲۶۷  | ۲۹  | مرتد کے پیچھے نماز کیسی                                      |

امکان کذب :

|        |    |                                  |
|--------|----|----------------------------------|
| ۵۲۷۳۱۱ | ۱۵ | امکان کذب باری تعالیٰ کا رد بلوغ |
|--------|----|----------------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## امر بالمعروف ونہی عن المنکر :

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۱۱۷      | ۵  | امر بالمعروف ونہی عن المنکر فرض ہے                      |
| ۱۰۹      | ۱۱ | امر بالمعروف ونہی عن المنکر امور اسلام سے ہے            |
| ۱۱۰      | ۱۱ | امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لئے ایک حد ہے            |
| ۳۷۶      | ۱۳ | امر بالمعروف احتمال پر کرے                              |
| ۲۱۱      | ۲۲ | امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے ترک کا زوال              |
| ۶۸۱      | ۲۳ | نہی عن المنکر فرض ہے مگر.....                           |
| ۷۳۳      | ۲۳ | امر بالمعروف کا اجر اور برائی کی طرف بلانے والے کا وبال |
| ۱۶۰      | ۲۳ | امر بالمعروف کب واجب کب غیر واجب                        |
| ۱۶۷، ۱۷۵ | ۲۳ | امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا تفصیلی بیان              |

## انگریز / انگریزی :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۱۹ | ۲۱ | انگریزوں کے ملک کے بند ڈبوں کی اشیاء کا حکم         |
| ۹۸  | ۲۳ | انگریزی وضع کے بوٹوں کا حکم                         |
| ۱۰۰ | ۲۳ | انگریزی طرز کے بال رکھنے کا حکم                     |
| ۵۹۸ | ۲۳ | انگریزی اور سودی کمپنی کے ذریعے سفر حج کرنا         |
| ۳۹۷ | ۲۳ | انگریزی قلم سے تعویذ لکھنے کا حکم                   |
| ۵۳۳ | ۲۳ | انگریزی پڑھنے کی جائز صورت                          |
| ۷۱۰ | ۲۳ | انگریزی اور جائز فنون نوکری کے لئے جائز             |
| ۵۳۶ | ۲۳ | انگریز کے ساتھ رہنے والی مسلمان عورت کی توبہ کا حکم |
| ۵۳۲ | ۲۳ | انگریزی ٹوپی، جیکٹ، پتلون کا حکم                    |
| ۵۳۵ | ۲۳ | انگریزی لباس اور انگریزی فیشن کے بال کا حکم         |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                         |
|------|-----|-------------------------------------|
| ۲۰۹  | ۲۵  | انگریزی رقیق دوا کپڑے پر لگے تو حکم |

انگلی / انگشت :

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۱۰۲۱     | ۱  | نماز اور غیر نماز میں انگلیاں ہٹانے کے احکام |
| ۱۸۷، ۱۳۹ | ۶  | التحیات میں انگشت کے اشارہ کا ثبوت           |
| ۲۰۸      | ۷  | انگشت شہادت سے اشارے کی حکمت                 |
| ۱۹۰      | ۶  | التحیات میں اشارہ کرنے کا طریقہ              |
| ۲۲۰      | ۱۵ | نماز میں اشارہ انگلی                         |

انگوٹھی / انگوٹھے :

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۸۹۶، ۲۸۵ | ۱  | وضو میں انگوٹھی کا حکم                          |
| ۸۹۶      | ۱  | حبرک انگوٹھی بوقت استنجاء اتار لے               |
| ۵۸۱      | ۴  | انگوٹھی پر اسماء ہوں تو اتار کر بیت الخلاء جائے |
| ۴۱۵، ۴۱۴ | ۵  | انگوٹھے چومنا                                   |
| ۴۲۹      | ۵  | انگوٹھے چومنے پر مستقل رسالہ                    |
| ۴۳۳      | ۵  | انگوٹھے چومنے کے تین طریقے                      |
| ۴۳۵      | ۵  | انگوٹھے چومنے کا ثبوت                           |
| ۶۲۹      | ۵  | اقامت میں انگوٹھے چومنے کا ثبوت                 |
| ۱۴۱      | ۲۲ | انگوٹھی کے ٹک میں سونے کی کیل کا حکم            |
| ۱۴۱      | ۲۲ | مرد کے لئے کیسی انگوٹھی جائز اور کیسی ناجائز    |
| ۳۱۶      | ۲۲ | انگوٹھے چومنے کا ایک ناپسندیدہ طریقہ            |
| ۳۹۲      | ۲۳ | سرکار کی انگوٹھی کا نقشہ                        |
| ۵۱۰      | ۲۳ | اذان سن کر انگوٹھے چومنا                        |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                        |
|------|-----|------------------------------------|
| ۵۱۰  | ۲۳  | آیت سن کراگوٹھے چومنا ناجائز       |
| ۵۲۲  | ۲۳  | مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی کا وزن |
| ۵۲۵  | ۲۳  | مرد انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہنے   |
| ۲۸۳  | ۲۹  | اذان میں انگوٹھے چومنا             |

## انبیاء:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۵۷۲      | ۱  | انبیاء کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا         |
| ۵۷۸      | ۱  | انبیاء کے وضو میں مصنف کی تحقیق          |
| ۱۰۵۰     | ۱  | ۱۰ چیزیں سنتِ انبیاء ہیں                 |
| ۹۱       | ۲  | انبیاء کے وضو و غسل جنابت کے پانی کا حکم |
| ۲۷۷      | ۲  | ناقہ صالح علیہ السلام کا کنواں           |
| ۵۹۵      | ۲  | سرکار ﷺ کا غسل                           |
| ۴۰۳      | ۳  | انبیاء کی حیات                           |
| ۳۷۵      | ۵  | آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ            |
| ۳۷۲      | ۵  | سرکار ﷺ کی اذان                          |
| ۲۳۱      | ۹  | انبیاء زندہ                              |
| ۲۳۲      | ۹  | سرکار کا سایہ نہ تھا                     |
| ۲۹۶      | ۹  | تعظیم انبیاء                             |
| ۹۰۷      | ۹  | انبیاء کے بدن                            |
| ۹۰۸      | ۹  | انبیاء زندہ                              |
| ۸۰۶، ۷۲۳ | ۱۰ | انبیاء زندہ                              |
| ۶۸۵      | ۱۳ | انبیاء زندہ                              |
| ۱۵۵      | ۱۵ | انبیاء احلام سے پاک ہیں                  |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۵۲۰  | ۲۲  | انبیاء قبل ممنوع نہیں کرتے                      |
| ۲۰۶  | ۲۲  | انبیاء مصوم ہیں                                 |
| ۳۶۶  | ۲۸  | انبیاء کے سردار سرکار ہیں                       |
| ۹۲   | ۲۹  | انبیاء کے لئے عظم غیب کا ثبوت                   |
| ۱۱۰  | ۲۹  | حیات انبیاء کے مگر کا حکم                       |
| ۲۳۰  | ۲۹  | انبیاء کے امام الا انبیاء پر ایمان لانے کی حکمت |
| ۳۳۳  | ۲۹  | انبیاء مصوم ہیں                                 |
| ۳۳۴  | ۲۹  | انبیاء کی سب دعائیں مقبول ہیں                   |
| ۶۳۷  | ۲۹  | چار نبی بے مرض موت زعمہ ہیں                     |
| ۲۳۸  | ۳۰  | انبیاء کی امامت کی احادیث                       |

انجاس:

دیکھئے نجاستیں:

انشورس:

دیکھئے پیر:

اولیاء:

|         |   |                                  |
|---------|---|----------------------------------|
| ۶۲      | ۲ | اولیاء کی نیاز کا کھانا          |
| ۶۳      | ۲ | اولیاء کی نظر                    |
| ۲۵۶     | ۳ | اولیاء کی نیاز                   |
| ۵۹۷     | ۷ | اولیاء کا خشوع بارگاہ سرکار میں  |
| ۲۳۳۶۲۳۱ | ۹ | اولیاء زندہ ہیں                  |
| ۲۹۲     | ۹ | اولیاء کے مزارات پر عمارت کا حکم |

| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ   |
|--------|-----|---|
| ۴۹۶    | ۹   | مزارات اولیاء پر روشنی کا حکم                       |
| ۶۵۳    | ۹   | اولیاء کی روحوں کی طاقت                             |
| ۷۶۶    | ۹   | مزارات اولیاء پر حاضری                              |
| ۷۷۱    | ۹   | اولیاء سے توسل                                      |
| ۷۹۷    | ۹   | اولیاء حاجت روا ہیں                                 |
| ۸۰۸    | ۹   | اولیاء بعد وصال                                     |
| ۵۹۹    | ۱۳  | اولیاء کرام کی ندور                                 |
| ۶۰۸۷۰۰ | ۱۳  | اولیاء کرام کا ذکر خیر                              |
| ۶۵۷    | ۱۳  | اولیاء بیک وقت کئی جگہ حاضر                         |
| ۷۳     | ۱۵  | اولیاء سے طلب دعا جائز                              |
| ۱۵۳    | ۱۵  | اولیاء سے استمداد جائز                              |
| ۲۱۶    | ۱۵  | اولیاء بعد وفات بھی تصرف کرتے ہیں                   |
| ۲۱۶    | ۱۵  | اولیاء کے علم کی وسعت                               |
| ۲۱۶    | ۱۵  | اولیاء سے طلب حاجات                                 |
| ۵۷۵    | ۲۱  | اولیاء طریقت مجتہدین شریعت کی طرح ہیں               |
| ۳۹۵    | ۲۲  | اولیاء وارثان سرکار رسالت ہیں                       |
| ۵۱۶    | ۲۲  | اولیاء کا طین سے بظاہر خلاف شرع فعل کا وجوہ سے دفاع |
| ۱۰۹    | ۲۳  | اولیاء اللہ کی زیارت کے لئے جانا جائز               |
| ۱۱۱    | ۲۳  | اولیاء کے مزارات پر عورتوں کی حاضری                 |
| ۵۶۲    | ۲۳  | اولیاء کو ایصالِ ثواب طریق اسلام ہے                 |
| ۴۲۰    | ۲۸  | اکابر اولیاء کا عروج روحانی                         |
| ۱۰۵    | ۲۹  | حیات اولیاء و شہداء کا ثبوت قرآن سے ہے              |



| صفحہ     | جلد | کتابان مسئلہ                            |
|----------|-----|---|
| ۶۲۷      | ۲۹  | اولیاء کے اقوال انا الحق وغیرہ کی تحقیق |
| ۵۵۶      | ۲۹  | اولیاء کو عدا کرنے کا طریقہ متواترہ     |
| ۶۲۸      | ۲۹  | حضرت شاہ منصور کو سولی دینے کی وجہ      |
| ۸۷       | ۳۰  | اولیاء کی ایک دوسرے پر فضیلت کی ترتیب   |
| ۳۸۶، ۳۸۳ | ۳۰  | اولیاء کی برکتیں                        |

## اوقات نماز

|          |   |                                  |
|----------|---|----------------------------------|
| ۱۵۶۵۱۴۱  | ۵ | اوقات نماز                       |
| ۱۳۰      | ۵ | وقت زوال                         |
| ۱۳۶، ۱۳۲ | ۵ | وقت صبح                          |
| ۱۳۸      | ۵ | وقت صبح                          |
| ۱۳۸      | ۵ | وقت مکروہ                        |
| ۱۵۳      | ۵ | وقت عصر، مغرب، عشاء، فجر         |
| ۱۳۶      | ۵ | وقت عصر اور قول علی رضی اللہ عنہ |
| ۲۲۵      | ۵ | وقت مغرب                         |
| ۳۱۳      | ۵ | صبح کبریٰ                        |
| ۳۲۰      | ۵ | فجر و ظہر کا وقت آخر             |
| ۳۲۳      | ۵ | نصف النہار                       |
| ۳۲۳      | ۵ | سایہ صلی                         |
| ۳۲۷      | ۵ | نہار عربی و نہار شرعی            |
| ۳۲۹      | ۵ | فجر کا کل وقت                    |
| ۳۳۰      | ۵ | اوقات مکروہہ کا حکم              |
| ۳۳۱      | ۵ | فجر کا مستحب وقت                 |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ           |
|------|-----|-----------------------|
| ۳۳۳  | ۵   | فجر صبح روشنی میں سنت |
| ۳۳۶  | ۵   | فجر اسفار میں         |
| ۳۳۹  | ۵   | ظہر کا مستحب وقت      |
| ۳۳۲  | ۵   | غروب کا وقت           |
| ۳۶۵  | ۸   | جمعہ کا اول و آخر وقت |
| ۳۰۶  | ۹   | وقت نماز کا سبب       |
| ۶۲۲  | ۱۰  | وقت مغرب عند الامام   |

## اہل کتاب:

|          |    |                          |
|----------|----|--------------------------|
| ۳۰۰، ۳۸۳ | ۱۱ | اہل کتاب سے نکاح         |
| ۵۱۱      | ۱۱ | اہل کتاب کا ذبیحہ        |
|          |    | (مزید نصاریٰ میں دیکھیں) |

## ایصالِ ثواب:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۶۳۸، ۳۲۱ | ۹  | ایصالِ ثواب کا بیان                          |
| ۵۹۶      | ۱۳ | ایصالِ ثواب کے لئے اجتماع                    |
| ۳۷۷      | ۱۳ | ایصالِ ثواب جائز                             |
| ۳۹۸، ۳۹۵ | ۱۹ | ایصالِ ثواب کی اجرت ناجائز                   |
| ۵۲۸      | ۱۹ | ایصالِ ثواب کی اجرت ناجائز                   |
| ۳۵۷، ۳۶۹ | ۲۰ | قربانی کا ایصالِ ثواب                        |
| ۵۰۳      | ۲۰ | قربانی کی کھال کی رقم کے طعام کا ایصالِ ثواب |
| ۱۲۳      | ۲۱ | بزرگانِ دین کو ایصالِ ثواب کا حکم            |
| ۱۳۲      | ۲۱ | ایصالِ ثواب کے لئے مروجہ نذر و نیاز کا حکم   |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                                 |
|------|-----|---|
| ۱۲۰  | ۲۳  | حضور کی بارگاہ میں ایصالِ ثواب              |
| ۱۲۱  | ۲۳  | ایصالِ ثواب کا طریقہ                        |
| ۵۶۲  | ۲۳  | اولیاء کو ایصالِ ثواب طریقِ اسلام ہے        |
| ۱۱۲  | ۲۳  | ایصالِ ثواب کے کھانے کو لٹانے کی شرعی حیثیت |
| ۵۰۰  | ۲۳  | ایصالِ ثواب ہر روز مستحسن ہے                |
| ۲۰۲  | ۲۹  | گیارہویں شریف کے لئے دن مقرر کرنا           |
| ۲۰۲  | ۲۹  | گیارہویں شریف کرنا کیسا ہے                  |

ایلاء:


|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| ۲۶۰۵۲۵۷ | ۱۳ | باب الایلاء |
|---------|----|-------------|

ایمان:

دیکھئے قسم:

ایمانِ ابوطالب:

|         |    |                            |
|---------|----|----------------------------|
| ۷۲۸۵۶۵۵ | ۲۹ | ایمانِ ابوطالب کی مدلل بحث |
|---------|----|----------------------------|



آداب دعا و استغفار:

|  |       |                                 |
|--|-------|---------------------------------|
| صفحات نمبر ۲۳۰، ۲۳۶، ۲۴۰، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۹۲، ۲۹۳ | جلد ۹ | آداب دعا و استغفار              |
| ۳۹۲  | ۲۲    | آدابِ حاضری سرکار ﷺ             |
| ۳۹۳  | ۲۲    | آدابِ زیارتِ روضہ اقدس          |
| ۴۷۹۵۳۳۵                                      | ۲۳    | کچھ آدابِ استغفار وغیرہ کا بیان |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## آریہ

|      |    |  |
|------|----|--|
| ۱۰۵۷ | ۱  | آریوں کے لیکچر سننا حرام                     |
| ۱۲۳  | ۲۱ | آریہ کے بعض عقائد                            |
| ۱۱۹  | ۲۹ | قرآن کریم پر آریہ کے اعتراضات کے مدلل جوابات |

## آمین :

|     |    |                            |
|-----|----|----------------------------|
| ۳۳۲ | ۶  | آمین آہستہ کہنی چاہیے      |
| ۳۷۹ | ۶  | آمین بالجبر کہنے والے کون؟ |
| ۳۹۳ | ۲۹ | آمین بالجبر کا حکم         |

## آئینہ:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| ۲۳۰، ۲۳۹ | ۳ | آئینہ میں درز پڑے تو سفیدی کیوں ہوتی ہے؟ |
|----------|---|--|



## بارش :

|          |   |                                      |
|----------|---|--------------------------------------|
| ۳۸       | ۲ | بارش کے پانی کا حکم جو نالیوں سے بہے |
| ۳۳۶      | ۲ | بارش برستی کے پانی کا حکم            |
| ۳۳۱      | ۴ | بارش کے بہتے پانی کا حکم             |
| ۳۷۲، ۳۷۰ | ۵ | بارش کے لئے اذان کا حکم              |

## بال :

|     |    |                                       |
|-----|----|---------------------------------------|
| ۲۸۲ | ۱  | بھنوؤں اور مونچھوں کے بالوں کا حکم    |
| ۷۶۹ | ۱  | ہاتھ، پاؤں، سینہ، پشت کے بالوں کا حکم |
| ۵۷۶ | ۲۲ | سر کے بالوں کے متعلق دو سوال          |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۵۷۷  | ۲۲  | بال کٹوانے کے خلاف سنت طریقے   |
| ۵۹۳  | ۲۲  | سر کے بالوں کے متعلق ۳ سوال  |
| ۵۹۵  | ۲۲  | مروجہ سر کے بالوں کی کٹنگ کا حکم                                       |
| ۵۹۸  | ۲۲  | سفید بال اکھاڑنے کا حکم  |
| ۵۹۹  | ۲۲  | لب زیریں کے نیچے کے بال کاٹنے کا حکم                                   |
| ۵۹۹  | ۲۲  | گردن، سینہ، پشت کے بال منڈوانے کا حکم                                  |
| ۶۰۰  | ۲۲  | زیر ناف بال تراشنے کا حکم  |
| ۶۰۵  | ۲۲  | سر کے بال بڑھانے کی مقدار  |
| ۵۰۵  | ۲۲  | لبوں کے بالوں کی مقدار   |
| ۶۸۰  | ۲۲  | کفر کے بال دور کرنے کا حکم ہے  |
| ۶۹۰  | ۲۲  | بال بڑھانے، ترشوانے میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادتِ کریمہ |
| ۹۳   | ۲۹  | بالوں میں ننگے کے لئے کوئی خاص وقت مقرر نہیں                           |

بائن:

دیکھئے صریح:

بدعت:

| بدعت کی اقسام |   |          |
|---------------|---|----------|
| بدعت          | ۸ | ۲۱۹      |
| بدعت حسنہ     | ۸ | ۲۲۰      |
| اقسام بدعت    | ۸ | ۶۲۰، ۶۱۳ |
| بدعت مباح     | ۸ | ۶۲۵      |
| بدعات حسنہ    | ۹ | ۶۳۸      |
|               |   | ۲۹۳      |



| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                 |
|----------|-----|-----------------------------|
| ۳۶۰      | ۱۴  | بدعت کا معنی اور اقسام      |
| ۳۶۴      | ۱۶  | مدرسہ بنانا بدعت حسنہ ہے    |
| ۲۲۱      | ۲۱  | ہر بدعت سیئہ کفر نہیں       |
| ۳۴۰      | ۲۳  | کون سی نئی بات بدعت ہے      |
| ۷۶۲      | ۲۳  | بدعت حسنہ بالاتفاق مندوب ہے |
| ۴۸۹      | ۲۴  | تعزیر کی بدعات              |
| ۵۳۳، ۵۱۵ | ۲۶  | بدعت کی اقسام               |

## بدگمانی:

|          |    |                                 |
|----------|----|---------------------------------|
| ۲۴۰      | ۲۰ | بدگمانی حرام ہے                 |
| ۲۷۳      | ۲۰ | بدگمانی کی مذمت                 |
| ۱۷۲، ۱۳۳ | ۲۱ | بدگمانی حرام ہے                 |
| ۶۷۳      | ۲۱ | بلا دلیل بدگمانی حرام           |
| ۳۹۹      | ۲۲ | بدگمانی حرام                    |
| ۳۲۶      | ۲۳ | بدگمانی حرام                    |
| ۱۰۵      | ۲۳ | بدگمانی حرام                    |
| ۷۸       | ۲۵ | بدگمانی کی جگہوں سے بچنے کا حکم |

## برش:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۱۹ | ۲۱ | دانت صاف کرنے والے برش کا حکم             |
| ۶۲۱ | ۲۱ | خزیر کے بالوں کا برش نجس ہے               |
| ۶۲۱ | ۲۱ | سنت مسواک چھوڑ کر برش کا استعمال جہالت ہے |

## بلاغت:

|     |   |                            |
|-----|---|----------------------------|
| ۵۱۴ | ۹ | ایک جملے میں مجاز کی وضاحت |
|-----|---|----------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                            |
|------|-----|--|
| ۸۶۸  | ۹   | قرآن کریم میں صنعت استخارہ کے مواقع    |
| ۶۳۰  | ۱۰  | کتابہ تصریح سے افضل ہے                 |
| ۱۵۵  | ۱۱  | مجاز کے لئے قرینہ ضروری                |
| ۱۶۳  | ۱۱  | استنباط کا معنی                        |
| ۱۵۲  | ۱۵  | تشیبہ و تمثیل کا فرق                   |
| ۵۸۲  | ۱۵  | معنی کے اقسام چارگانہ                  |
| ۱۲۲  | ۲۷  | لفظ مجازی کا اطلاق                     |
| ۲۱۳  | ۲۷  | فعل اور مکرہ کا ضابطہ                  |
| ۱۷۶  | ۲۸  | لظہون بدلہ کی تحقیق ائق                |
| ۶۱۰  | ۲۸  | صفت کا اطلاق مستعمل کے لحاظ سے مجاز ہے |
| ۶۳۹  | ۲۸  | خبر کی تقدیم و تاخیر کا بیان           |
| ۶۳۹  | ۲۸  | مبتدا کو خبر پر مقدم کرنے کی بحث       |
| ۶۵۲  | ۲۸  | خبر کو مقدم کرنے کے نکات               |
| ۷۶   | ۲۹  | مکرہ تحت الہی مفید عموم ہے             |
| ۲۸۸  | ۲۹  | لفظ کل کا استعمال                      |
| ۵۱۸  | ۲۹  | باب تشبیہ و اسح ہے                     |
| ۸۰   | ۳۰  | اسناد حقیقی غالب ہے                    |
| ۳۷۳  | ۳۰  | نسبت و اسناد کی تحقیق                  |

بلوغت:

|          |    |                           |
|----------|----|---------------------------|
| ۵۶۰، ۲۷۳ | ۱۱ | لڑکی کی بلوغت کی عمر      |
| ۵۶۰      | ۱۱ | لڑکے کی بلوغت کی عمر      |
| ۶۸۵      | ۱۱ | بلوغ کی شرطیں اور نشانیوں |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۳۹۹  | ۱۲  | بلوغت کی انتہائی عمر   |
| ۶۰۹  | ۱۲  | لڑکی میں بھر ۱۶ سال بلوغ عدم بلوغ دونوں محتمل ہیں                |
| ۲۹۳  | ۱۳  | آثار بلوغ عورت   |
| ۳۷۸  | ۱۸  | موئے زیر ناف اگنا، واڑھی اگنا، سینے کے ابھار وغیرہ مثبت بلوغ ہیں |
| ۶۲۹  | ۱۹  | بلوغ کی حد   |

بنک:

|     |    |                               |
|-----|----|-------------------------------|
| ۱۴۱ | ۱۰ | بنک کی رقم پر زکوٰۃ           |
| ۲۲۲ | ۱۶ | بنک میں جمع رقم بنک پر دین ہے |
| ۳۳۲ | ۱۷ | بنک سے زائد رقم لینا سود      |
| ۳۳۰ | ۱۷ | کوآپریٹو بنک کا حکم           |
| ۳۷۵ | ۱۷ | بنک کی زائد رقم کا حکم        |
| ۳۷۶ | ۱۷ | سیونگ بنک کا حکم              |
| ۳۷۸ | ۱۷ | بنک سے قرض کا حکم             |

بوسہ:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۷۰ | ۱  | نماز میں مرد و عورت کے بوسہ کا فرق و حکم |
| ۳۷۵ | ۲۲ | بوسہ زمین کا حکم                         |
| ۲۵۳ | ۲۲ | حضرت جعفر نے سرکار کو بوسہ دیا           |
| ۳۱۷ | ۲۲ | بوسہ مزارات اولیاء کا حکم                |
| ۳۱۸ | ۲۲ | وفد عبدالقیس کا بوسہ پائے سرکار ﷺ        |
| ۳۲۰ | ۲۲ | صحابہ کا بوسہ پائے سرکار ﷺ               |
| ۳۲۱ | ۲۲ | صحابی کا بوسہ سرکار ﷺ کے سر مبارک پر     |

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------------|-----|--|
| ۲۳۰        | ۲۲  | سلطان عادل کے ہاتھ کا پوسہ                     |
| ۳۳۸        | ۲۲  | بزرگان دین کے ہاتھوں کو پوسہ دینے کا حکم       |
| ۳۳۹        | ۲۲  | پوسہ پید کا حکم                                |
| ۲۳۹        | ۲۲  | سرکار نے صحابی کو پائے مبارک چومنے کی اجازت دی |
| ۳۳۳ تا ۳۳۱ | ۲۲  | پوسہ تعظیماً کا مکمل بیان                      |
| ۲۰۵        | ۲۹  | قور کو پوسہ کا حکم                             |

پوہرہ:

|          |    |                       |
|----------|----|-----------------------|
| ۵۲۹      | ۲  | مستوہ پوہرہ کے احکام  |
| ۳۳۸      | ۱۷ | پوہرے درافضی ہیں      |
| ۲۵۰، ۲۳۳ | ۲۰ | پوہرے کے ذبیحہ کا حکم |

پیماری:

دیکھئے علاج:

بیح:

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| ۷۱۰ | ۳  | بیح تعاملی کا حکم            |
| ۱۲۶ | ۴  | بیح میں ایک شرط اور حکم      |
| ۹۰  | ۸  | سجدوں کی بیح کا حکم          |
| ۱۹۲ | ۹  | مزار کی چادروں کی بیح کا حکم |
| ۲۹۵ | ۹  | بے اذن بیح کا حکم            |
| ۲۷۹ | ۹  | قبرستان کی بیح کا حکم        |
| ۱۰۸ | ۱۰ | پیوں کی بیح کی ایک عبارت     |
| ۲۷۳ | ۱۰ | بیح ہلاک ہو گیا یا ایک صورت  |

| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|--------|-----|---|
| ۱۲۵    | ۱۱  | بیع کا جھوٹا اقرار                      |
| ۲۲۷    | ۱۱  | غیر عربی کا بیع و اشتریت کہنے کا حکم    |
| ۳۸۶    | ۱۱  | افیون اور حشیش کی بیع کا حکم            |
| ۵۳۲    | ۱۱  | مردار، حر، خون کی بیع کا حکم            |
| ۶۲۲    | ۱۱  | نابالغ کی بیع کا حکم                    |
| ۱۱۹    | ۱۲  | بیع کا ورود عین پر ہوتا ہے              |
| ۱۲۰    | ۱۲  | شمن مؤجل میں جس بیع کا حکم              |
| ۲۲۸    | ۱۲  | شرائط بیع میں سے شرط مفسد کب محتمل ہے   |
| ۱۲۵    | ۱۳  | بیع بالعشرہ کی اقسام                    |
| ۶۵۶    | ۱۳  | عقد و نقد مال حرام پر جمع نہ ہوں تو حکم |
| ۱۱۳    | ۱۶  | مہر میں جائداد بہہ بالعوض اور بیع ہے    |
| ۲۷۷    | ۱۶  | اشجار موقوفہ اور زوائد کی بیع کا حکم    |
| ۱۱۳    | ۱۶  | بیع فاسد کو فسخ کرنا فرض ہے             |
| ۶۳۹۵۸۱ | ۱۷  | کتاب البیوع                             |
| ۱۴۱    | ۱۷  | بیع باطل و فاسد                         |
| ۱۸۹    | ۱۷  | بیع مکروہ                               |
| ۱۹۳    | ۱۷  | بیع فضولی                               |
| ۲۱۷    | ۱۷  | اقالہ                                   |
| ۲۱۹    | ۱۷  | مراہمہ                                  |
| ۲۳۳    | ۱۷  | تصرف فی المبیع والشمین                  |
| ۲۶۹    | ۱۷  | قرض                                     |
| ۲۹۱    | ۱۷  | رہا (مزید دیکھئے : سود)                 |



| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۵۶۱      | ۱۷  | انتقال   |
| ۵۶۹      | ۱۷  | بیع سلم  |
| ۵۹۷      | ۱۷  | اصناف  |
| ۶۰۱      | ۱۷  | صرف  |
| ۶۳۹      | ۱۷  | بیع الجبہ  |
| ۶۳۳      | ۱۷  | بیع وقفا   |
| ۶۳۹      | ۱۷  | بیع موقوفہ   |
| ۲۵۲      | ۱۸  | بیعنا حکم  |
| ۶۵۹      | ۱۸  | بیع بالوفا کا ایک مقدمہ                                      |
| ۷۱۳      | ۱۸  | مشاع کی بیع بالا جماع جائز ہے                                |
| ۶۳۶      | ۱۹  | مستوفی کی بیع کا حکم   |
| ۳۳۲      | ۱۹  | لڑکے کے اپنے نام شدہ مکان کی بیع کی تو باپ کو بیع کا حق نہیں |
| ۲۰۸      | ۲۰  | بیع سلم کی ایک صورت  |
| ۱۲۲      | ۲۰  | بیع کے بعد بیع کا حکم  |
| ۲۸۸، ۲۸۰ | ۲۰  | غیر مسلموں سے گوشت خریدنے کا سوال                            |
| ۲۵۰      | ۲۰  | بیع عقد سے نام ہوگی  |
| ۵۲۷      | ۲۰  | بیع کا اطلاق صحیح  |
| ۶۵۳      | ۲۱  | بیع میں عقد اور نقد جمع ہونے کی صورت                         |
| ۱۲۹      | ۲۲  | لوہے اور پتھر کے زیور کی بیع کا حکم                          |
| ۱۷۶      | ۲۲  | ریشمی کپڑے کی بیع کا حکم                                     |
| ۶۰۵      | ۲۳  | بیع من بیزید جائز ہے (بولی کی بیع)                           |
| ۲۳۷، ۵۶  | ۲۵  | بیع وفا میں رہن ہے   |

ب

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                       |
|------|-----|-----------------------------------|
| ۲۸۰  | ۲۵  | وصی کو مطلق اختیار بیع نہیں       |
| ۶۵۳  | ۲۵  | مرض موت میں وارث سے بیع صحیح نہیں |
| ۳۶۹  | ۲۶  | جہالت ثمن سے بیع باطل             |

بیعت:

|        |    |                                       |
|--------|----|---------------------------------------|
| ۵۴۱    | ۳  | اجنبی عورت سے بیعت کا طریقہ           |
| ۶۰۳    | ۲۱ | بیعت کی چار شرائط                     |
| ۲۰۷    | ۲۲ | عورت بغیر اذن شوہر کب بیعت کر سکتی ہے |
| ۶۰۳۵۵۵ | ۲۶ | آداب بیعت کا مستقل بیان               |
| ۵۶۸    | ۲۶ | بیعت بذریعہ خط و کتاب بھی جائز        |
| ۵۲     | ۲۸ | ولد الزنا کی بیعت کا حکم              |
| ۶۴۲    | ۲۹ | کافر بیعت نہیں ہو سکتا                |

بیمہ:

|     |    |                                |
|-----|----|--------------------------------|
| ۳۷۰ | ۱۷ | بیمہ کمیٹی کا سوال             |
| ۳۷۱ | ۱۷ | بیمہ کی قباحتیں                |
| ۳۸۱ | ۱۷ | زندگی اور شادی کا بیمہ حرام    |
| ۳۶۵ | ۱۷ | بیمہ جواء ہے                   |
| ۵۰۲ | ۱۹ | بیمہ جواء ہے                   |
| ۵۹۳ | ۲۳ | جان کے بیمہ کی صورت            |
| ۵۹۵ | ۲۳ | بیمہ جواء ہے                   |
| ۶۰۱ | ۲۳ | زندگی کے بیمے کا شرعی حکم      |
| ۷۰  | ۲۵ | بیمہ کی ایک صورت اور اس کا حکم |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

﴿ پ ﴾

پانی:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۷۷۵      | ۱  | دوسرا غسل میں پانی کی مقدار                                      |
| ۳۳۰      | ۱  | باب المیاء   |
| کامل جلد | ۲  | باب المیاء   |
| ۲۹۵۵۳۱   | ۳  | باب المیاء   |
| ۳۳۷۵۳۳   | ۴  | پانی کے مسائل  |
| ۲۸۵      | ۱۰ | پانی سے استنجاء میں خروج ریح                                     |
| ۳۶۳      | ۱۱ | گھل پانی میں نجاست گرنے کا حکم                                   |
| ۶۶۹      | ۲۱ | ذکر ہاوردوسو کے بچے ہوئے پانی کے سوا کھڑے ہو کر پانی پینے کا حکم |

پروایڈنٹ فنڈ:

|     |    |                     |
|-----|----|---------------------|
| ۵۳۳ | ۱۹ | پروایڈنٹ فنڈ کا حکم |
|-----|----|---------------------|

پرہیز:

دیکھئے ہر:

پرورش:

دیکھئے حفاظت:

پینہ:

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| ۲۹۱ | ۳ | پینہ گھوڑے کا اور کھینچیں |
| ۳۰۶ | ۳ | انسان کے پینہ کا حکم      |

حج / مرشد:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۲۸۰ | ۲ | نامحرم عورت کا اپنے مرشد کا جھوٹا پوتا |
|-----|---|--|

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۶۰۵     | ۶   | جو پیر فعل حرام کا مرتکب ہو اس کا حکم                |
| ۳۲۵     | ۱۱  | جو پیر فعل حرام کا مرتکب ہو اس کا حکم                |
| ۶۵۵     | ۱۳  | پیر کا ادب کم حضور ﷺ کا زیادہ چاہیے                  |
| ۵۷۸     | ۱۴  | پیر یا شیطان ..... کون؟                              |
| ۶۱۱     | ۱۴  | مرشد کو خدا کہنا کفر                                 |
| ۶۱۱     | ۱۴  | مرشد حق کی تادم بوسی جائز                            |
| ۲۶۴     | ۱۹  | پیر اگر مرید کو عاق کرے تو حکم                       |
| ۲۷۰     | ۱۹  | پیر کے خلاف بدگمانی کا حکم                           |
| ۴۹۱     | ۲۱  | پیر کے لئے شرائط                                     |
| ۲۵۰     | ۲۲  | غیر محرم پیر سے عورت کو پردہ واجب                    |
| ۴۱۱     | ۲۲  | پیر کی تصویر کے احترام کا حکم                        |
| ۲۳۹     | ۲۲  | عورتوں کو بلا پردہ پیر کے پاس جانے کا حکم            |
| ۱۰۲     | ۲۳  | ایک جعلی پیر کے بارے سوال                            |
| ۷۲۸     | ۲۳  | جاہل کا پیر بنا حرام                                 |
| ۳۶۸     | ۲۴  | پیر کے مرید پر حقوق                                  |
| ۶۰۴۵۵۵۵ | ۲۶  | پیری مریدی کا مکمل بیان                              |
| ۹۲      | ۲۷  | مرشد کے فتویٰ کے رد کی تصدیق کرنیوالے کی بیعت کا حکم |

## پیشاب:

|     |   |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|
| ۷۶۲ | ۱ | سوئی کے برابر پیشاب کے چھینٹوں کا حکم |
| ۵۶۴ | ۲ | پیشاب سوگھنا                          |
| ۲۳۹ | ۳ | پیشاب کی جھاگ کا رنگ                  |
| ۵۵۶ | ۴ | پیشاب شیر خوار کا                     |

| صفحہ    | شمارہ | عنوان مسئلہ               |
|---------|-------|---------------------------|
| ۵۷۰     | ۴     | وہاب بکوں کا              |
| ۵۸۹-۵۸۷ | ۴     | وہاب کوزے اور             |
| ۵۹۹     | ۴     | وہاب کوزے اور             |
| ۶۷      | ۴     | وہاب کے فکرے مسلل         |
| ۴۲۳     | ۱۱    | قلیل پانی میں وہاب کا حکم |
| ۵۵۷     | ۲۳    | کوزے اور وہاب کرنے کا حکم |

( ت )

کتاب:

|     |    |                                     |
|-----|----|-------------------------------------|
| ۴۳۵ | ۲  | کتاب سے نکلنے والے پانی کا حکم      |
| ۴۴۳ | ۲  | کتاب میں، صفحہ پہلے اور حکم         |
| ۴۴۹ | ۲  | کتاب بنجاست کے لئے روکا گیا اور حکم |
| ۴۷۰ | ۲  | کتاب بنجاست کے لئے روکا گیا اور حکم |
| ۴۵۳ | ۳  | زراعت کثیرہ والے کتاب کا حکم        |
| ۵۴۲ | ۲۳ | سورہ بقرہ سے کتاب سے اخراج کا حکم   |

تداول:

دیکھئے حلال:

تھوہب:

|     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| ۳۶۱ | ۵ | تھوہب کا حکم اور حکم              |
| ۳۹۱ | ۵ | مسئلہ تھوہب میں دو یونانی خیانتیں |

تجوید:

دیکھئے قرأت:



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

تختہ :

دیکھئے حدیث :

تدبیر :

|         |    |                             |
|---------|----|-----------------------------|
| ۳۳۶۵۳۰۳ | ۲۹ | مسئلہ تدبیر پر سیر حاصل بحث |
|---------|----|-----------------------------|

تراویح:

|         |   |  |
|---------|---|--|
| ۱۸۵     | ۶ | 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے                    |
| ۳۳۸     | ۶ | تراویح میں سورۃ رحمن پڑھنے کا طریقہ            |
| ۳۳۳     | ۷ | تراویح ایک نیت سے چار جائز                     |
| ۳۵۳     | ۷ | تراویح کی دس رکعتیں ایک سلام سے جائز مگر مکروہ |
| ۳۵۷     | ۷ | تراویح سنت مؤکدہ ہے                            |
| ۳۵۸     | ۷ | تراویح میں ایک قرآن کریم سنت مؤکدہ ہے          |
| ۳۵۹     | ۷ | صرف فاتحہ و اخلاص سے تراویح جائز               |
| ۳۶۸     | ۷ | عشاء بغیر جماعت تو وتر بھی بغیر جماعت پڑھے     |
| ۳۷۱     | ۷ | تراویح بلا عذر چھوڑنے والے کا حکم              |
| ۳۷۲     | ۷ | تراویح کی ہر چار رکعت کے بعد دعا کا حکم        |
| ۳۷۳     | ۷ | تراویح میں ہر سورت پر بسملہ بالجہر کا حکم      |
| ۵۳۳     | ۷ | تراویح کی جماعت کے دوران عشاء کی جماعت کا حکم  |
| ۵۵۵     | ۷ | تراویح کا ایک مسئلہ                            |
| ۵۶۷     | ۷ | تراویح میں تین رکعت پر قعدہ کا حکم             |
| ۵۶۸     | ۷ | تراویح کی جماعت کے دوران عشاء کی جماعت کا حکم  |
| ۷۰۵۴۶۵۹ | ۷ | تراویح میں بسملہ بالجہر                        |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                                      |
|------|-----|--|
| ۶۲۱  | ۸   | تراویح میں مگر سورۃ اخلاص                        |
| ۲۸۱  | ۹   | سرکار نے مداومت تراویح کوچہ فرضیت ترک فرمائی     |
| ۳۳۲  | ۱۰  | تراویح پڑھانے کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑے            |
| ۵۹۷  | ۱۰  | تراویح کی رکعات میں اختلاف کی صورتیں             |
| ۵۹۹  | ۱۰  | امام ایکدات میں ایک تراویح پڑھائے                |
| ۶۰۱  | ۱۰  | تراویح سارے ماورمضان میں سنت ماکدہ ہے            |
| ۶۰۳  | ۱۰  | تراویح منقروض کے پیچھے ادا نہ ہوگی               |
| ۶۰۵  | ۱۰  | فرض جماعت سے اور تراویح تنہا یا اس کے عکس کا حکم |
| ۹۴   | ۳۰  | تراویح میں وقت ختم سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا      |

ترک موالات:

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| ۱۷۰۵۱۴۱ | ۱۴ | ترک موالات کا مکمل بیان   |
| ۴۳۶     | ۱۴ | موالات کی بحث             |
| ۴۶۵     | ۱۴ | موالات کی تقسیم           |
| ۵۹۶     | ۱۴ | موالات کے دس طریقے        |
| ۳۳۳۵۳۱۱ | ۲۴ | موالات و محبت کے مسائل    |
| ۳۶۲     | ۲۴ | ترک موالات ہر کافر سے فرض |

تسبہ بالغیر:

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| ۳۲۰     | ۲۳ | حدیث من تشبه بقوم فهو منهم کی تشریح |
| ۵۵۱۵۵۲۹ | ۲۴ | تسبہ بالغیر اور اس کے احکام         |
| ۶۰۸     | ۲۴ | تسبہ کی دو قسمیں                    |

تصوف و اخلاق

|     |   |                       |
|-----|---|-----------------------|
| ۵۷۱ | ۷ | صلوۃ الاسرار کا معمول |
|-----|---|-----------------------|

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                               |
|----------|-----|---|
| ۵۷۲      | ۷   | نماز غوثیہ کی اجازت لینے اور دینے کا بیان |
| ۶۰۷      | ۷   | توسل میں توجہ باطن ضروری                  |
| ۶۱۶      | ۷   | توبہ کے لئے بلند جگہ جانے کی حکمت         |
| ۶۲۳      | ۷   | ختم خواجگان و دعائے حزب البحر کے فوائد    |
| ۶۲۶      | ۷   | تصویر شیخ کی ترکیب                        |
| ۶۳۳      | ۷   | نماز غوثیہ کے فوائد                       |
| ۶۳۸      | ۷   | نماز غوثیہ کے دو طریقے                    |
| ۵۶۳      | ۹   | عورت داعی الی اللہ نہیں ہو سکتی           |
| ۶۸۷      | ۹   | اویسیت کی نسبت کا حکم                     |
| ۱۹۵      | ۱۰  | صوفیاء کے ہاں قلت خشوع والی نماز کا حکم   |
| ۶۱۸      | ۱۳  | وحدۃ الوجود کی تعبیر                      |
| ۶۳۱      | ۱۳  | وحدۃ الوجود کی تحقیق                      |
| ۶۳۲      | ۱۳  | مسئلہ وحدت میں تین فرتے                   |
| ۶۶۶      | ۱۳  | سبحانی ما اعظم شانی کی توضیح              |
| ۲۱۸، ۲۰۵ | ۱۵  | تصویر شیخ                                 |
| ۵۹۲      | ۱۶  | سجادگی میں معروف کیا ہے                   |
| ۶۰۶، ۳۵۹ | ۲۱  | تصوف و طریقت کا مکمل بیان                 |
| ۵۱۷      | ۲۳  | تصوف کی چاشنی سے لبریز مفید مضمون         |
| ۷۳۵      | ۲۳  | وجد کی تین صورتیں                         |
| ۳۶۹      | ۲۵  | ریاضت و مجاہدہ کیا ہے                     |
| ۲۸۹      | ۲۶  | خانقاہ شرعاً کس کو کہتے ہیں               |
| ۶۰۳، ۵۵۵ | ۲۶  | تصوف و طریقت کی مکمل بحث                  |

| صفحہ  | جلد | عنوان مسئلہ                  |
|-------|-----|------------------------------|
| ۵۷۷   | ۲۷  | حکام سے بلاوجہ انحراف کا حکم |
| ۸۹۷۷۲ | ۳۰  | بعض صوفیاء کے کلام کی شرح    |

تصویریں:

|           |    |                           |
|-----------|----|---------------------------|
| ۶۲۶       | ۷  | تصویریں کی ترکیب          |
| ۲۱۸ ، ۲۰۵ | ۱۵ | تصویریں                   |
| ۲۵۲       | ۲۱ | رابطہ شیخ مستحسن          |
| ۶۰۶۷۵۶۹   | ۲۱ | تصویریں کے اثبات پر دلائل |

تصویریں:

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| ۳۸۷     | ۷  | تصویروں کی جگہ نماز کا حکم     |
| ۱۹۵     | ۲۱ | تصویر کا پاسپورٹ کے لئے حکم    |
| ۱۹۶     | ۲۱ | ذی روح کی تصویر حرام           |
| ۳۲۶     | ۲۱ | تصویر کی وعید پر احادیث        |
| ۳۵۷۷۳۲۵ | ۲۱ | جانداروں کی تصویریں ناجائز     |
| ۶۵۸     | ۲۱ | تصویر کے پیشے کا حکم           |
| ۱۹۸     | ۲۱ | تصویر کی اجازت کب ہے           |
| ۳۱۱     | ۲۲ | حکام کی تصویر کے احترام کا حکم |
| ۶۳۱۷۵۵۹ | ۲۳ | تصویر کے تفصیلی احکام          |
| ۵۵۷     | ۲۳ | تصویر رکھنے کی ۳ جائز صورتیں   |

تجزیہ:

دیکھئے حدود :

تجزیہ :

|                             |       |               |
|-----------------------------|-------|---------------|
| صفحہ ۳۹۲ ، ۳۷۲ ، ۳۰۳ تا ۳۰۰ | جلد ۹ | تجزیہ کا بیان |
|-----------------------------|-------|---------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

تعزیه :

|         |    |                                    |
|---------|----|------------------------------------|
| ۲۶۳     | ۱۵ | تعزیه کا حکم                       |
| ۱۵۵     | ۱۶ | تعزیه معصیت ہے                     |
| ۲۴۷     | ۲۱ | تعزیه کا حکم                       |
| ۱۶۸     | ۲۱ | تعزیز ناجائز                       |
| ۲۲۱     | ۲۱ | تعزیه ناجائز                       |
| ۲۳۶     | ۲۱ | بت اور تعزیه میں فرق               |
| ۴۰۷     | ۲۳ | ماتم و نوحہ ہر حال میں حرام        |
| ۵۲۷۶۳۸۹ | ۲۴ | تعزیه اور اس کی بدعات کا مفصل بیان |
| ۵۵۷     | ۲۴ | تعزیه داری ناجائز                  |

تعلیق الطلاق :

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۴۲۰     | ۱۲ | طلاق شرائط پر موقوف ہو تو بعد وجود شرائط وقوع طلاق ہوگا |
| ۵۶۰     | ۱۲ | دو طرح سے فارغ خطی کا استعمال اور حکم                   |
| ۴۵۳۶۱۰۱ | ۱۳ | باب الطلاق  |

تفسیر:

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| ۴۹۹ | ۷ | لیس لك من الامر کی تفسیر        |
| ۵۱۶ | ۸ | فاذا فرغت فانصب کی تفسیر        |
| ۵۳۶ | ۸ | کثرت ذکر الہی کی آیات کی تفسیر  |
| ۵۰۸ | ۹ | اعراب قرآن کریم پر کس نے لگوائے |
| ۵۱۴ | ۹ | لنتخذن علیہم مسجدًا کا معنی     |
| ۸۸۴ | ۹ | انک لا تسمع الموتی کا معنی      |



| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                                      |
|----------|-----|--|
| ۵۶۱      | ۱۰  | فالغن باشرورہن سے سوال اور جواب                  |
| ۲۳۵      | ۱۱  | الزانیة والزانی منسوخ ہے یا جماع مراد ہے نکاح سے |
| ۲۷۲      | ۱۱  | وان جمعوا بین الاختین کی تفسیر                   |
| ۳۱۲      | ۱۱  | حرمت علیکم امہاتکم کی تفسیر                      |
| ۳۵۲      | ۱۱  | ورہا لکم النی فی حجورکم کی تفسیر                 |
| ۳۵۵      | ۱۱  | ولا تنکحوا ما نکح اباکم من النساء کا معنی        |
| ۳۸۸      | ۱۱  | واحل لکم ما وراء ذلکم کا معنی                    |
| ۴۴۱      | ۱۱  | الزانیة والزانی کی چار تاویلیں                   |
| ۳۰۸      | ۱۲  | والکھوا الایامی کی تفسیر                         |
| ۳۰۸      | ۱۲  | آیات متعلقہ باحت نکاح ثانی                       |
| ۳۰۸      | ۱۲  | آیات متعلقہ نکاح بیہ                             |
| ۴۰۷      | ۱۲  | الطلاق مرتن کا شان نزول                          |
| ۴۶۹      | ۱۲  | تفسیر محصنین غیر مسالحدین                        |
| ۱۸۵، ۱۰۲ | ۱۳  | تفسیر الطلاق مرتن                                |
| ۱۸۸      | ۱۳  | تفسیر الطلاق مرتن                                |
| ۴۰۶      | ۱۳  | تفسیر اذا نکحتم المؤمنت ثم طلقتموهن              |
| ۱۶۳      | ۱۳  | لا یخذ المؤمنون الکافرین کی تفسیر                |
| ۱۸۵      | ۱۳  | اولی الامر سے مراد کون                           |
| ۲۵۹      | ۱۳  | تفسیر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون        |
| ۲۶۰      | ۱۳  | تفسیر لا یاتیه الباطل الخ                        |
| ۲۷۳      | ۱۳  | تفسیر وتقلبک فی الساجدین                         |
| ۳۶۶      | ۱۳  | تفسیر من لم یحکم..... الخ                        |

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------------|-----|--|
| ۴۸۸        | ۱۴  | لکم دینکم ولی دین کا حکم منسوخ ہے                            |
| ۴۳۶        | ۱۴  | آیت ممتحنہ کا روشن بیان                                      |
| ۴۹۳ تا ۴۹۰ | ۱۴  | آیات حرمت استعانت مشرکین                                     |
| ۵۶۰        | ۱۴  | والبدن جعلنہا کی تفسیر                                       |
| ۵۶۱        | ۱۴  | ثلث ازواج کی تفسیر   |
| ۵۶۸        | ۱۴  | آیات سے قربانی کا ثبوت                                       |
| ۵۷۸        | ۱۴  | من یشفع شفاعۃ کی توضیح                                       |
| ۶۶۴        | ۱۴  | انما انا بشر مثلکم کے تین فوائد                              |
| ۳۷۳        | ۱۴  | تفسیر بالرائے حرام   |
| ۱۳۲        | ۱۵  | حتی یاتی امر اللہ سے مراد                                    |
| ۱۷۲        | ۱۵  | اباللہ وایتہ ورسولہ کے تین فوائد                             |
| ۲۰۹        | ۱۵  | الصراط المستقیم سے مراد                                      |
| ۳۵۱        | ۱۵  | ومن اصدق من اللہ قیلاً کی تقریر                              |
| ۶۲۰        | ۱۵  | انکم وما تعبدون کی تفسیر                                     |
| ۶۲۱        | ۱۵  | یدعون من دون اللہ سے مراد کون                                |
| ۵۲۰        | ۱۸  | اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں تکرار اطیعوا کی حکمت          |
| ۵۲۳        | ۱۸  | ولن یجعل اللہ للکفرین علی المؤمنین سبیلاً میں سبیلاً سے مراد |
| ۷۱۴        | ۱۸  | تفسیر بین احد من رسلہ  |
| ۴۴۸        | ۱۹  | قرآن میں مہینوں سے مراد کون سے ہیں                           |
| ۱۶۶        | ۲۰  | اشہاد کے معنی کی تائید آیات قرآنیہ سے                        |
| ۲۷۹        | ۲۰  | لا تاكلوا مما لم یذكر اسم اللہ علیہ کی تفسیر                 |
| ۲۹۸        | ۲۰  | حرمت علیکم المیتة کی تفسیر                                   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۳۹۶  | ۲۰  | بہیمۃ الانعام کی تفسیر  |
| ۳۹۷  | ۲۰  | انعام و حمولہ کی تفسیر  |
| ۳۹۷  | ۲۱  | آیت لا تتخلوا بطانۃ کی تفسیر  |
| ۲۳۶  | ۲۱  | آیت واغلق علیہم کی تفسیر  |
| ۳۰۲  | ۲۱  | آیت الی وجہت کی تفسیر   |
| ۳۰۳  | ۲۱  | آیت ایاک نستعین میں استعانت سے مراد                                       |
| ۳۹۸  | ۲۱  | آیت ان اول بیت وضع للناس کی تفسیر   |
| ۴۰۰  | ۲۱  | آیت قال لهم نبیہم ان ایتہ ملکہ کی تفسیر                                   |
| ۵۱۸  | ۲۱  | آیت وسیلہ کے لطائف  |
| ۵۳۰  | ۲۱  | آیت تم اور لنا الکتب الذین اصطفیناہ من عبادنا کی تفسیر                    |
| ۶۲۲  | ۲۱  | آیت لا ینہاکم اللہ عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین کا شان نزول              |
| ۶۶۵  | ۲۱  | آیت احل لکم الطیب و طعام الذین میں طعام سے مراد                           |
| ۵۱۲  | ۲۲  | تفسیر بالرائے ممنوع ہے  |
| ۱۲۸  | ۲۲  | ولا یضرینہن بارجلھن کی تفسیر  |
| ۱۹۶  | ۲۲  | زروجوتا باعث سرور ہے دلیل قرآن سے   |
| ۴۲۳  | ۲۲  | آیت ما کان لبشر کا شان نزول   |
| ۴۲۳  | ۲۲  | آیت بعد اذ انتم مسلمون میں مخاطب کون                                      |
| ۵۲۹  | ۲۲  | سورۃ یوسف کی ایک آیت کی وجہ تفسیر   |
| ۵۵۹  | ۲۲  | آیت واذا حیتم بتحبیۃ کی تفسیر   |
| ۵۶۰  | ۲۲  | آیت ایامرکم بالکفر کی تفسیر   |
| ۶۱۹  | ۲۲  | سورۃ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اذنیوں کا بوجہ (فرمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ) |
| ۶۲۸  | ۲۲  | ڈاڑھی بڑھانے کی متعدد آیات  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۶۳۱  | ۲۲  | آیت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ کی تفسیر |
| ۶۳۵  | ۲۲  | فلیغیرن خلق اللہ سے استدلال                     |
| ۶۳۶  | ۲۲  | آیت لا تحلوا شعائر اللہ سے ثبوت لہجہ            |
| ۶۳۸  | ۲۲  | اولئک الدین ہم اللہ سے استدلال ثبوت لہجہ        |
| ۶۳۸  | ۲۲  | لا تاخذ بلحیتی سے استدلال                       |
| ۶۳۹  | ۲۲  | آیت و من یشاقق الرسول کی تفسیر                  |
| ۶۴۲  | ۲۲  | آیت ادخلوا فی السلم كافة کا شان نزول            |
| ۶۴۲  | ۲۳  | ڈاڑھی منڈانے کی مذمت کی تین آیات                |
| ۲۴۳  | ۲۳  | آیت ولسوف یعطیک ربک فترضی کی تفصیل              |
| ۲۹۲  | ۲۳  | آیت و من الناس من یشتری لہو الحدیث کی تفسیر     |
| ۲۹۴  | ۲۳  | آیت واستفزز من استطعت منهم کی تفسیر             |
| ۱۰۰  | ۲۴  | و من اعرض عن ذکری کی تشریح                      |
| ۱۹۱  | ۲۴  | ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ کا مطلب           |
| ۲۵۸  | ۲۶  | حضرت شیخ سعدی کے ترجمہ قرآن کی خوبی             |
| ۲۵۹  | ۲۶  | عالین کے معنی کی تشریح                          |
| ۲۶۳  | ۲۶  | اولی الامر سے مراد کون                          |
| ۲۶۳  | ۲۶  | یزید اولی الامر میں نہیں                        |
| ۲۶۳  | ۲۶  | دون کے دس معانی                                 |
| ۵۳۰  | ۲۶  | ورفعنا لک ذکرک کی تفسیر                         |
| ۱۱۶  | ۲۷  | آیت قل من یرزقکم من السماء کی تفسیر             |
| ۱۲۱  | ۲۷  | آیت جعل الشمس ضیاء سے استدلال                   |
| ۲۰۱  | ۲۷  | آیت ان اللہ یمسک السموات والارض کی تفسیر        |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۱۳۷  | ۲۸  | الما یومر مساجد اللہ سے مراد                    |
| ۳۶۶  | ۲۸  | الصراط المستقیم کیا ہے                          |
| ۳۶۶  | ۲۸  | انعمت علیہم کے چار فریقے اہل ان کے مراد         |
| ۴۴۱  | ۲۸  | وما کنا معینین کی تفسیر                         |
| ۴۴۶  | ۲۸  | ما کنت تلوی ما الکتب کی تفسیر                   |
| ۵۰۲  | ۲۸  | یا ایہا الناس انا خلقنکم کی تفسیر               |
| ۵۰۲  | ۲۸  | اذا قبل لکم تفسحوا کا شان نزول                  |
| ۵۰۵  | ۲۸  | وسیعہا الاظنی کا شان نزول                       |
| ۵۱۰  | ۲۸  | اما من اعطی واطی کا شان نزول                    |
| ۵۲۲  | ۲۸  | تفسیر قرآن کے بارے میں عجیب                     |
| ۵۲۳  | ۲۸  | تفسیر کے اصول                                   |
| ۵۲۶  | ۲۸  | تفسیر قرآن کے بارے میں عجیب                     |
| ۵۲۶  | ۲۸  | فلو اطلتی کی تفسیر                              |
| ۵۲۹  | ۲۸  | ان الشوک لظلم عظیم کا شان نزول                  |
| ۶۵۳  | ۲۸  | ان اکرمکم پر اعتراض اور جواب                    |
| ۶۷۹  | ۲۸  | والضحیٰ واللیل اذا سجی کے کجا ہونے پر نکات عجیب |
| ۶۸۲  | ۲۸  | آیات سے تفصیل صدق، مولانا رضی اللہ عنہما        |
| ۶۵۹  | ۲۹  | چتر آئی آیات کی تفسیر کا سول                    |
| ۶۰   | ۲۹  | ترجمہ کرتے وقت کی احتیاطیں                      |
| ۱۱۶  | ۲۹  | اسوی علی العرش پر گفتگو                         |
| ۶۵۰  | ۲۹  | آیت لا اعلم الغیب کی تفسیریں                    |
| ۶۶۲  | ۲۹  | وعلم ادم الاسماء میں ایک قول                    |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ        |
|------|-----|--------------------|
| ۸۰   | ۳۰  | و مارمیت کی تفسیر  |
| ۱۱۵  | ۳۰  | سبعہ سیارہ کا بیان |

تقدیر:

|         |    |                          |
|---------|----|--------------------------|
| ۳۰۲۵۲۸۷ | ۲۹ | مسئلہ تقدیر کا روشن بیان |
|---------|----|--------------------------|

تقلید:

|         |    |                            |
|---------|----|----------------------------|
| ۱۱۲     | ۱  | تقلید سے عرفاً کیا مراد ہے |
| ۲۰۶     | ۱  | تقلید شخصی واجب ہے         |
| ۷۰۹۷۷۰۴ | ۶  | تقلید کے مسائل و اہمیت     |
| ۲۹۰     | ۱۳ | عوام پر تقلید واجب ہے      |
| ۱۹۴     | ۲۹ | تابعین اور صحابہ سب قلدتھے |
| ۱۹۵     | ۲۹ | تقلید واجب شرعی ہے         |
| ۳۹۲     | ۲۹ | تقلید فرض قطعی ہے          |

تلاوت:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۸۰ | ۳  | مسجد سے نکلنے والے جنسی کو تلاوت جائز نہیں           |
| ۵۵۸ | ۳  | تلاوت کے لئے پانی ہوئے ہوئے تیمم لغو ہے              |
| ۳۳۰ | ۵  | مکروہ اوقات میں تلاوت مکروہ ہے                       |
| ۲۵۷ | ۱۳ | تلاوت نذر سے لازم نہیں ہوتی                          |
| ۵۶۹ | ۲۲ | تلاوت کے دوران سلام کا جواب                          |
| ۳۷۹ | ۲۲ | تلاوت قرآن کن لوگوں کی تعظیم کے لئے موقوف کر سکتا ہے |
| ۱۱۸ | ۲۳ | مجلس میں تلاوت صحابہ کی سنت ہے                       |
| ۳۸۲ | ۲۳ | دو پارے تلاوت افضل یا ایک ربلع با ترجمہ              |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## تملیک:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۱۰۷ | ۱۰ | جس سے تملیک کرائی اس پر جبر نہ چاہیے |
| ۲۲۳ | ۱۹ | تملیک کی تفصیل                       |
| ۵۲۲ | ۲۰ | زکوٰۃ، صدقہ فطر میں تملیک ضروری ہے   |
| ۱۳۱ | ۲۳ | تملیک کے بغیر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی    |
| ۵۲۷ | ۲۵ | تملیک میں شرط کا حکم                 |
| ۵۵۶ | ۲۵ | تملیک کی وصیت ہونے کی صورت           |

## توارث و تعال:

|         |    |              |
|---------|----|--------------|
| ۲۳۸۵۲۳۳ | ۲۸ | تعال کی بحث  |
| ۲۵۱۵۲۳۸ | ۲۸ | توارث کی بحث |

## توبہ و استغفار:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۶۳۹      | ۱۳ | توبہ کی شرط   |
| ۶۳۹      | ۱۳ | شوہر سے بدزبانی پر توبہ ضروری ہے  |
| ۶۱۰      | ۱۳ | توبہ کا انکار کفر ہے  |
| ۶۱۲      | ۱۳ | توبہ صادقہ کا صلہ   |
| ۳۰۳، ۳۰۰ | ۱۳ | توبہ مرتد   |
| ۳۰۳      | ۱۳ | سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توبہ میں کرنے اور گالی دینے والے کی توبہ قبول نہ ہونے کا مطلب |
| ۳۹۸      | ۱۶ | جیسا گناہ ویسی توبہ   |
| ۳۰۳      | ۱۷ | سود سے توبہ کا صحیح طریقہ   |
| ۳۰۳      | ۱۷ | گناہ سے توبہ کرنے والا کیسا ہے  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۶۲۴  | ۱۸  | توبہ صادقہ کے لئے حال بدلنا چاہیے                   |
| ۵۶۴  | ۱۸  | جیسا گناہ ویسی توبہ                                 |
| ۱۴۱  | ۲۱  | سچی توبہ کا حکم                                     |
| ۱۴۱  | ۲۱  | سچی توبہ کون سی ہے                                  |
| ۱۴۲  | ۲۱  | ارکان توبہ  |
| ۱۴۱  | ۲۱  | توبہ کارکن اعظم                                     |
| ۱۴۲  | ۲۱  | جیسا گناہ ویسی توبہ چاہیے                           |
| ۳۲۳  | ۲۳  | جیسا گناہ ویسی توبہ چاہیے                           |
| ۵۲۳  | ۲۳  | توبہ سے سود اور رشوت کا مال پاک ہوتا ہے یا نہیں     |
| ۵۲۶  | ۲۳  | انگریز کے ساتھ رہنے والی مسلمان عورت کی توبہ کا حکم |
| ۸۳   | ۲۹  | کسی کی عورت سے بد فعلی پر معافی و توبہ کی تفصیل     |
| ۱۸۶  | ۳۰  | حضرت آدم کی توبہ کی قبولیت                          |

## توسل:

|          |    |                                   |
|----------|----|-----------------------------------|
| ۶۰۲      | ۷  | بوقت توسل منہ کدھر کرے            |
| ۶۰۷      | ۷  | توسل میں توجہ باطن ضروری ہے       |
| ۱۲۰۵۱۱۳  | ۹  | مختلف اشیاء سے توسل کا ثبوت       |
| ۱۳۲      | ۹  | توسل بلاشبہ محبوب ہے              |
| ۵۸۸      | ۹  | صالحین کی قبور سے تبرک            |
| ۶۸۸، ۶۸۵ | ۹  | اولیاء سے توسل                    |
| ۶۹۷      | ۹  | اولیاء سے توسل                    |
| ۸۲۳      | ۹  | شیئنا للہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی |
| ۱۹۳      | ۲۱ | توسل کا منکر سنی نہیں             |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                           |
|---------|-----|---------------------------------------|
| ۳۵۷۶۳۹۷ | ۲۱  | آثار مقدسہ سے توسل کا تفصیلی بیان     |
| ۳۶۳     | ۲۱  | اللہ اور رسول تک بے وسیلہ رسائی دشوار |
| ۵۱۸     | ۲۱  | آیت توسل کے لطائف                     |
| ۳۱۹     | ۲۱  | توسل کے جواز کی تصانیف کے نام         |
| ۱۸۰     | ۲۳  | علم و نشان شیعہ سے توسل باطل          |
| ۱۸۰     | ۳   | محبوبانِ خدا سے توسل محمود ہے         |
| ۱۹۵     | ۳۰  | وسیلہ محمدی کی برکت                   |
| ۲۳۲     | ۳۰  | مقام وسیلہ کیا ہے                     |

### توقیت و تعیین

|                              |        |   |
|------------------------------|--------|---|
| ۵۹۰، ۵۸۶، ۵۸۵، ۵۸۲           | جلد ۹  | توقیت و تعیین کے مسائل                          |
| ۵۸۰                          | ۹      | توقیت کی دو اقسام                               |
| ۵۷۰، ۵۶۹، ۵۶۸، ۵۳۹، ۳۶۹، ۳۶۸ | جلد ۱۰ | توقیت و ہیئت کے مسائل                           |
| ۶۲۱، ۶۲۰، ۶۱۹، ۶۱۸، ۵۷۵، ۵۷۱ | جلد ۱۰ | توقیت و ہیئت کے مسائل                           |
| ۳۳۶                          | ۱۸     | 25، 24 تاریخ کا فرق                             |
| ۳۳۶                          | ۱۸     | رات کے فرق کی توضیح                             |
| ۳۳۲                          | ۱۸     | انگریزی تقویم میں رات میں 12 بجے تاریخ بدلتی ہے |
| ۳۵۸                          | ۲۰     | مطلق شمس و قمر بدلنے کی مدت                     |
| ۱۲۳۶۱۱۳                      | ۳۰     | علم توقیت کے کچھ ضابطے                          |

### توہین :

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ۱۸۱ | ۳ | توہین عالم کی شرعی حیثیت |
|-----|---|--------------------------|

### تہجد :

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| ۸۱ | ۷ | تہجد اور جماعت میں تقابل |
|----|---|--------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|------|-----|---|
| ۸۳   | ۷   | تہجد کی نیت سے سونے والے کا حکم         |
| ۸۵   | ۷   | تہجد ترک جماعت کا عذر نہیں              |
| ۸۷   | ۷   | تہجد و جماعت میں تعارض نہیں             |
| ۹۱   | ۷   | تہجد اور جماعت اولیٰ                    |
| ۹۵   | ۷   | تہجد کی احادیث                          |
| ۲۰۰  | ۷   | تہجد سنت مستحبہ ہے                      |
| ۲۲۲  | ۷   | تہجد والا وتر تراویح کے بعد پڑھ سکتا ہے |
| ۲۲۶  | ۷   | کم از کم تہجد دو رکعت ہے                |

## تہمت:

|     |    |                                 |
|-----|----|---------------------------------|
| ۳۱۷ | ۲  | تہمت کی جگہ کھڑے ہونے کی ممانعت |
| ۷۸  | ۲۵ | تہمت کی جگہوں سے بچنے کا حکم    |
| ۵۷۹ | ۲۵ | تہمت لگانے والے کی سزا          |

## تیمم:

|         |   |   |
|---------|---|---|
| ۳۲۱     | ۱ | باب تیمم                                |
| ۱۰۶     | ۲ | تیمم میں دو انگلیوں سے مسح              |
| ۱۲۲     | ۲ | بیت تیمم خاک پر لوٹا تو حکم             |
| ۲۹۰     | ۲ | پانی ہوئے ہوئے سفر میں تیمم کی ایک صورت |
| ۳۸۳     | ۳ | پیراس کے لئے تیمم صرف کافر ذمی کے لئے   |
| ۴۷۰-۵۲۹ | ۴ | باب تیمم                                |
| ۳۱۸۵-۳۱ | ۵ | باب تیمم                                |
| ۶۳۸     | ۶ | کثرت احتلام والا تیمم کر سکتا ہے        |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------|-----|--|
| ۳۹۷  | ۹   | اچانک جنازہ آئے تو تیمم کر لے                  |
| ۳۳۳  | ۹   | نماز عید فوت ہونے کا خدشہ ہو تو تیمم کر لے     |
| ۳۳۳  | ۹   | ولی کو جنازے کے لئے تیمم جائز نہیں             |
| ۳۳۶  | ۹   | تیمم کا ضابطہ                                  |
| ۲۷۴  | ۱۵  | صعود طیب نہ ہو تو تیمم بھی ساقط                |
| ۲۲۸  | ۱۱  | بغیر تلاش پانی اگر تیمم کر لیا تو نماز نہ ہوگی |



منجی:

|         |   |                             |
|---------|---|-----------------------------|
| ۱۶۷     | ۶ | منجی ملانا                  |
| ۳۸۸۵۳۱۳ | ۷ | منجی سے نیچے تہ بند کردہ ہے |

ٹوپی:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۲۵۴      | ۱  | ٹوپی پر سح کا حکم                            |
| ۶۳۱      | ۶  | امام ٹوپی میں مقتدی عمامہ کے ساتھ تو کیا حکم |
| ۲۹۷      | ۷  | نماز میں ٹوپی گر جائے تو حکم                 |
| ۲۹۹      | ۷  | بغیر ٹوپی کے رومال کا حکم                    |
| ۴۰۳      | ۲۱ | حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی میں موئے مبارک     |
| ۱۷۶، ۱۵۲ | ۲۲ | ریشم کے کام والی ٹوپی پہننے کا حکم           |
| ۱۹۲      | ۲۲ | ترکی ٹوپی کی ابتداء کب سے                    |
| ۵۲۸      | ۲۳ | ٹوپی جو رافضیوں کا شعار تھی اس کا حکم        |

شیپ ریکارڈ:

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| ۴۶۸۵۳۱۱ | ۲۳ | شیپ ریکارڈ / فوٹوگراف |
|---------|----|-----------------------|

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|

## ﴿ج﴾

جانور:

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| ۶۶۱۵۶۳۳ | ۲۳ | جانوروں کو پالنا چرانا اور دیگر احکام |
|---------|----|---------------------------------------|

جراہ:

دیکھئے موزے:

جرمانہ:

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| ۱۱۱     | ۵  | مالی جرمانہ جائز نہیں |
| ۲۷۰     | ۱۲ | مالی جرمانہ منع ہے    |
| ۵۰۶۵۵۰۵ | ۱۳ | مالی جرمانہ منسوخ ہے  |
| ۲۷۳،۱۱۳ | ۲۱ | مالی جرمانہ منسوخ ہے  |

جماعت:

|        |   |                                    |
|--------|---|------------------------------------|
| ۴۱۳    | ۳ | جماعت ساقط ہونے کی ایک صورت        |
| ۴۷۲    | ۳ | اندھیری ترک جماعت کا عذر نہیں      |
| ۴۷۳    | ۳ | تاکید جماعت کی حدیثیں              |
| ۴۷۵    | ۳ | جماعت کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۳۲۹    | ۵ | اوقات جماعت                        |
| ۳۲۹    | ۵ | تاخیر جماعت                        |
| ۶۲۷    | ۶ | تارک جماعت کی امامت کا حکم         |
| ۲۳۳۵۳۷ | ۷ | باب الجماعۃ                        |
| ۴۳۰    | ۷ | نفل جماعت سے پڑھنے کا حکم          |



| ردیف | صفحہ | عنوان مسئلہ                             |
|------|------|---|
| ۲۹۷  | ۹    | جماعت اولیٰ کون سی ہے                   |
| ۶۰۳  | ۱۰   | جماعت نفل کا حکم                        |
| ۷۶۸  | ۱۰   | ترک جماعت بلاعذر گناہ                   |
| ۳۰۳  | ۱۱   | ترک جماعت کی عادت کا حکم                |
| ۵۵۱  | ۱۳   | جماعت کی حاضری عورتوں کے لئے            |
| ۲۳۲  | ۱۶   | ترک جماعت پر وعیدات                     |
| ۲۸۷  | ۱۶   | جماعت واجب ہے                           |
| ۵۵۸  | ۱۶   | تارک جماعت قاسق ہے                      |
| ۱۰۳  | ۲۳   | جماعت اولیٰ جماعت مسنونہ کے تارک کا حکم |
| ۷۱۷  | ۲۳   | تفریق جماعت اور ترک جماعت حرام          |
| ۱۸۵  | ۲۴   | نفل کی جماعت کا حکم                     |
| ۵۸۷  | ۲۶   | تارک جماعت کا حکم                       |
| ۲۸۳  | ۲۹   | بلاعذر شرعی تارک جماعت قاسق             |

جماع :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۰۷ | ۳  | رات جماع کیا صبح تک وقت میں آنکھ کھلی کیا کرے        |
| ۵۸۵ | ۴  | دوبارہ جماع کے لئے آلہ تناسل دھونے کا حکم            |
| ۶۲۷ | ۱۳ | جانور سے جماع کا حکم                                 |
| ۳۷۶ | ۲۳ | بیوی کا پستان منہ میں لے کر جماع                     |
| ۳۸۵ | ۲۳ | بیوی سے ہمبستری کا سنت طریقہ                         |
| ۴۰۳ | ۲۳ | آیات کریمہ اور اذکار لکھے ہوئے کمرے میں جماع بے ادبی |
| ۴۵۲ | ۲۴ | بیوی سے جماع کا سنت طریقہ                            |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                               |
|------|-----|---|
| ۹۳   | ۲۹  | شرابی خاوند کو عورت جماع سے نہیں روک سکتی |

## جمع بین الاقنین:

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| ۴۲۲ | ۱۱ | جمع بین الاقنین                  |
| ۶۵۱ | ۱۳ | جمع بین الاقنین کرنے والے کا حکم |

## جمع بین الصلوٰتین:

|         |   |                           |
|---------|---|---------------------------|
| ۳۴۰۵۱۵۹ | ۵ | جمع بین الصلوٰتین کا بیان |
|---------|---|---------------------------|

## جمعة المبارک:

|              |    |                                   |
|--------------|----|-----------------------------------|
| ۶۱           | ۲  | جمعة کا غسل                       |
| ۴۱۳          | ۳  | جمعة ساقط ہونے کی ایک صورت        |
| ۴۷۵          | ۳  | جمعة کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۳۹۷، ۴۸۷     | ۵  | جمعة کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۶۳۵          | ۶  | جمعة کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۴۲۲، ۵۲      | ۷  | جمعة کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۶۱۵          | ۷  | جمعة کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۱۵۳، ۱۲۷     | ۸  | جمعة کی حاضری معاف ہونے کی صورتیں |
| ۵۰۴، ۲۲۷، ۲۳ | ۸  | باب الجمعة                        |
| ۹۰۷          | ۹  | جمعة کے دن کثرت درود              |
| ۲۸۰          | ۹  | جمعة کی فرضیت سے پہلے جمعة        |
| ۵۵۹          | ۱۰ | جمعة کا روزہ                      |
| ۲۴۱          | ۱۱ | جمعة کی نماز سے پہلے نکاح کا حکم  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                  |
|------|-----|--|
| ۳۰۴  | ۱۱  | ترک جمعہ کی عادت پر وعید                     |
| ۱۲۳  | ۱۶  | جمعہ کے لئے مسجد شرط نہیں                    |
| ۲۸۷  | ۱۶  | کثیر بارش ترک جمعہ کا طرد ہے                 |
| ۳۶۱  | ۱۶  | جمعہ کے قیام کی شرائط                        |
| ۴۲۰  | ۱۶  | جمعہ کا قیام گاؤں میں ناجائز ہے              |
| ۴۷۰  | ۱۶  | جمعہ کے لئے مسجد شرط نہیں                    |
| ۴۲۰  | ۱۶  | شہر میں متعدد جگہ جمعہ جائز ہے               |
| ۵۵۵  | ۱۸  | جمعہ میں قاسق کی اقتدا جائز مگر شرط کے ساتھ  |
| ۲۶۵  | ۲۱  | ایم جمعہ تمام ہفتوں کا سردار ہے              |
| ۱۰۳  | ۲۳  | جمعہ کے فرضوں اور سنتوں کی نیت               |
| ۵۹۷  | ۲۳  | جمعہ کے خطبہ کے وقت سلام و کلام حرام         |
| ۶۸۸  | ۲۳  | جمعہ کے خطبہ کا اردو میں ترجمہ ساتھ پڑھنا    |
| ۳۷۹  | ۲۳  | جمعہ کی چھٹی کا حکم                          |
| ۵۹۷  | ۲۳  | خطبہ جمعہ کے وقت سلام و کلام حرام            |
| ۶۰۴  | ۲۳  | جمعہ کی اذان کے وقت تجارت کا حکم             |
| ۴۲   | ۲۷  | جمعہ کے روز، بیت آنے کا تذکرہ                |
| ۵۳   | ۲۸  | جمعہ کے خطبہ کی اذان مسجد سے باہر سنت        |
| ۲۲۳  | ۲۸  | جمعہ کیلئے سعی کا موجب اذان اول یا اذان خطبہ |
| ۲۰۵  | ۲۹  | جمعہ کے بعد احتیاط الظہر کا حکم              |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

جنائز :

|          |    |                                       |
|----------|----|---------------------------------------|
| ۱۱۳      | ۲  | مردہ ڈوب کر نکلے تو بھی غسل دیں       |
| ۱۱۶      | ۲  | بے نیت مردے کو غسل کا حکم             |
| ۵۷۰      | ۲  | میت کا سرپاک صابن سے سے دھوئیں        |
| ۳۰۲      | ۳  | میت کو تیمم کرانے کی ایک صورت         |
| ۳۲۵      | ۳  | نماز جنازہ تکبیروں پر ختم             |
| ۳۲۶      | ۳  | ولی جنازہ پڑھ لے تو دوبارہ جنازہ نہیں |
| ۵۷۰      | ۳  | نماز جنازہ کے لئے تیمم                |
| ۲۵۲      | ۴  | جب یا حائضہ کا غسل میت                |
| ۱۰۷      | ۵  | خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ        |
| ۱۲۰      | ۵  | بے نماز کی نماز جنازہ                 |
| ۳۷۵      | ۵  | نماز جنازہ کی مشروعیت                 |
| ۳۷۶      | ۵  | اسلام کا پہلا جنازہ                   |
| ۵۹۵      | ۶  | جنازہ پڑھانا امام پر لازم نہیں        |
| ۶۲۰      | ۶  | جنازہ میں عورت کی امامت               |
| ۳۹۵      | ۷  | جنازہ میں جائے نماز کا استعمال        |
| کامل جلد | ۹  | باب الجنائز                           |
| ۵۳۳      | ۱۰ | جنازہ اوقات مکروہہ میں                |
| ۳۳۱      | ۱۱ | مزارات پر قبہ بنانے کا ثبوت           |
| ۲۹۹      | ۱۲ | ہر مسلمان کی نماز جنازہ فرض           |
| ۱۲۲      | ۱۶ | جنازہ پر چادر کا وقف صحیح ہے          |
| ۶۱۸      | ۱۶ | رافضیوں کی جنازہ پڑھنا منع ہے         |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۲۵۳  | ۲۰  | فاسق کا جنازہ واجب                              |
| ۲۷۰  | ۲۱  | کافر کے جنازہ کو کندھا دینے کا حکم              |
| ۲۷۸  | ۲۲  | جنازہ قبر کے سامنے                              |
| ۱۱۲  | ۲۳  | فاسق کی نماز جنازہ فرض ہے                       |
| ۳۳۸  | ۲۳  | نماز جنازہ میں فاتحہ کا پڑھنا                   |
| ۱۹۸  | ۲۳  | کتنے میت کا جنازہ اکٹھا جائز                    |
| ۲۰۰  | ۲۳  | مرد اپنی زوجہ کا جنازہ اٹھا سکتا ہے             |
| ۱۹۸  | ۲۳  | تابلغ لڑکی لڑکے کے اکٹھے جنازے میں دعا کی ترکیب |
| ۳۶۸  | ۲۵  | تجھیز و تکفین سے مراد                           |
| ۵۹۱  | ۲۵  | مردہ کی تجھیز و تکفین سب سے مقدم                |
| ۱۶۹  | ۲۶  | عورت کی تجھیز و تکفین شوہر کے ذمہ               |
| ۲۹۹  | ۲۶  | وارث اپنے مال سے تجھیز و تکفین کرے تو حکم       |

## جنایات:

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ |
|------------|-----|-------------|
| ۷۶۲ تا ۷۱۳ | ۱۰  | جنایات      |

## جب / جنابت

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                      |
|------------|-----|----------------------------------|
| ۱۰۷۱       | ۱   | جنسی کے احکام                    |
| ۱۲۳        | ۲   | جب گولی کسی سے پانی کیسے لے      |
| ۱۳۰        | ۲   | جب کے دس کنوؤں میں جانے کا مسئلہ |
| ۲۵۳        | ۳   | جب کا ہاتھ پانی میں ڈوبے تو حکم  |
| ۱۹۰        | ۴   | جنابت کے ساتھ حدث بھی ہو تو حکم  |
| ۲۷۰ تا ۲۰۳ | ۴   | جب کے کچھ مسائل                  |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|---------|-----|---|
| ۳۱۸     | ۴   | جنابت وحدث کے اجتماع کی ایک صورت        |
| ۳۶۵     | ۴   | جنابت کی حالت میں سلام کے جواب کا طریقہ |
| ۳۸۰     | ۴   | جنابت کی حالت میں پینہ کا حکم           |
| ۶۷      | ۸   | جنسی مسجد کے صحن میں بھی نہ جائے        |
| ۳۳۳     | ۹   | جب کو عید فوت ہونے کا خدشہ ہو تو حکم    |
| ۵۵۳     | ۱۰  | جنابت میں روزہ                          |
| ۳۵۸۷۳۵۲ | ۱۶  | جب مسجد سے نہ گزرے                      |
| ۳۳۷     | ۲۳  | جب کو بہ نیت دعا آیات قرآن پڑھنا جائز   |

جن / ہمزاد :

|      |    |   |
|------|----|---|
| ۱۱۱۸ | ۱  | آسیب زدہ کا علاج                          |
| ۵۷۳  | ۴  | قوم جن کی خوراک کا بیان                   |
| ۲۱۶  | ۲۱ | ہمزاد کیا ہے اور اسکی تسخیر کے عمل کا حکم |
| ۵۶۶  | ۲۳ | عورت کو جن نوٹ دے جائے تو کیا کرے         |
| ۶۵۱  | ۲۳ | جنات کو انداز و تحذیر کے مختلف طریقے      |

جنس ارض :

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| ۳۰۲     | ۳ | جنس ارض کے مسائل         |
| ۷۱۲۷۳۷۳ | ۳ | جنس ارض کے مسائل (حاشیہ) |

جنون / مجنون

|      |    |                        |
|------|----|------------------------|
| ۱۱۱۸ | ۱  | مجنون کا علاج          |
| ۶۳۳  | ۱۹ | مجنون کی تعریف و احکام |

جنین :

|     |    |      |
|-----|----|------|
| ۲۶۱ | ۱۱ | جنین |
|-----|----|------|



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
| ۲۱۳  | ۱۷  | جین موئن ہے |

جواب:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۳۳۰ | ۱۷ | جئے کی تعریف                                      |
| ۳۲۹ | ۱۷ | ایک صورت جواہ                                     |
| ۳۳۱ | ۱۷ | ایک صورت قمار                                     |
| ۱۶۱ | ۱۷ | جواہ کی ایک صورت اور اس کی حرمت                   |
| ۳۳۱ | ۱۷ | چٹھی بھی قمار کی صورت ہے                          |
| ۳۳۲ | ۱۷ | چٹھی کے ذریعے مال کی فروخت جواہ ہے                |
| ۳۶۵ | ۱۷ | بیرہ جواہ ہے                                      |
| ۶۳۶ | ۱۹ | جواہ کاروبار حرام قطعی ہے                         |
| ۶۵۱ | ۱۹ | جئے کا مال اپنی ضروریات میں صرف کر دیا تو کیا کرے |
| ۱۵۵ | ۲۱ | جواری کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم                  |
| ۱۱۲ | ۲۳ | جئے کے مال پر ختم پڑھنا حرام                      |
| ۵۹۵ | ۲۳ | جئے کی ایک صورت بیرہ ہے                           |

جوتا:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۲۶۹ | ۳ | جوتائوں میں گراتو حکم                  |
| ۳۹۵ | ۴ | پیشاب والے جوتے کو پاک کرنے کا طریقہ   |
| ۲۰۸ | ۶ | استعمالی اور غیر استعمالی جوتوں کا حکم |
| ۳۱۳ | ۷ | جوتیاں سامنے رکھ کر نماز پڑھنا         |
| ۳۶۲ | ۷ | جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی تحقیق        |
| ۳۹۲ | ۷ | جوتے پہن کر مسجد میں جانا              |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                          |
|------|-----|--------------------------------------|
| ۳۹۷  | ۷   | نئے جوتے میں نفل جائز                |
| ۱۰۹  | ۸   | مسجدوں میں جوتے کہاں رکھیں           |
| ۸۸   | ۹   | جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا         |
| ۷۲۳  | ۹   | مردہ جوتوں کی آواز سنتا ہے کی حدیثیں |
| ۹۸   | ۲۳  | انگریزی وضع کے بوٹ کا حکم            |
| ۳۸۳  | ۲۳  | جوتے مسجد کے اندر رکھنا              |

جہاد:

|     |    |                                   |
|-----|----|-----------------------------------|
| ۵۴۰ | ۱۳ | جہاد کی اقسام و احکام             |
| ۳۱۶ | ۱۳ | عدم استطاعت سے جہاد فرض نہیں ہوتا |
| ۶۰۹ | ۲۳ | جہاد کی فضیلت اور اہمیت           |

جہاز / جہیز:

|          |    |                                     |
|----------|----|-------------------------------------|
| ۲۵۹۷۲۰۱  | ۱۲ | باب الجہاز (جہیز)                   |
| ۲۳۷ ۷۳۹۵ | ۱۳ | جہیز عورت کی ملکیت                  |
| ۲۸۷      | ۱۸ | جہیز کا سامان عاریہ ہو تو اس کا حکم |
| ۳۵۲      | ۱۹ | جہیز عورت کی ملک ہے                 |
| ۳۳۸      | ۲۶ | جہیز عورت کی ملک ہے                 |
| ۷۲       | ۲۶ | جہیز خاص عورت کا ہے                 |
| ۲۰۹      | ۲۶ | جہیز اور چڑھاوے کا حکم              |
| ۳۶۰      | ۲۶ | جہیز کے اسباب میں میراث کا سوال     |

جہاز:

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| ۱۱۳ | ۵ | جہاز میں نماز کا حکم |
|-----|---|----------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

جھوٹا :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۶۳ | ۲  | جھوٹا گھوڑے کا                                |
| ۶۲۵ | ۲  | جھوٹا گدھے کا                                 |
| ۵۰۳ | ۳  | جھوٹا بچر کا جس کی ماں گھوڑی ہو               |
| ۵۰۳ | ۳  | جھوٹا گدھے کا ہے تو تیم و وضو کرے             |
| ۳۲۷ | ۴  | جھوٹا کافر کا                                 |
| ۱۶۹ | ۹  | جھوٹا نصرانی کا                               |
| ۵۶۸ | ۲۲ | مسلمان کے جھوٹے کا حکم                        |
| ۶۰۶ | ۲۲ | جس کے لیوں کے بال بڑھے ہوں اس کے جھوٹے کا حکم |
| ۱۱۷ | ۲۳ | گلی کی مرغی کے جھوٹے سے وضو کا حکم            |

جھوٹے خدا:

|     |    |                      |
|-----|----|----------------------|
| ۵۳۳ | ۱۵ | قلاضہ کے جھوٹے خدا   |
| ۵۳۵ | ۱۵ | آریہ کے جھوٹے خدا    |
| ۵۳۷ | ۱۵ | مجوس کے جھوٹے خدا    |
| ۵۳۷ | ۱۵ | یہود کے جھوٹے خدا    |
| ۵۳۸ | ۱۵ | نصاری کے جھوٹے خدا   |
| ۵۳۹ | ۱۵ | نچری کے جھوٹے خدا    |
| ۵۴۱ | ۱۵ | چکڑالوی کے جھوٹے خدا |
| ۵۴۱ | ۱۵ | قادیانی کے جھوٹے خدا |
| ۵۴۳ | ۱۵ | رائضیوں کے جھوٹے خدا |
| ۵۴۵ | ۱۵ | وہابیوں کے جھوٹے خدا |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ             |
|------|-----|-------------------------|
| ۵۴۷  | ۱۵  | دیوبندیوں کے جھوٹے خدا  |
| ۵۴۹  | ۱۵  | غیر مقلدین کے جھوٹے خدا |



چاند:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۴۴۲     | ۳  | چاند گرہن کی نماز                                       |
| ۵۵۸     | ۳  | چاند گہن  |
| ۵۴۸     | ۵  | چاند اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم       |
| ۵۸۶     | ۸  | چاند کی اطلاع میں تار کی خبر                            |
| ۵۹۴     | ۸  | چاند میں اختلاف ہو تو قربانی کا حکم                     |
| ۴۷۸۶۳۵۲ | ۱۰ | چاند اور تار کی خبر                                     |
| ۴۰۵     | ۱۰ | چاند کا اثبات اور اس کے سات طریقے                       |
| ۴۲۱     | ۱۰ | چاند کے اثبات کے سات غلط طریقے                          |
| ۴۴۹     | ۱۰ | چاند کی رویت اور احکام                                  |
| ۶۰۸     | ۱۰ | چاند اور تار کی خبر                                     |
| ۴۶۵     | ۱۹ | چاند مہینہ بھر میں آسمان کی اٹھائیں منزلیں طے کرتا ہے   |
| ۴۸۵     | ۳۰ | چاند کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشارے پر چلنا |

چاندی:

|     |    |               |
|-----|----|---------------|
| ۶۹۵ | ۳  | چاندی پر تیمم |
| ۶۰۴ | ۳  | چاندی پگھلنا  |
| ۸۵  | ۱۰ | چاندی کا نصاب |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|---------|-----|---|
| ۱۱۳     | ۱۰  | چاندی اور سونے کو ملانے کا حکم                  |
| ۱۳۴     | ۱۰  | چاندی کا نصاب                                   |
| ۵۲۶۵۱۵۴ | ۱۰  | چاندی کا نصاب                                   |
| ۱۱۱     | ۲۲  | چاندی کے پونام کتوں میں لگانے کا حکم            |
| ۱۱۲     | ۲۲  | چاندی کے استعمال میں اصل حرمت ہے                |
| ۱۱۲     | ۲۲  | چاندی کی چند چیزوں کا استعمال مردوں کے لئے جائز |
| ۱۱۳     | ۲۲  | چاندی کے پتر کے استعمال کا سوال و جواب          |
| ۱۳۰     | ۲۲  | چاندی کے جھلنے کا حکم                           |
| ۱۳۲     | ۲۲  | مرد کے لئے چاندی کے استعمال کی ۱۴ صورتیں        |
| ۶۷۹     | ۲۲  | چاندی کے ناخن استعمال کرنا مرد و عورت کو ناجائز |

چاشت:

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| ۸۲ | ۵ | نماز چاشت کی ابتداء |
|----|---|---------------------|

چندہ:

|     |    |                                       |
|-----|----|---------------------------------------|
| ۵۶۶ | ۸  | نماز سے پہلے چندہ کی تحریک کا حکم     |
| ۲۶۰ | ۱۰ | چندہ کی رقوم مخلوط کرنا جائز مگر      |
| ۱۰۱ | ۱۵ | حرام کام میں چندہ دینا بھی حرام       |
| ۱۲۶ | ۱۶ | چندہ چندہ دہندگان کی ملک ہے           |
| ۲۰۶ | ۱۶ | چندہ سے بچی رقم کا حکم                |
| ۲۲۳ | ۱۶ | چندہ کا چیک ٹائم پر بھن نہ سکے تو حکم |
| ۳۶۳ | ۱۶ | چندہ کے مصارف کا بیان                 |
| ۲۱۰ | ۱۶ | چندہ میں اضافہ کے لئے شرط             |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۱۶۱  | ۱۹  | چندہ چندہ دہندوں کی ملک پر ہوتا ہے                            |
| ۲۹۶  | ۲۱  | ہندوؤں اور مسلمانوں کا مشترکہ چندہ جمع کرنا                   |
| ۲۵۸  | ۲۱  | خلافت کے نام پر چندہ لینے والوں کے مقاصد                      |
| ۱۳۰  | ۲۳  | بد مذہبوں سے مشترکہ یتیم خانے میں زکوٰۃ کی مدد سے چندے کا حکم |
| ۱۲۸  | ۲۳  | چندہ اکٹھا کرنا صحابہ کی سنت                                  |
| ۳۸۰  | ۲۳  | مسجد میں چندہ مانگنے کی جائز صورتیں                           |
| ۳۸۹  | ۲۳  | چندہ دینے والوں کے نام لکھنا                                  |
| ۵۶۰  | ۲۳  | چندہ دے کر واپس لیا کچھ زائد آجائے تو حکم                     |
| ۵۹۰  | ۲۳  | چندے کا اختیار چندہ دینے والوں کو ہے                          |
| ۳۳۵  | ۲۵  | یتیم خانہ کے چندہ کا یتیموں پر مصرف                           |

## چور / چوری :

|     |    |                                       |
|-----|----|---------------------------------------|
| ۷۳  | ۱۰ | چور سے مال کی معافی کی ایک صورت       |
| ۱۶۵ | ۱۷ | علم کے بعد چوری کا مال خریدنا حرام ہے |
| ۶۳۶ | ۱۹ | چوری کا روپیہ حرام قطعی ہے            |
| ۱۱۲ | ۲۳ | چوری کے مال پر ختم حرام               |
| ۳۰۷ | ۲۳ | چوری ثابت تو حاکم ہاتھ کاٹے گا        |
| ۵۳۱ | ۲۹ | چور کے قتل کا حکم                     |

## چوہا:

|         |   |                                    |
|---------|---|------------------------------------|
| ۲۹۳     | ۳ | پھولا چوہا نکلے تو حکم             |
| ۳۷۸     | ۴ | چوہا راب میں گر جائے تو حکم        |
| ۵۶۷۵۳۹۸ | ۴ | کھانے سے چوہے کی میٹھی نکلے تو حکم |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## (۲)

حج:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۴۶۴     | ۳  | حج کو حج کی رقم طے تو حکم                             |
| ۸۰      | ۱۰ | حج کے وجوب کی صورت                                    |
| ۸۲۸۵۶۵۷ | ۱۰ | کتاب الحج   |
| ۶۵۹     | ۱۰ | حج بدل  |
| ۶۹۹     | ۱۰ | حج کی شرائط   |
| ۳۳۶     | ۱۸ | لیالی حج کا حکم                                       |
| ۴۹۷     | ۱۹ | حج قرض سے کرے تو حکم                                  |
| ۱۹۸     | ۲۱ | حج کی ادائیگی کی رشوت کے بغیر صورت نہ ہو تو حکم       |
| ۲۰۷     | ۲۱ | جن کا نقد لازم ہے اس کا انتظام کئے بغیر حج کو نہ جائے |
| ۲۲۲     | ۲۲ | عورت باآواز بلند تکبیر نہ کہے                         |
| ۶۵۱     | ۲۲ | عورت کے احرام سے نکلنے کے لئے قصر ہے                  |
| ۶۰۲     | ۲۲ | تقصیر حج کا مطلب                                      |
| ۱۰۶     | ۲۳ | عورت کا بلا اذن شوہر حج کیلئے جانے کا حکم             |
| ۵۴۲     | ۲۳ | سودی روپیہ سے حج کا حکم                               |
| ۵۹۸     | ۲۳ | حج کیلئے انگریزی سودی کمپنی (ایئر لائن) پر سفر کرنا   |
| ۱۴۲     | ۲۳ | دوسرے کی طرف سے حج نفل                                |
| ۳۳۹     | ۲۳ | مال حرام سے حج کرنا                                   |
| ۲۷۴     | ۲۸ | اعلان حج اور حضرت ابراہیم علیہ السلام                 |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

حجاب :

دیکھئے ستر:

حجر:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۱۸     | ۲  | ماذون غلام کے لئے دعوت کا اختیار           |
| ۵۲۷     | ۲  | بچہ سے کوئی چیز خریدنا کب جائز ہے          |
| ۳۹۹     | ۱۲ | آثار بلوغ کے عدم ظہور میں ۱۵ سال پر بالغ   |
| ۲۹۴     | ۱۳ | آثار بلوغ کے عدم ظہور میں ۱۵ سال پر بالغ   |
| ۲۹۴     | ۱۳ | حد صغر عورت کی                             |
| ۶۹۰     | ۱۷ | قاضی کے حجر کے بعد بھی اس کو تصرف کا حق ہے |
| ۵۳۷     | ۱۸ | حجر کی دو قسمیں ہیں                        |
| ۶۳۰۵۶۱۵ | ۱۹ | باب الحجر                                  |

حداد:

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| ۲۹۸     | ۱۳ | سوگ تین دن                           |
| ۳۳۳۶۳۲۷ | ۱۳ | باب الحداد                           |
| ۲۷۶     | ۲۱ | مسلمان کا سوگ تین دن سے زائد حرام ہے |
| ۲۸۸۵۳۷۷ | ۲۳ | سوگ نوحہ وغیرہ کے احکام              |

حدث:

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ۸۴  | ۲ | حدث متجزی ہے             |
| ۹۷  | ۲ | حدث اکبر واصغر           |
| ۳۸۵ | ۳ | تیمم میں حدت کی ایک صورت |
| ۲۶۸ | ۴ | حدت تابع و مستقل         |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--------------|
| ۲۷۷  | ۴   | حدث مندرج    |
| ۲۸۰  | ۴   | حدث مستقل    |
| ۲۶۵  | ۴   | حدث منجری ہے |

حدود:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۱۹۵      | ۱۱ | زنا کی تہمت لگانے والے کی حد                            |
| ۲۰۷      | ۱۱ | شبہ نکاح سے حد ساقط ہوگی                                |
| ۳۳۵      | ۱۱ | حد قذف رد ہونے کی ایک صورت                              |
| ۳۶۵      | ۱۱ | حرمیت مصاہرہ میں قبل تفریق وطی پر حد نہیں               |
| ۳۸۲      | ۱۱ | حد کرنے والے پر حد زنا ہے                               |
| ۵۸۱، ۵۶۲ | ۱۱ | شبہ واضح حد ہے  |
| ۴۰۰      | ۱۲ | مطلقہ مغلطہ سے دوران عدت وطی پر حد ہے                   |
| ۳۱۶      | ۱۳ | قیام حدود کب  |
| ۶۵۷، ۶۱۳ | ۱۳ | کتاب الحدود والتعزیر                                    |
| ۳۸۱      | ۱۵ | قرآن کو تعلق کہنے والے کا حکم                           |
| ۶۸۲      | ۱۵ | فضیلت علی بر خلفاء ثلاثہ پر ۸۰ کوڑے سزا                 |
| ۵۰۳      | ۱۶ | طالب علم کی شرعی حد تعزیر                               |
| ۵۷۳      | ۱۶ | ہندوستان میں تعزیر کی صورت مقاطعہ ہے                    |
| ۶۱۸      | ۶۶ | رافضیوں کو متولی بنانے والے مستحق تعزیر ہیں             |
| ۴۱۰      | ۱۷ | نوٹ کی چوری پر حاکم اسلام ہاتھ کاٹے گا                  |
| ۳۸۰      | ۱۷ | اعلانیہ سود خور کا مقاطعہ ضروری                         |
| ۶۲۳      | ۱۸ | زنا کی تہمت کے بعد گواہ پیش نہ کئے تو حد قذف لگے گی     |
| ۶۲۳      | ۱۸ | ہندوستان میں بادشاہ اسلام نہیں لہذا حد قذف نافذ نہ ہوگی |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                               |
|----------|-----|---|
| ۵۰۶      | ۱۹  | تعزیر مال منسوخ ہے                        |
| ۶۶۵      | ۱۹  | تعزیر بالمال کا حکم                       |
| ۱۱۳      | ۲۱  | تعزیر بالمال کا حکم                       |
| ۳۲۲      | ۲۳  | حد قذف                                    |
| ۳۳۱، ۳۲۲ | ۲۳  | تعزیر بالمال منسوخ                        |
| ۲۲۲      | ۲۳  | لغزشیں کریموں کی دور کرو                  |
| ۶۵۲      | ۲۳  | استاد کے شاگرد کو سزا دینے کی شرائط       |
| ۵۷۹      | ۲۵  | تہمت لگانے والے کی سزا                    |
| ۱۳۷      | ۲۶  | زنا کی تہمت پر ۸۰ کوڑے                    |
| ۶۵       | ۲۹  | زنا کے خلاف رضامندی و بلا رضامندی میں فرق |

## حدیثیہ فوائد :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۱۳ | ۱  | المعلق عندنا کا الموصول                        |
| ۳۱۷ | ۱  | حدیث ضعیف استحباب میں مقبول ہے                 |
| ۵۸  | ۵  | حدیث اعتم النبی کے تین محمل                    |
| ۷۱  | ۷  | حدیث ما جد لک رخصۃ کا معنی                     |
| ۲۲۲ | ۸  | حدیث قد تعدی کا محمل                           |
| ۵۰۳ | ۸  | وہ احادیث جن میں اذان کے ساتھ فی المسجد آیا ہے |
| ۵۲۷ | ۸  | ہر جلسہ کے بعد دعا کی تاکید کی حدیث            |
| ۵۲۹ | ۸  | جلسہ صلوٰۃ کے بعد تاکید دعا                    |
| ۵۲۵ | ۸  | خطبہ عید کی حدیث                               |
| ۲۷۲ | ۱۱ | حدیث لاتنکح المرأة پر بحث                      |
| ۳۰۵ | ۱۱ | کلامی لاینسخ کلام اللہ کا حکم                  |

| صفحہ | جلد | ظہان مسئلہ   |
|------|-----|--|
| ۳۵۷  | ۱۱  | حدیث لایحرم الحرام الحلال                              |
| ۳۶۳  | ۱۱  | تاریے نہیب کی سوید چہ احادیث                           |
| ۳۸۳  | ۱۱  | ان الله حرم من الرضاع الخ حدیث پاک                     |
| ۷۲۳  | ۱۱  | ولد الزناء شر الطلہ کا مطلب                            |
| ۷۲۳  | ۱۱  | فرخ الزناء لا یدخل الجنة                               |
| ۱۹۹  | ۱۲  | مطلب حدیث جس میں نیت ادائے مہر نہ ہوگی کی وعید کا بیان |
| ۳۰۷  | ۱۲  | مطلب حدیث انا اول من یفتح باب الجنة                    |
| ۴۰۹  | ۱۲  | مطلب حدیث لعن الله المحلل الخ                          |
| ۶۵۰  | ۱۳  | مطلب الشیخ فی قومہ کا معنی فی امتہ                     |
| ۱۸۸  | ۱۳  | الائمة من قریش پر گفتگو                                |
| ۱۹۸  | ۱۳  | اسمعوا واطیعوا پر وہم کا ازالہ                         |
| ۲۲۲  | ۱۳  | ملعن مولود کی تشریح                                    |
| ۲۸۸  | ۱۳  | اعل البدع کلاب اعل النار کی تشریح                      |
| ۳۵۱  | ۱۳  | احادیث جن میں خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہے           |
| ۳۹۶  | ۱۳  | احادیث مشرکین سے استعانت کی تحریم پر                   |
| ۵۸۳  | ۱۳  | گمراہوں سے اجتناب کی حدیث مسلم                         |
| ۶۲۷  | ۱۳  | الفقر فخری بے اصل ہے                                   |
| ۶۳۱  | ۱۳  | اللهم احیني مسکینا کا صحیح مطلب                        |
| ۲۸۷  | ۱۳  | من عادلی ولیا فقد اذنتہ بالحرب                         |
| ۱۵۷  | ۱۵  | حدیث یا جوج ماجوج کی تاویلات                           |
| ۲۹۶  | ۱۵  | حب الوطن من الایمان حدیث نہیں                          |
| ۶۲۵  | ۱۵  | انخلوا قبور انبیاء ہم مساجد کی شرح                     |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۶۳۹      | ۱۵  | حدیث شفاعت   |
| ۶۷۲      | ۱۵  | اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو نبی ہوتے پر بحث                     |
| ۶۷۹      | ۱۵  | حضرت علی کی فضیلت علی خلفاء ثلاثہ کی موہم حدیث اور ازالہ وہم |
| ۹۱       | ۱۷  | کل قرض جر نفعاً فہو ربوا کی مثال                             |
| ۲۲۷      | ۱۷  | اس حدیث پر حدیث جمل ہے استشہاد                               |
| ۳۲۰      | ۱۷  | حدیث جابر اور ابو ہریرہ کی احادیث سے استدلال                 |
| ۲۸۳      | ۱۸  | انت و مالک لایبک کا مطلب                                     |
| ۳۱۰      | ۱۸  | احادیث برائے خدمت والدین                                     |
| ۴۹۲      | ۱۸  | اتبعوا السواد الاعظم کا مطلب                                 |
| ۲۹۱      | ۱۹  | حدیث اکل بنیک نحلث مثل ہذا کا مطلب                           |
| ۳۳۳      | ۱۹  | لو یعطی الناس بدعتہم کی تقریر                                |
| ۶۲۳      | ۱۹  | انت و مالک لایبک کی تاویل                                    |
| ۳۱۲      | ۲۰  | حرمت خر کی حدیث  |
| ۴۶۶      | ۲۰  | مصارف قربانی کی حدیث   |
| ۵۲۳، ۲۷۵ | ۲۰  | حدیث من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ کا محل                   |
| ۵۹۶      | ۲۰  | الولد مرتہن بعقیقۃ کی تشریح                                  |
| ۱۱۰      | ۲۱  | رد الصلوٰۃ علی النبی کا معنی                                 |
| ۱۲۵      | ۲۱  | حدیث اعلنوا النکاح کی توجیہ                                  |
| ۲۳۳      | ۲۱  | حدیث لاتستضیئوا ببناء المشرکین تشریح                         |
| ۳۰۹      | ۲۱  | حدیث ربیعہ کی شرح  |
| ۳۶۵      | ۲۱  | حدیث ابو ہریرہ کی دو تاویلیں                                 |
| (ح) ۳۶۸  | ۲۱  | حدیث اغیظ رجل علی اللہ کی تاویل                              |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۱۱۴  | ۲۲  | چاندی کے استعمال کی حدیث                            |
| ۱۵۸  | ۲۲  | سرکار نے پانچامہ خریدا                              |
| ۱۶۴  | ۲۲  | عورتوں کے لباس کے حلق سرکار کی پیشین گوئی           |
| ۲۷۸  | ۲۲  | خاص کیفیت مصافحہ کی احادیث                          |
| ۲۹۹  | ۲۲  | اختلاف امتی و حمة کی سند میں قول معنی               |
| ۲۹۷  | ۲۲  | کلامی لاینسج کلام اللہ کی فنی حیثیت                 |
| ۲۹۹  | ۲۲  | حدیث صلح و زیاک کا معنی                             |
| ۲۴۱  | ۲۲  | سرکار کے طیرہ مبارک کی احادیث                       |
| ۲۴۲  | ۲۲  | کفار کی مخالفت کی احادیث                            |
| ۲۶۵  | ۲۲  | احادیث کہ مرد عورت کا کعبہ بانہر حرام               |
| ۲۸۵  | ۲۲  | ناخن تراشنے کی احادیث میں تطبیق                     |
| ۱۶۹  | ۲۳  | حدیث خیر الذکر الخفی کا مطلب                        |
| ۲۰۵  | ۲۳  | حدیث من ابطاء بہ عملہ ..... الخ کا معنی             |
| ۳۲۰  | ۲۳  | حدیث من تشبه بقوم فهو منهم کی تشریح                 |
| ۳۲۵  | ۲۳  | رہل کے بارے میں حدیث رسول کی تشریح                  |
| ۳۸۵  | ۲۳  | روزانہ کلمہ کی ممانعت کی حدیث کا مطلب               |
| ۵۱۸  | ۲۳  | حدیث الحلال بین کی تشریح                            |
| ۱۴۰  | ۲۳  | حدیث میں معارف کے لفظ سے مراد                       |
| ۲۳۷  | ۲۳  | مختلف احادیث میں تطبیق                              |
| ۲۵۳  | ۲۳  | دو حدیثوں میں توفیق                                 |
| ۳۸۵  | ۲۳  | حدیث لما نقل النبی ﷺ سے جواز نوحہ کے استدلال کا حکم |
| ۲۶۰  | ۲۳  | سانپ کو نہ مارنے کی حدیث کی توجیہ                   |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|---------|-----|--|
| ۷۱۳     | ۲۳  | ایک ضعیف السند حدیث                        |
| ۸۲      | ۲۵  | حقہ کی حرمت پر گھڑی ہوئی حدیث              |
| ۱۳۷     | ۲۵  | زیادہ احادیث                               |
| ۵۲۲     | ۲۶  | سوادِ اعظم کی پیروی کا حکم حدیث میں        |
| ۵۳۶     | ۲۶  | خیر القرون قرنی کا معنی                    |
| ۲۲      | ۲۷  | ان اللہ تعالیٰ خلق آدم علیٰ صورته کی تشریح |
| ۲۳      | ۲۷  | عبادہ ثلاثہ سے مراد                        |
| ۲۵      | ۲۷  | حدیث من قطع میراث وارثہ الخ کا حکم         |
| ۲۶      | ۲۷  | من زوا میراثا عن وارثہ الخ کا حکم          |
| ۵۴      | ۲۷  | حدیث کی تفسیر حدیث سے سب سے بہتر           |
| ۵۰      | ۲۷  | حدیث کو موضوع کب کہیں گے                   |
| ۲۹      | ۲۷  | روایت حدیث کے دو طریقے                     |
| ۲۹      | ۲۷  | اولیت خلق کی احادیث اور ان پر گفتگو        |
| ۵۵      | ۲۷  | قول حماد ترکت الحدیث کا مطلب               |
| ۵۸      | ۲۷  | شانِ امامِ اعظم والی حدیث پر گفتگو         |
| ۸۶۵۶۸   | ۲۷  | اذاصح الحدیث فهو مذہبی پر مستقل رسالہ      |
| ۶۳۷۵۶۳۱ | ۲۸  | اٹھارہ احادیث اور ان کے مطالب              |
| ۶۳      | ۲۹  | مرقاۃ کی ایک حدیث پر سوال و جواب           |
| ۱۱۳     | ۲۹  | حدیث لولاک پر گفتگو                        |
| ۲۲۶     | ۲۹  | لامہدی الاعیسیٰ حدیث صحیح نہیں             |
| ۲۹۰     | ۲۹  | واللہ لا ادری پر گفتگو                     |
| ۵۷۶     | ۲۹  | 60 احادیث شفاعت                            |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                         |
|------|-----|-------------------------------------|
| ۵۷۴  | ۲۹  | فتاوت کبریٰ کی حدیثیں               |
| ۵۶۶  | ۳۰  | ولہائیس کی فقہی تقریر               |
| ۲۲۰  | ۳۰  | فتاوت کی احادیث                     |
| ۲۸۴  | ۳۰  | حدیث ان ابی و اہاک سے مراد          |
| ۵۸۸  | ۳۰  | احادیث شیت کی فقہی تقریر            |
| ۶۵۴  | ۳۰  | حدیث مرسل کی تعریف و حکم            |
| ۶۵۹  | ۳۰  | حدیث جاہر کی سند                    |
| ۶۶۷  | ۳۰  | حدیث لولاک پر گفتگو                 |
| ۷۴۱  | ۳۰  | لم یکن لہ ظل ..... پر محدثانہ گفتگو |

حرام:

|      |   |   |
|------|---|---|
| ۹۰۷  | ۱ | قرض سے حرام تک احکام شرعیہ کی گیارہ قسمیں |
| ۱۰۷۲ | ۱ | حالت ناپاکی میں مسجد میں جانا حرام        |
| ۴۷۸  | ۲ | آب مضموب کا استعمال حرام ہے               |
| ۳۳۳  | ۳ | حرام پیسے سے بنے حوض کا حکم               |
| ۵۸۲  | ۵ | مسلمان کی طرف ناحق گناہ کی نسبت حرام      |
| ۳۳۷  | ۶ | قرآن کریم الٹا پڑھنا حرام ہے              |
| ۵۳۸  | ۶ | مسلمانوں کو گالی سخت حرام ہے              |
| ۵۹۵  | ۶ | بے ضرورت سوال حرام ہے                     |
| ۶۱۰  | ۶ | سینہ تک بال مردوں کو حرام                 |
| ۳۰۸  | ۷ | انگریزی وضع کے کپڑے حرام ہیں              |
| ۱۱۲  | ۸ | مسجد میں دنیا کی باتیں حرام ہیں           |
| ۱۷۰  | ۹ | عیسائی کی نماز جنازہ حرام ہے              |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|------|-----|--|
| ۱۷۲  | ۹   | رافضی کی نماز جنازہ حرام ہے                |
| ۲۸۵  | ۹   | خالی قبرستان چھوڑ کر بھرے میں دفن حرام ہے  |
| ۲۰۷  | ۹   | مسجد صحن میں دفن حرام                      |
| ۶۲۶  | ۹   | تلاوت پر اجرت حرام                         |
| ۹۰۷  | ۹   | انبیاء کے بدنوں کو کھانا زمین پر حرام ہے   |
| ۲۶۷  | ۱۰  | سادات پر مال زکوٰۃ حرام ہے                 |
| ۱۰۹  | ۱۱  | ناج واکثر باجے حرام ہیں                    |
| ۱۲۲  | ۱۱  | بدگمانی حرام ہے                            |
| ۵۱۷  | ۱۱  | حرمت کے اسباب                              |
| ۱۰۹  | ۱۲  | نشہ آور قلیل رقیق شئی بھی حرام ہے          |
| ۲۹۱  | ۱۲  | مسلمان پر بدگمانی حرام ہے                  |
| ۳۱۲  | ۱۲  | کتمان علم حرام ہے                          |
| ۳۳۲  | ۱۲  | والدین کی نافرمانی حرام ہے                 |
| ۵۹۳  | ۱۲  | بیوی کا دودھ پینا حرام ہے                  |
| ۵۹۵  | ۱۲  | بعد طلاق بائن بے تجدید نکاح مباشرت حرام ہے |
| ۲۷۰  | ۱۲  | منسوخ پر عمل حرام ہے                       |
| ۳۰۰  | ۱۳  | بدگمانی حرام ہے                            |
| ۳۶۶  | ۱۳  | کتاب بہشتی زیور دیکھنا حرام ہے             |
| ۶۲۳  | ۱۳  | زنا کافرہ سے بھی حرام ہے                   |
| ۶۳۸  | ۱۳  | حسد حرام ہے                                |
| ۱۳۳  | ۱۳  | کفر سے اتحاد حرام                          |
| ۱۳۵  | ۱۳  | اللہ ورسول کے دشمنوں سے دوستی حرام ہے      |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۵۵۲  | ۱۴  | حرام لعینہ اور لغیرہ کا بیان                                |
| ۶۱۲  | ۱۴  | بے تحقیق مسئلہ کا جواب حرام                                 |
| ۶۵۵  | ۱۴  | ٹونا ٹونا حرام ہے   |
| ۶۷۵  | ۱۴  | جالس کفار میں شریک حرام ہے                                  |
| ۷۰۸  | ۱۴  | ڈاڑھی منڈوانا حرام ہے                                       |
| ۱۰۰  | ۱۵  | تعظیم مشرک کے جلوں کا تماشہ دیکھنا حرام                     |
| ۱۰۱  | ۱۵  | حرام کام میں چہرہ دینا حرام                                 |
| ۱۰۱  | ۱۵  | مشرک کو واعظ مسلمان بنانا بھی حرام                          |
| ۱۵۴  | ۱۵  | سجدہ تعظیسی حرام ہے   |
| ۱۵۴  | ۱۵  | حرامیر حرام   |
| ۱۷۱  | ۱۵  | سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا حرام ہے |
| ۱۲۱  | ۱۶  | زناہ کی کمائی حرام ہے                                       |
| ۱۶۲  | ۱۶  | وقف میں مالکانہ تصرف حرام ہے                                |
| ۴۹۱  | ۱۶  | مسجد میں سوال کرنا حرام                                     |
| ۴۹۱  | ۱۶  | غیر محکم کو مسجد میں مباح بات چیت حرام                      |
| ۵۰۸  | ۱۶  | قبرستان میں نیا راستہ نکالنا حرام ہے                        |
| ۱۶۵  | ۱۷  | مال مسروقہ کو علم کے بعد خریدنا حرام ہے                     |
| ۱۷۰  | ۱۷  | افیون کی بیچ کھانے کے لئے حرام ہے                           |
| ۱۷۱  | ۱۷  | مردار کی بیچ حرام ہے  |
| ۱۷۱  | ۱۷  | قبرستان کی بیچ حرام ہے                                      |
| ۴۶۹  | ۱۸  | رشوت دے کر فیصلہ لینا حرام ہے                               |
| ۵۶۶  | ۱۸  | حرام کھانے سے فائدہ بہتر ہے                                 |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                       |
|------|-----|---|
| ۲۶۵  | ۱۸  | رهن دخلی حرام ہے                                  |
| ۲۴۵  | ۱۹  | چند حرام مال اور ان کی تفصیل                      |
| ۱۹۶  | ۲۰  | جھوٹ حرام ہے                                      |
| ۳۱۲  | ۲۰  | گدھا حرام ہے                                      |
| ۲۳۰  | ۲۰  | بدگمانی حرام ہے                                   |
| ۱۲۵  | ۲۱  | کافر سے دوستی حرام ہے                             |
| ۱۵۹  | ۲۱  | حرام کو تماشہ بنانا بھی حرام ہے                   |
| ۱۷۲  | ۲۱  | بدگمانی حرام ہے                                   |
| ۱۸۳  | ۲۱  | لحیبہ سے خلوت حرام ہے                             |
| ۱۸۷  | ۲۱  | فعل حرام کی اجرت بھی حرام                         |
| ۲۵۳  | ۲۱  | کافر کو مہاتما کہنا حرام ہے                       |
| ۲۵۸  | ۲۱  | مساجد میں مشرکوں کا لیکچر حرام                    |
| ۲۷۳  | ۲۱  | منسوخ پر عمل حرام ہے                              |
| ۲۲۰  | ۲۱  | تندرست بھکاری کو دینا حرام                        |
| ۲۱۳  | ۲۲  | جنت فحش بکنے والے پر حرام ہے                      |
| ۳۷۸  | ۲۲  | کافر کو سلام کرنا حرام                            |
| ۳۸۲  | ۲۲  | غیر خدا کو سجدہ حرام ہے                           |
| ۳۲۰  | ۲۲  | سادات کی توہین حرام ہے                            |
| ۵۶۲  | ۲۲  | اپنے لئے ہاتھ باندھ کر کھڑا رکھنے کی تمنا حرام ہے |
| ۶۰۶  | ۲۲  | حرام حرام میں فرق ہے                              |
| ۶۰۶  | ۲۲  | بھنگ جس شراب حرام ہے                              |
| ۶۵۵  | ۲۲  | ڈاڑھی موٹنا کترنا حرام ہے                         |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۹۸   | ۲۳  | ڈاڑھی موٹنا کتنا حرام ہے                        |
| ۹۸   | ۲۳  | سیاہ خضاب حرام ہے                               |
| ۷۵۹  | ۲۳  | خطبہ جمعہ کے وقت سلام و کلام حرام ہے            |
| ۷۱۷  | ۲۳  | ترک جماعت حرام ہے                               |
| ۱۰۶  | ۲۳  | تعمیر تماشے کی اجرت حرام ہے                     |
| ۱۹۵  | ۲۳  | چوری اور جوئے کے مال پر ختم حرام                |
| ۳۲۶  | ۲۳  | بدگمانی حرام                                    |
| ۱۳۹  | ۲۳  | حرام ہر حال میں حرام ہے                         |
| ۳۹۴  | ۲۳  | فقیر بن کر بھیک مانگنا حرام ہے                  |
| ۳۸۷  | ۲۳  | سوتلی ماں حرام ہے                               |
| ۲۱۳  | ۲۵  | نشہ بزازہ حرام ہے                               |
| ۲۵۹  | ۲۵  | اجرت مجہول میں اجارہ حرام ہے                    |
| ۶۹   | ۲۵  | وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے                         |
| ۵۷۸  | ۲۵  | کسی کی طرف حرام کاری کی نسبت کی تہدید کی حدیثیں |
| ۲۱۵  | ۲۵  | تاڑی پینا حرام ہے مگر تاڑ کا پھل جائز ہے        |
| ۶۰۷  | ۲۶  | ظالم کی اعانت حرام ہے                           |
| ۲۷   | ۲۷  | حرمان ورشہ کا قصد حرام ہے                       |
| ۳۳۶  | ۲۹  | مشاجرات صحابہ میں مداخلت حرام ہے                |
| ۵۶۲  | ۳۰  | حرام کی دو قسمیں                                |

حربی کافر:

دیکھئے کافر

|      |     |             |
|------|-----|-------------|
| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|

حرمیت مصاہرت :

دیکھئے مصاہرت:

حروف:

|       |    |                       |
|-------|----|-----------------------|
| ۸۱۵۷۹ | ۲۹ | علم حروف کے کچھ مسائل |
|-------|----|-----------------------|

حساب :

دیکھئے ریاضی :

حضانتہ (پرورش) :

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۴۱۲۵۳۸۳ | ۱۳ | باب الحضانہ                                |
| ۴۲۹     | ۱۳ | تابع کی حضانت                              |
| ۵۹۲     | ۱۵ | بچہ خیر الابوین کے تابع ہے                 |
| ۶۲۷     | ۱۹ | سات سال سے زائد عمر کا بچہ باپ کے پاس ہوگا |
| ۳۲۰     | ۲۶ | لڑکی اور لڑکے کی مدت حضانتہ میں فرق        |

حقہ :

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| ۳۲۰     | ۲  | سفر میں حقہ کے پانی کا استعمال |
| ۳۰۶     | ۳  | حقہ کا پانی پاک ہے یا ناپاک    |
| ۳۳۷     | ۴  | حقہ کے پانی سے وضو کا حکم      |
| ۳۸۳     | ۷  | حقہ کی بدبو میں نماز کا حکم    |
| ۱۳۰     | ۲۲ | حقہ کی نہال سونے چاندی کی حرام |
| ۲۹۹     | ۲۳ | حقہ نوشی کا حکم                |
| ۳۷۶     | ۲۳ | حقہ پیتے ہوئے سبق پڑھانا       |
| ۵۵۸۵۳۵۵ | ۲۳ | حقہ کے احکام                   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ             |
|------|-----|-------------------------|
| ۷۹   | ۲۵  | حد کے جواز کی تحقیق ائق |

حقوق:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۴۷۵۶۳۶۵ | ۲۴ | والدین، اولاد، زوجین، اساتذہ، پیر اور مرید وغیرہ کے حقوق کا مفصل بیان |
| ۸۳      | ۲۹ | عورت سے بدظنی پر اس کے خاوند سے معافی کا حکم                          |

حکایت:

دیکھئے واقعہ :

حکمت:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۰۷ | ۷  | حکمت قلب روا                                |
| ۶۰۸ | ۷  | حکمت رفع یدین                               |
| ۶۰۸ | ۷  | حکمت رفع سبابہ                              |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت افعال نماز                             |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت جہر و سر فی الصلوٰۃ                    |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت اخفاء در نماز کسوف                     |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت وجوب جلسہ بعد رکعتین                   |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت یاد سرکار ﷺ در نماز                    |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت معانی قرات در رکعت ثالث و رابع         |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت عدم وجوب جہر بر منفرد                  |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت عدم قرات و رکوع و سجود و قعود          |
| ۶۱۵ | ۷  | حکمت قومہ و جلسہ                            |
| ۶۵۲ | ۷  | صلوٰۃ غوثیہ کے بعد عراق کی طرف چلنے کی حکمت |
| ۵۶۲ | ۱۳ | حلالہ میں لزوم مجامعت کی حکمت               |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                   |
|------|-----|---|
| ۶۲۵  | ۱۳  | پیشاب نوش پر حد نہ ہونے کی حکمت               |
| ۱۲۳  | ۲۱  | اعلانیہ گناہ پر اعلانیہ توبہ کی حکمتیں        |
| ۴۰۹  | ۲۲  | نماز کے اختتام پر سلام کی حکمت                |
| ۱۲۳  | ۲۲  | تین وقتوں میں نماز حرام ہونے کی حکمت          |
| ۱۲۳  | ۲۲  | کچھ عرصہ وحی رکنے کی حکمت                     |
| ۱۲۳  | ۲۲  | اصوات فتنہ کی حرمت کی حکمت                    |
| ۲۳۰  | ۲۹  | انبیاء سے امام الانبیاء پر ایمان لانے کی حکمت |
| ۶۳۵  | ۲۹  | رات کو معراج کرانے کی حکمت                    |
| ۱۹۱  | ۳۰  | آخری نبی اور آخری امت بنانے کی حکمت           |

حلالہ :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۵۹ | ۱۱ | حلالہ کی ایک صورت                               |
| ۳۸۹ | ۱۲ | حلالہ کی صورت                                   |
| ۳۹۸ | ۱۲ | حلالہ بغیر وطی زوج ثانی کرنا صحیح نہیں          |
| ۳۹۹ | ۱۲ | اچھی نیت سے حلالہ پر راضی کرنا ثواب             |
| ۴۰۹ | ۱۲ | نکاح میں حلالہ کی شرط منع محض ارادۃ تو امید اجر |
| ۴۲۳ | ۱۲ | حلالہ بغیر وطی زوج ثانی صحیح نہیں               |
| ۵۵۹ | ۱۲ | حلالہ بعد طلاق مٹا ہے                           |
| ۲۳۱ | ۱۳ | بعد طلاق مٹا ہے حلالہ ضروری                     |
| ۵۶۲ | ۱۳ | حلالہ میں وطی کیوں ضروری                        |
| ۱۹۵ | ۲۳ | تین طلاقوں کے بعد عورت رکھنا حرام               |

حمل :

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| ۳۷۹ | ۱۳ | حمل کی کم سے کم زائد سے زائد مدت |
|-----|----|----------------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                     |
|------|-----|---------------------------------|
| ۲۱۳  | ۱۷  | حمل کو کسی شئی کا بیہ درست نہیں |
| ۲۷۹  | ۲۳  | حاملہ بیوی سے صحبت کا حکم       |
| ۲۰۷  | ۲۳  | استطاق حمل کا حکم               |
| ۱۳۷  | ۲۶  | حمل کی اکثر مدت دو سال          |

حوالہ :

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| ۲۳۹ | ۱۳ | حوالہ نقل دین ہے            |
| ۲۳۰ | ۱۳ | دین معدوم تو حوالہ نہیں     |
| ۲۳۰ | ۱۳ | مال کی جہالت میں حوالہ نہیں |

حوض:

|        |   |                                      |
|--------|---|--------------------------------------|
| ۵۲۸۵۳۹ | ۲ | حوض اور اس کے احکام                  |
| ۲۹۲    | ۳ | حوض وہ درود سے کم ہو تو نہانے کا حکم |
| ۵۱۵    | ۴ | حضرت عمر کا حوض پر گزرنے کا واقعہ    |
| ۲۶۶    | ۹ | مسجد کے حوض پر جنازہ رکھ کر پڑھنا    |

حیض:

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| ۲۲۲     | ۱  | حیض فرج داخل میں ہے تو کچھ نہیں  |
| ۲۲۲     | ۱  | حیض سے فراغت کے بعد کپڑوں کا حکم |
| ۱۱۷     | ۲  | حیض کا ایک مسئلہ                 |
| ۳۶۶۵۳۳۹ | ۴  | باب الحيض                        |
| ۳۳۲     | ۱۲ | حیض میں طلاق                     |
| ۶۱۴۰۳۶۶ | ۱۲ | تین حیض کی کم از کم مدت          |
| ۶۱۸     | ۱۲ | تین حیض کی زائد احتمالی مدت      |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                 |
|---------|-----|-----------------------------|
| ۲۹۹     | ۱۳  | مدت تین حیض                 |
| ۳۲۳     | ۱۳  | 29 دن میں تین حیض ممکن نہیں |
| ۳۵۸،۳۵۲ | ۱۶  | حائض مسجد سے نہ گزرے        |

## حیات النبی :

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۲۷۱ | ۹  | حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم |
| ۶۳۸ | ۱۳ | حیات انبیاء کی احادیث                |

## حیلہ :

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۵۰۱     | ۳  | ہبہ میں حیلہ کی ایک صورت                    |
| ۷۲۱     | ۴  | اجرت پر قرآن پڑھانے کا حیلہ                 |
| ۱۶۵،۱۶۳ | ۸  | حیلہ اسقاط                                  |
| ۱۷۵،۱۶۶ | ۸  | حیلہ اسقاط                                  |
| ۱۰۸،۱۰۶ | ۱۰ | مسجد میں زکوٰۃ دینے کا حیلہ                 |
| ۱۰۹     | ۱۰ | زکوٰۃ کے حیلے منع                           |
| ۱۸۳     | ۱۰ | ایک حیلہ کا بیان                            |
| ۱۹۰     | ۱۰ | زکوٰۃ کے اسقاط کا حیلہ منع ہے               |
| ۱۹۷،۱۹۲ | ۱۰ | زکوٰۃ کے اسقاط کا حیلہ منع ہے               |
| ۲۶۳     | ۱۰ | حیلہ بوقت ضرورت ہے                          |
| ۲۶۷     | ۱۰ | حیلہ شرعیہ                                  |
| ۲۶۹     | ۱۰ | زکوٰۃ مدارس میں خرچ کرنے کا حیلہ            |
| ۵۳۶     | ۱۰ | فدیہ کی ادائیگی میں ہندوالوں کا حیلہ ناکافی |
| ۵۳۷     | ۱۰ | فدیہ کی ادائیگی کا حیلہ                     |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۵۴۲      | ۱۰  | دین سے فدیہ ادا کرنے کے دو حیلے                        |
| ۵۴۳      | ۱۰  | تختیف دور سے بچنے کا طریقہ                             |
| ۳۸۳      | ۱۲  | جبر و اکراہ کی طلاق سے بچنے کا حیلہ                    |
| ۶۲۷      | ۱۲  | موقوف طلاق کے سب حیلے باطل                             |
| ۵۵۸      | ۱۳  | طلاق مغلظہ مطلقہ سے بچنے کا حیلہ                       |
| ۱۲۲      | ۱۶  | حرام مال کو معرف خیر میں لانے کا حیلہ                  |
| ۱۲۲      | ۱۶  | ٹھیکہ داری کو حدود شرع میں کرنے کی تدبیریں             |
| ۳۶۱، ۳۸۷ | ۱۷  | سود سے بچنے کے حیلے                                    |
| ۳۶۳، ۳۶۲ | ۱۷  | سود سے بچنے کے حیلے                                    |
| ۳۶۵، ۳۶۳ | ۱۷  | سود سے بچنے کے حیلے                                    |
| ۳۹۶      | ۱۷  | ایسے حیلوں کا ثبوت قرآن و حدیث سے                      |
| ۱۷۵      | ۱۷  | کچی کھیتی خریدنے کا حیلہ                               |
| ۳۲۵      | ۱۹  | ہبہ بالعوض کا حیلہ                                     |
| ۳۹۷      | ۱۹  | ایک خاص آمدن سے حج کے جواز کا حیلہ                     |
| ۵۱۴      | ۱۹  | سود سے بچنے کے حیلے                                    |
| ۵۵۸، ۵۵۱ | ۱۹  | دیہات کے ٹھیکہ کو حدود شرع میں کرنے کا حیلہ            |
| ۲۰۹      | ۲۰  | بیع سلم کی ایک ناجائز صورت کے مال کو جائز کرنے کا حیلہ |
| ۱۸۹      | ۲۰  | اپنے حق کی وصولی کا حیلہ                               |
| ۳۷۹      | ۲۰  | شہر سے دیہات میں قربانی بھیجنے کا حیلہ                 |
| ۱۲۶      | ۱۲  | مسلمان کلمہ کفر کب کہہ سکتا ہے                         |
| ۳۱۸      | ۲۱  | تمکات کی زیارت پر کچھ لینے دینے کے جواز کا حیلہ        |
| ۲۶۳      | ۲۲  | صحابی کا سرکار کے بدن مبارک کو چومنے کا حیلہ           |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------|-----|--|
| ۴۷۸  | ۲۲  | کافر فاسق کو سلام کرنا پڑے تو حیلہ کیا کرے     |
| ۶۸۰  | ۲۲  | جائز حیلہ کی تعلیم سرکار نے دی                 |
| ۵۳۷  | ۲۳  | اجرت پر قرآن پڑھوانے کا حیلہ                   |
| ۵۶۸  | ۲۳  | حیلہ سود سے نجات کیلئے ہے نہ کہ سود لینے کیلئے |
| ۵۶۱  | ۲۳  | ناپاک کو پاک کرنے کا حیلہ                      |
| ۵۹۳  | ۲۳  | حرام سے بچنے اور سبکدوش ہونے کا حیلہ           |
| ۴۷۱  | ۲۵  | تابلغ بچوں کے مال کو صرف کرنے کا حیلہ، شرعیہ   |
| ۴۰۵  | ۲۹  | حیلہ اسقاط کا حکم شرعی                         |

## ﴿ خ ﴾

### خاک شفاء:

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| ۶۴۳ | ۳ | خاک شفاء کھانا |
|-----|---|----------------|

### ختم نبوت:

|          |    |                                    |
|----------|----|------------------------------------|
| ۷۴       | ۸  | ختم نبوت کا انکار کفر ہے           |
| ۴۱۸، ۴۳۱ | ۱۴ | سرکار کے خاتم النبیین ہونے کا بیان |
| ۷۳۹، ۵۷۱ | ۱۵ | سرکار کے خاتم النبیین ہونے کا بیان |

### ختنہ:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۹۳ | ۲۲ | جوبالغ ہونے کے بعد مسلمان ہوا اس کے ختنہ کا حکم |
| ۶۰۲ | ۲۲ | عورتوں کے ختنہ کا سوال جواب                     |
| ۶۳۶ | ۲۲ | ختنہ شعار دین سے ہے                             |
| ۶۷۹ | ۲۲ | ختنہ کا حکم حدیث سے ہے                          |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                          |
|------|-----|--------------------------------------|
| ۶۸۰  | ۲۲  | عربستان میں لڑکیوں کے تختہ کارواج ہے |
| ۶۳۶  | ۲۲  | تختہ کا نام مسلمانی کیوں؟            |

خراج:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۱۸ | ۱۰ | شرعی خراج سے مالگوانی کا تعلق نہیں      |
| ۲۳۲ | ۱۰ | مسلمان کے گھر کے باغیچے سے خراج کی صورت |
| ۲۳۲ | ۱۰ | خراج کا سبب وجوب کیا ہے۔                |
| ۲۳۵ | ۱۰ | خراج کسے دیں                            |
| ۲۳۷ | ۱۰ | خراج میں کیا دیں                        |

خضاب:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۷۸۴ | ۱۰ | سیاہ خضاب حرام                       |
| ۶۱۷ | ۲۱ | خضاب میں علاقے کی عادت کا لحاظ       |
| ۵۹۲ | ۲۲ | سیاہ خضاب کی حرمت غیر مجاہدین کے لئے |
| ۹۸  | ۲۳ | سیاہ خضاب لگانا حرام ہے              |
| ۴۸۴ | ۲۳ | سیاہ خضاب حرام                       |
| ۴۹۶ | ۲۳ | سیاہ خضاب کی حرمت کا تفصیلی بیان     |

خط و کتابت:

|            |    |                    |
|------------|----|--------------------|
| ۷۱۴ تا ۷۰۹ | ۲۳ | خط و کتابت کا بیان |
|------------|----|--------------------|

خطبہ:

|            |   |   |
|------------|---|---|
| ۷۹۷ تا ۷۸۳ | ۱ | فتاویٰ رضویہ کا بے مثال خطبہ              |
| ۳۶۸        | ۵ | خطیب کے سامنے کی اذان کے جواب کا حکم      |
| ۳۶۹        | ۵ | خطیب جواب اذان اور دعا کر سکتا ہے یا نہیں |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|---------|-----|--|
| ۳۲۲،۳۸۲ | ۸   | خطبہ جمعہ کے مسائل                             |
| ۳۲۲،۳۲۹ | ۸   | خطبہ جمعہ کے مسائل                             |
| ۳۹۶،۳۹۳ | ۸   | خطبہ جمعہ کے مسائل                             |
| ۳۹۹     | ۸   | خطبہ جمعہ کے مسائل                             |
| ۴۷۷     | ۸   | خطبوں کے مابین دعا                             |
| ۵۹۹     | ۹   | خطبہ کے دوران خطیب کے سبحان اللہ پڑھانے کا حکم |
| ۲۲۲     | ۱۱  | خطبہ نکاح                                      |
| ۵۹۷     | ۲۳  | خطبہ جمعہ کے وقت سلام و کلام حرام ہے           |
| ۶۸۸     | ۲۳  | خطبہ جمعہ و عیدین کا اردو ترجمہ ساتھ پڑھنا     |
| ۶۳۰     | ۲۸  | خطبہ فتح مکہ                                   |
| ۶۶۳     | ۲۸  | خطبہ الوداع کی حدیث                            |

## خندق:

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| ۲۵۹ | ۲ | خندق میں جمع پانی سے وضو کا حکم |
|-----|---|---------------------------------|

## خنثی:

|     |    |                                |
|-----|----|--------------------------------|
| ۱۹۲ | ۱۱ | خنثی مشابہ عورت سے نکاح کا حکم |
|-----|----|--------------------------------|

## خنزیر:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۸۸ | ۳  | زندہ خنزیر کنویں سے نکلے تو حکم                            |
| ۴۷۵ | ۴  | خنزیر کے سوا ہر جانور کی ہڈیاں پاک                         |
| ۶۱۲ | ۲۱ | خنزیر کا گوشت پکا کر غیر مسلموں کو کھلانے والے امام کا حکم |

## خلافت:

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| ۱۰۱ | ۵ | خلافت خلفاء اربعہ کا منکر |
|-----|---|---------------------------|

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۲۳۷۵۱۷۳ | ۱۳  | خلافت شریعہ میں قریشیت کی شرط کا مکمل بیان           |
| ۲۶۱     | ۲۱  | نیک کی خلافت کا حکم                                  |
| ۲۵۸     | ۲۱  | خلافت کے نام پر چندہ لینے والوں کے مقاصد             |
| ۱۰۶     | ۲۳  | خلافت فتنہ میں زکوٰۃ اور فطرانہ دینا درست نہیں       |
| ۲۰۶     | ۲۳  | قریش کی خلافت  |
| ۵۲      | ۲۸  | ولد الزنا کی خلافت کا حکم                            |
| ۲۸۷۵۳۶۹ | ۲۸  | حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی کی خلافت کی تفصیلی بیان  |
| ۳۶۹     | ۲۸  | جانشینی اور نیابت کی دو قسمیں                        |
| ۲۷۲     | ۲۸  | خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ |
| ۲۷۳     | ۲۸  | خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ                  |

خلع :

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| ۲۳۱     | ۱۱ | خلع کی ایک غیر صحیح صورت            |
| ۶۲۱     | ۱۱ | خلع کی ایک صورت                     |
| ۳۶۹     | ۱۲ | خلع میں شوہر کو رقم دینا جائز       |
| ۶۳۰     | ۱۲ | بعد خلع نکاح کے لئے عدت گزرنا ضروری |
| ۲۶۵۵۲۶۳ | ۱۳ | باب الخلع                           |
| ۳۱۱     | ۱۳ | خلع طلاق بائن                       |

خلیفہ بنانا :

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| ۲۵۲۵۲۲۹ | ۷ | خلیفہ بنانے کی مستقل فصل |
|---------|---|--------------------------|

خواب :

|    |   |                     |
|----|---|---------------------|
| ۹۷ | ۵ | خواب شیخ عبداللہ کا |
|----|---|---------------------|

| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ  |
|--------|-----|--|
| ۲۷۱    | ۲۲  | مسلمان کے خواب کی حیثیت                                  |
| ۲۷۲    | ۲۲  | خواب کے بارے میں سنت صحابہ                               |
| ۲۷۲    | ۲۲  | مصنف علیہ الرحمۃ کا ایک خواب                             |
| ۲۷۳    | ۲۲  | اس خواب کو بیان کرنے کی وجہ                              |
| ۲۶۷    | ۲۳  | خواب میں سفر کی تعبیر                                    |
| ۱۰۴    | ۲۵  | حقہ کی وجہ سے خواب میں زیارت سرکار ﷺ نہ ہونا باطل قول ہے |
| ۳۶۶    | ۲۸  | اچھے خواب پر عمل بہتر                                    |
| ۸۸، ۸۷ | ۲۹  | خواب اور خواب کی اقسام                                   |
| ۲۵۹    | ۳۰  | سیدہ آمنہ کے دو خواب                                     |

خودکشی :

|     |   |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|
| ۱۰۷ | ۵ | خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ کا حکم |
|-----|---|---------------------------------------|

خیار:

|          |    |                                   |
|----------|----|-----------------------------------|
| ۱۹۳، ۱۱۷ | ۱۱ | نکاح میں خیار عیب نہیں            |
| ۴۹۰      | ۱۲ | احد الزوجین کو خیار عیب حاصل نہیں |
| ۵۰۴      | ۱۲ | قول امام محمد اور تفصیل مسئلہ     |



دارالحرب :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۸۲ | ۱۱ | دارالحرب کے احکام                          |
| ۴۱۷ | ۱۷ | دارالحرب میں قدر اور رباہ بالاتفاق حرام ہے |
| ۵۲۳ | ۲۳ | دارالحرب میں مسلمان کے لئے فروخت کا حکم    |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## دارالاسلام :

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۸۱،۲۲۸ | ۱۱ | دارالاسلام کے احکام                                    |
| ۱۰۳     | ۱۳ | دارالاسلام ہندوستان                                    |
| ۳۱۶     | ۱۶ | جو زمین کبھی دارالاسلام نہ بنی اس میں مسجد کا حکم      |
| ۳۱۶     | ۱۷ | دارالاسلام میں رباہ کی حرمت کا سبب                     |
| ۳۵۶     | ۱۷ | ہندوستان دارالامان ہے                                  |
| ۳۶۷     | ۱۷ | دارالاسلام کی تعریف                                    |
| ۳۶۹     | ۱۷ | دارالاسلام میں حربی غیر مستامن کے مال کا حکم           |
| ۵۳۶     | ۱۸ | جن شہروں پر کفار کی حکومت وہ بھی دارالاسلام ہیں        |
| ۲۹۱،۲۸۱ | ۲۱ | ہندوستان دارالاسلام ہے                                 |
| ۲۹۲     | ۲۱ | دارالاسلام میں ایک حکم اسلامی باقی ہے اذالمحرب نہ ہوگا |

## دروود پاک :

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| ۵۵۶ | ۳ | جب درود پاک کے لئے ادباً تمیم کرے   |
| ۳۸۶ | ۵ | اقامت سے پہلے درود پاک              |
| ۵۶۵ | ۵ | خوشبو سونگھ کر درود پاک پڑھیں       |
| ۱۸۳ | ۶ | دروود پاک کی فضیلت                  |
| ۲۲۱ | ۶ | سرکار کے نام پر درود واجب ہے        |
| ۲۳۳ | ۶ | دروود پاک آواز سے یا دل میں         |
| ۶۳۸ | ۷ | دعا کے پر درود پاک ہیں              |
| ۶۳۹ | ۷ | دعا سرکار کی طرف متوجہ ہو کر یا     |
| ۳۶۵ | ۸ | خطبہ میں درود پاک مقتدی دل میں پڑھے |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                      |
|------|-----|--|
| ۳۶۱  | ۸   | حضور غوث اعظم پر درود                            |
| ۳۶۸  | ۸   | دوران خطبہ درود دل میں پڑھے                      |
| ۳۸۱  | ۸   | دوران خطبہ مقتدی درود دل میں پڑھیں               |
| ۵۱۷  | ۹   | فضائل درود پاک                                   |
| ۹۰۷  | ۹   | جمعہ کے دن درود کا حکم                           |
| ۶۱۳  | ۱۳  | درود شریف کے ایک صیغے کا حکم                     |
| ۲۰۸  | ۱۵  | درود پاک میں عظمت کا خیال لازمی ہے               |
| ۳۹۳  | ۲۲  | روضہ رسول پر فرشتوں کا درود و سلام               |
| ۳۱۶  | ۲۲  | مصافحہ کے وقت درود پاک                           |
| ۶۹۲  | ۲۲  | جس نے اولاً درود پاک محف کیا اس کے ہاتھ کاٹے گئے |
| ۶۹۲  | ۲۲  | درود پاک پورا لکھنا واجب ہے                      |
| ۱۲۳  | ۲۳  | درود پاک کی فضیلت                                |
| ۳۹۵  | ۲۳  | درود پاک پڑھنے کے مستحب مقامات                   |
| ۶۸۰  | ۲۳  | الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ کہنے کے دلائل   |
| ۱۰۳  | ۲۵  | درود پاک کا ادب                                  |
| ۵۸۵  | ۲۶  | ایک غیر منقوط درود پاک                           |
| ۲۰۳  | ۲۹  | یا رسول اللہ ﷺ کہنے کا جواز                      |
| ۲۵۵  | ۲۹  | درود تاج پڑھنے کا حکم                            |
| ۶۳۳  | ۲۹  | درود پاک میں علی ابراہیم لانے کی وجہ             |
| ۵۶۶  | ۲۹  | التحیات میں معنی کا قصد کر کے سلام عرض کرنا      |
| ۶۶۳  | ۳۰  | درود پاک پورا لکھنا چاہیے                        |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ   |
|---------|-----|---|
|         |     | دعا/دعائیں  |
| ۱۰۴۲    | ۱   | دفع وسواس کی دعائیں                                   |
| ۱۰۷۷    | ۱   | بیت دعا بعض آیات قرآن کا جنسی اور عائشہ کو پڑھنا جائز |
| ۱۱۱۴    | ۱   | بلاؤں سے محفوظی کی دعا                                |
| ۲۰۲     | ۶   | دعا ہاتھ اٹھا کر اور منہ پر ہاتھ پھیرنا               |
| ۲۲۴     | ۶   | نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت                        |
| ۲۳۳     | ۶   | نماز کے بعد دعائیں تاخیر کیسی                         |
| ۶۰۷     | ۷   | قتلے حاجت کی نماز و دعا کا طریقہ                      |
| ۶۰۹     | ۷   | دعائیں سرکار ﷺ کی باب تقاؤل پر نظر                    |
| ۶۲۴     | ۷   | دعائے حزب البحر                                       |
| ۶۴۸     | ۷   | دعا ایک پرندہ ہے                                      |
| ۶۴۹     | ۷   | دعا سرکار کی طرف منہ کر کے                            |
| ۳۵۶     | ۸   | جن نمازوں کے بعد سنتیں وہاں طویل دعا نہ کرے           |
| ۳۹۶     | ۸   | خطبہ کے دوران دعا مانگنے کا حکم                       |
| ۴۷۷     | ۸   | امام کیلئے دعا بین الخطبتین جائز ہے                   |
| ۵۹۹۵۵۰۹ | ۸   | عیدین کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا                         |
| ۵۲۳     | ۸   | نماز کی دعا پر اقتصار                                 |
| ۵۲۵     | ۸   | عیدین کے اجتماع کی دعا خاص ثابت ہے                    |
| ۵۲۶     | ۸   | بظاہر اگر دعا قبول نہ ہو تو                           |
| ۵۲۷     | ۸   | بعد نماز عید اللہ خود دعا کا تقاضا فرماتا ہے          |
| ۵۲۹     | ۸   | جلسہ خیر سے اٹھتے وقت دعا مستحب ہے                    |
| ۵۳۰     | ۸   | دعا کی اجازت مطلقاً ہے                                |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۵۳۲      | ۸   | دعا کی ترغیب کی احادیث                               |
| ۵۳۵      | ۸   | ہر دعا ذکر الہی ہے                                   |
| ۵۸۵      | ۸   | دعا بعد الصلوٰۃ                                      |
| ۵۳۲      | ۸   | دعا کی ترغیب کی کتب                                  |
| ۱۰۹      | ۹   | میت کو قیامت تک عذاب سے بچانے کی دعا                 |
| ۲۰۹، ۱۹۳ | ۹   | دعائیں جنازہ کی                                      |
| ۲۳۹      | ۹   | دعا بعد الجنازۃ                                      |
| ۲۸۱، ۲۵۱ | ۹   | دعا بعد الجنازۃ                                      |
| ۳۹۲      | ۹   | دعا بعد دفن  |
| ۵۲۲      | ۹   | مزاروں پر فاتحہ کی دعائیں                            |
| ۵۷۲      | ۹   | دعا ہاتھ اٹھا کر                                     |
| ۶۹۳      | ۹   | سرکار نے حضرت عمر سے دعا چاہی                        |
| ۶۹۳      | ۹   | حضرت اولیں قرنی سے دعائے بخشش                        |
| ۶۹۵      | ۹   | سرکار کی قبر انور پر صحابی کی دعا                    |
| ۲۵۹      | ۱۰  | دعائیں رویت ہلال کی                                  |
| ۶۳۳، ۶۳۱ | ۱۰  | دعائے افطار کا وقت                                   |
| ۷۴       | ۱۵  | دعا کی طلب اولیاء سے جائز                            |
| ۵۰۳      | ۱۹  | دعا کا معاوضہ لینے کا حکم                            |
| ۵۳۸      | ۲۱  | حضرت جنید بغدادی کو ان کے مرشد کی دعا                |
| ۲۳۰      | ۲۱  | ممالک اسلامیہ کیلئے خطبوں میں دعا کا حکم             |
| ۶۶۶      | ۲۱  | کھانے کو سامنے رکھ کر دعا کا حکم                     |
| ۳۲۰      | ۲۲  | سرکار کی دعا سے میاں بیوی کے درمیان نفرت کی جگہ محبت |

| صفحہ     | جلد | تھان مسئلہ                            |
|----------|-----|---------------------------------------|
| ۱۸۲۵۱۶۱  | ۲۳  | باب الدعا                             |
| ۱۸۰      | ۲۳  | اشر توکل دعا ہے                       |
| ۱۸۲      | ۲۳  | اجتماعی دعا                           |
| ۲۲۵، ۲۰۳ | ۲۹  | کھانا سامنے رکھ کر دعا ختم دینا       |
| ۳۱۱      | ۲۹  | دعا کی حدیثیں متواتر ہیں              |
| ۳۳۳      | ۲۹  | انبیاء کی سب دعائیں مقبول ہیں         |
| ۲۱۲      | ۳۰  | سرکار ﷺ کی خصوصی دعا قیامت کے دن ہوگی |

## دعوت:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۶۱۲     | ۲۱ | تکوی سے عاری لوگوں کے گھر کھانا کھانے کا حکم                     |
| ۶۲۷     | ۲۱ | سودخور کے گھر دعوت کھانے کا حکم                                  |
| ۶۳۳     | ۲۱ | رشتہ خور کے گھر دعوت کھانے کا حکم                                |
| ۶۴۱     | ۲۱ | سود خور کے گھر دعوت کھانے کا حکم                                 |
| ۶۵۹     | ۲۱ | بے نمازی کے گھر دعوت کھانے کا حکم                                |
| ۶۷۲     | ۲۱ | ملاہمی اور ملاعب پر مشتمل دعوتوں پر شرکت کا حکم                  |
| ۶۵۰     | ۲۱ | سودخور کے گھر دعوت کھانے کا حکم                                  |
| ۶۷۲     | ۲۱ | سودخور، بے نمازی شرابی، زانی اور مخمس کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم |
| ۶۷۲     | ۲۱ | دیوث کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم                                  |
| ۶۵۳     | ۲۱ | حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غزوہ خندق کے موقع پر دعوت       |
| ۱۰۳     | ۲۳ | سودخور اور حلال کی کمائی دونوں رکھنے والے کے گھر دعوت کا حکم     |
| ۵۸۵     | ۲۳ | ایام موت کی دعوت کا حکم  |
| ۵۰۲     | ۲۳ | جس کی آمدن حلال و حرام دونوں ہوں اس کے گھر دعوت کا حکم           |
| ۶۷۳۵۶۱۱ | ۹  | دعوت میت   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                      |
|------|-----|----------------------------------|
| ۵۸۵  | ۲۳  | ایام موت کی دعوت قبول نہ کی جائے |

دعویٰ:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۱۱۸      | ۴  | حلف سے چپ رہنا انکار ہے                                  |
| ۱۳۱      | ۱۱ | دعویٰ بیع کا مسئلہ                                       |
| ۲۴۰، ۲۴۵ | ۱۱ | دعویٰ نکاح کا مسئلہ                                      |
| ۱۶۰      | ۱۴ | عورت کے اقرار کے بعد دعویٰ بغیر گواہ ثابت نہ ہوگا        |
| ۶۴۱      | ۱۴ | عورت مدعیہ طلاق اور شوہر منکر ہو تو قول شوہر کا معتبر ہے |
| ۴۸۱      | ۱۳ | وعدہ پر دعویٰ نہیں                                       |
| ۶۱۴      | ۱۳ | مدعی کا قول مسوع نہیں                                    |
| ۴۷۵      | ۱۶ | طویل مدت سے لا معلوم الحجّت زمین پر دعویٰ منع ہے         |
| ۶۷۶      | ۱۷ | دعویٰ اور شہادت میں مطابقت بہت ضروری ہے                  |
| ۷۴۷، ۱۳۹ | ۱۸ | کتاب الدعویٰ   |
| ۹۷       | ۱۹ | دعویٰ خطا، اقرار میں مردود ہے                            |
| ۱۱۴      | ۲۰ | خریدنے سے انکار کے بعد دعویٰ شفعہ صحیح ہے                |
| ۵۷۱      | ۲۳ | سچے مدعی سے واجبی خرچہ لینا حرام ہے                      |
| ۴۵۹      | ۲۴ | کاغذ دعویٰ اور جواب دعویٰ کی تصدیق کے سوالات             |
| ۷۵       | ۲۴ | بھائی کب اپنے حصے کے مہر کا دعویٰ کر سکتا ہے             |
| ۴۶۶      | ۲۵ | وصیت میں تنہا عورت کا دعویٰ حجت نہیں                     |

دف:

|     |    |                   |
|-----|----|-------------------|
| ۶۴۳ | ۲۱ | دف بجانے کی شرائط |
|-----|----|-------------------|

دفن / جائے دفن

|     |   |                               |
|-----|---|-------------------------------|
| ۴۷۰ | ۹ | شق کا معنی اور بنانے کا طریقہ |
|-----|---|-------------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                            |
|------|-----|--|
| ۳۷۱  | ۹   | میت قبلہ کی طرف سے داخل کریں           |
| ۳۷۲  | ۹   | قبر کی اونچائی                         |
| ۳۷۳  | ۹   | دفن کرنے میں بارش کا ہونا              |
| ۳۷۷  | ۹   | بعد دفن قبر پر رکنا کتنے دن سنت ہے     |
| ۳۷۹  | ۹   | بلا اجازت غیر کی اراضی میں دفن حرام    |
| ۳۸۱  | ۹   | میوہ پلٹی کی زمین میں دفن رکنا         |
| ۳۸۲  | ۹   | قبرستان کو تبدیل کرنے کی صورتیں        |
| ۳۸۵  | ۹   | خالی چھوڑ کر بھرے ہوئے قبرستان میں دفن |
| ۳۹۰  | ۹   | کافر مرتد کی گھنٹین و تدفین            |
| ۴۲۵  | ۲۵  | گرمیوں میں دفن انبیاء سے خاص           |
| ۴۲۵  | ۲۵  | گرمیوں میں دفن کی وصیت باطل            |
| ۴۲۷  | ۲۵  | کفن دفن کا خرچہ ترکہ سے نہیں ہوگا      |

دلہن:

|     |    |                                     |
|-----|----|-------------------------------------|
| ۵۹۵ | ۲  | دلہن جب نئے گھر آئے تو ایک عمل      |
| ۱۲۶ | ۲۲ | دلہن کو بجانا سنت قدیمہ ہے          |
| ۳۳۸ | ۲۵ | دلہن کا زیور مال مشترک سے ہو تو حکم |
| ۶۳۹ | ۲۵ | دلہن کا چڑھاوے کا حکم               |

دودھ:

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| ۳۵۶ | ۱ | دودھ بچے کے معدے سے لوٹے تو حکم |
| ۱۶۹ | ۳ | دودھ عورت کا                    |
| ۱۷۰ | ۳ | عورت کے دودھ میں دوائی مل جائے  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                   |
|------|-----|-------------------------------|
| ۱۵۰  | ۱۷  | بازاری دودھ کا حکم            |
| ۱۲۶  | ۳۰  | ثویبہ نے حضور ﷺ کو دودھ پلایا |

دہ درودہ :

|                                  |       |   |
|----------------------------------|-------|---|
| ۲۷۱، ۲۶۰، ۲۰۴، ۲۰۳، ۱۸۹، ۱۳۵، ۳۹ | جلد ۲ | حوض دہ درودہ کے مسائل                       |
| ۳۳۸، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۱، ۲۷۲، ۲۷۲     |       |   |
| ۵۳۳، ۴۱۷، ۳۷۱، ۳۶۸               | جلد ۲ | حوض دہ درودہ کے مسائل                       |
| ۲۹۳                              | ۳     | حوض دہ درودہ سے کم ہو تو حکم                |
| ۳۲۸                              | ۴     | حوض دہ درودہ مگر پانی دہ درودہ سے کم تو حکم |
| ۳۳۲                              | ۴     | دہ درودہ کنواں کا مسئلہ                     |

دیت:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۱۰۸ | ۲ | تین انگلیوں کے کاٹنے پر پورے ہاتھ کی دیت ہے |
|-----|---|---|

دین:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۳۲ | ۳  | مدیون پر ڈگری ہو تو ادائے دین کا حکم          |
| ۱۰۸ | ۱۰ | دائن اپنے دین کی جنس سے مال مدیون پائے تو حکم |
| ۱۶۲ | ۱۰ | دین کے احکام و اقسام                          |
| ۵۳۲ | ۱۰ | مدیون فقیر فدیہ میں دین چھوڑیں تو حکم         |
| ۱۳۲ | ۱۱ | بعض دین پر صلح جائز ہے                        |
| ۱۳۹ | ۱۲ | دین کا ایک مسئلہ                              |
| ۱۱۳ | ۱۶ | جائداد پر قرض کے دو معافی                     |
| ۲۳۳ | ۱۶ | بنک کی رقم بنک پر دین ہے                      |
| ۹۲  | ۱۷ | سادہ دین کا حکم                               |

| صفحہ  | نمبر | موضوع مسئلہ   |
|-------|------|---|
| ۱۰۶   | ۱۷   | دین کے بہرہ کا حکم                                    |
| ۱۲۲   | ۱۷   | دین معدوم کے بدلے رہن ناجائز                          |
| ۷۲۷   | ۱۸   | ترک سے کون سا دین مقدم ہے                             |
| ۱۰۰   | ۱۹   | دین مال حقیقی نہیں                                    |
| ۳۹۷   | ۱۹   | دین سے حج کرے تو حکم                                  |
| ۱۰۰   | ۱۹   | دین کی ادا اس کے محل مال ہے                           |
| ۱۲۵   | ۱۹   | ترک دین ہو تو صلح کی شرط                              |
| ۳۶۷   | ۲۰   | جس کا دین اس کے مال کو محیط اس کا حکم                 |
| ۳۶۹   | ۲۰   | دین مردہ والے پر زکوٰۃ و قربانی نہیں                  |
| ۵۵۹   | ۲۳   | قرض کی ادائیگی ناپاک روپے سے کرے تو حکم               |
| ۷۰۸   | ۲۳   | قرض کی معافی میں قرض کی مقدار کی تعیین کا حکم         |
| ۷۵۷۵۳ | ۲۵   | کتاب المہانیات  |
| ۲۹۳   | ۲۵   | زیادہ فی الدین ناجائز عند الامام                      |
| ۵۹۳   | ۲۵   | دین جھینڈ کا حکم                                      |
| ۹۳    | ۲۶   | اگر قرض کل ترکہ پر محیط ہو تو حکم                     |
| ۱۱۹   | ۲۶   | مہر اور دیون کی ادائیگی سے پہلے ترکہ کی تقسیم نہ ہوگی |
| ۲۹۲   | ۲۶   | دین ترکہ سے زائد ہو تو حکم                            |



ڈاڑھی :

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| ۲۸۲ | ۱ | کتنی ڈاڑھی دھونا فرض اور کتنی مستحب |
| ۵۲۳ | ۶ | ڈاڑھی ترشوانا فسق ہے                |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|---------|-----|---|
| ۶۰۳     | ۶   | ڈاڑھی ترشوانا فسق ہے                    |
| ۶۲۷     | ۶   | ڈاڑھی منڈوں کے پیچھے نماز کا حکم        |
| ۷۰۹     | ۱۳  | ڈاڑھی منڈوانا حرام                      |
| ۱۶۳     | ۱۵  | ڈاڑھی کا مذاق اڑانے والوں کا حکم        |
| ۱۴۶     | ۱۸  | خشخشی ڈاڑھی والے کا حکم                 |
| ۳۵۸     | ۱۸  | ڈاڑھی اگنا مثبت بلوغ نہیں               |
| ۲۱۵     | ۲۱  | ڈاڑھی سے استہزاء کا حکم                 |
| ۶۰۰     | ۲۱  | ڈاڑھی منڈوانا اور پیر بننا حرام         |
| ۶۰۲     | ۲۱  | مشت سے کم ڈاڑھی کا حکم                  |
| ۶۰۲     | ۲۱  | ڈاڑھی موٹنا یہودیوں کا طریقہ            |
| ۶۹۲۵۷۱  | ۲۲  | ڈاڑھی کے تفصیلی احکام                   |
| ۶۹۲۵۶۰۷ | ۲۲  | ڈاڑھی کے وجوب اور حد شرعی کا مستقل بیان |
| ۹۸      | ۲۳  | ڈاڑھی کتر واکر مشت سے کم کرنا حرام ہے   |
| ۳۶۱     | ۲۳  | ڈاڑھی منڈوانا حرام ہے                   |

## ڈاک خانہ :

|     |    |                          |
|-----|----|--------------------------|
| ۱۴۱ | ۱۰ | ڈاک خانہ کی رقم پر زکوٰۃ |
| ۱۴۲ | ۱۰ | ڈاک خانہ کے نوٹوں کا حکم |

## ڈول :

|                    |       |                                       |
|--------------------|-------|---------------------------------------|
| ۲۵۰                | ۲     | 20 ڈول پر اکتفاء کرنے کی ایک خاص صورت |
| ۲۶۱                | ۳     | ڈول سے متعلقہ مسائل                   |
| ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۷۸، ۲۷۵ | جلد ۳ | ڈول سے متعلقہ مسائل                   |

| صفحہ          | جلد   | موضوع مسئلہ                               |
|---------------|-------|---|
| ۲۹۵، ۲۹۳، ۲۸۶ | جلد ۳ | ڈول سے متعلقہ مسائل                       |
| ۱۰۰           | ۸     | سجد کے ڈول سے غیر نماز کے لئے پانی کا حکم |



### ذبح / ذابح / ذبائح :

|            |    |  |
|------------|----|--|
| ۲۵۶        | ۳  | ذبیح کی جلد کا مسئلہ                             |
| ۶۲۱        | ۱۵ | ذبیح اہل کتاب حلال                               |
| ۶۲۱        | ۱۵ | ذبیح مشرک مردار                                  |
| ۳۳۰ تا ۲۱۳ | ۲۰ | کتاب الذبائح مکمل                                |
| ۶۲۹        | ۲۱ | مجھنی کے ہاتھ کے ذبیحہ کا حکم                    |
| ۲۹۹        | ۲۱ | ذابح البقر کی بخشش کا حکم                        |
| ۵۳۱        | ۲۶ | ذبح کے وقت اللہ کی جگہ حضور ﷺ کا نام لینے کا حکم |

### ذکر الہی :

|            |    |                                    |
|------------|----|------------------------------------|
| ۵۵۷        | ۳  | ذکر الہی کے لئے تیمم               |
| ۵۳۶، ۵۳۵   | ۸  | ذکر الہی کی کثرت کا حکم            |
| ۵۳۸        | ۸  | کثرت ذکر الہی کی آیات و تفاسیر     |
| ۱۳۸، ۱۳۰   | ۹  | جنازہ کے ساتھ ذکر الہی             |
| ۱۵۸        | ۹  | جنازہ کے ساتھ نعت و ذکر الہی کرنا  |
| ۱۸۲ تا ۱۶۱ | ۲۳ | باب الذکر                          |
| ۷۳۵        | ۲۳ | سرکار ﷺ کا ذکر با وضو ہو یا بے وضو |
| ۸۷         | ۲۳ | ذکر کے حلقے جنت کی کیاریاں         |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۱۸۱  | ۲۴  | ذکر الہی کے فضائل                                       |
| ۲۸۸  | ۲۸  | ذکر بالجبر کی مخالفت میں عبداللہ بن مسعود کے اثر پر بحث |

ذی کافر:

دیکھئے کافر:

ذنب:

|     |    |                  |
|-----|----|------------------|
| ۳۹۶ | ۲۹ | مغفرت ذنب کی بحث |
|-----|----|------------------|

ذی رحم محرم:

|     |    |                                    |
|-----|----|------------------------------------|
| ۱۹۸ | ۱۹ | ذی رحم محرم کی تفصیل               |
| ۱۹۴ | ۲۳ | نسبی رضاعی اور صہری محارم کی تفصیل |



رافضی:

|     |    |                                       |
|-----|----|---------------------------------------|
| ۱۷۵ | ۵  | روافض کو شیعہ کہتے ہیں                |
| ۴۶۱ | ۵  | رافضیوں نے تین لاکھ حدیثیں گھڑیں      |
| ۱۷۳ | ۹  | رافضی کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا حکم |
| ۳۴۵ | ۱۱ | روافض کی اقسام، احکام وغیرہ           |
| ۲۶۵ | ۱۲ | رافضیہ سے نکاح کا حکم                 |

ربوا:

دیکھئے سود:

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

رجعت :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۷۱ | ۱  | نماز میں رجوع طلاق                       |
| ۴۶۸ | ۱۲ | رجعت کا طریقہ                            |
| ۴۲۷ | ۱۲ | طلاق بائن کے بعد رجعت نہیں               |
| ۴۲۷ | ۱۲ | رجعت میں عورت کی رضامندی ضروری نہیں      |
| ۵۱۵ | ۱۲ | طلاق رجعی میں رجعت کا اختیار عدلت میں ہے |

رحم :

|          |    |                               |
|----------|----|-------------------------------|
| ۴۹۲، ۴۶۸ | ۳  | رحم کی رطوبت                  |
| ۴۹۳، ۴۶۷ | ۲۶ | علم ارحام سے حطلق مستقل رسالہ |

رو بندہاں :

|                              |       |                   |
|------------------------------|-------|-------------------|
| ۶۲                           | ۲     | وہابیہ کارڈ       |
| ۲۴۲                          | ۳     | گنگوہی کارڈ       |
| ۵۹۸                          | ۴     | دیوبندیوں کا کارڈ |
| ۵۶۵                          | ۵     | ابن تیمیہ کا کارڈ |
| ۵۷۸، ۵۷۷، ۵۷۲                | صفحہ  | گنگوہی کارڈ       |
| ۶۰۳                          | ۵     | وہابیہ کارڈ       |
| ۶۷۶                          | ۵     | دیوبندیوں کا کارڈ |
| ۶۰۳                          | ۵     | وہابیوں کا کاید   |
| ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۲، ۳۹۱، ۱۲۸      | جلد ۵ | رو بندہاں         |
| ۶۳۲، ۵۷۸، ۵۷۷، ۵۷۲، ۳۹۵، ۳۹۳ | جلد ۵ | رو بندہاں         |
| ۴۳۹                          | ۶     | وہابیہ کارڈ       |

| صفحہ                    | جلد    | عنوان مسئلہ          |
|-------------------------|--------|----------------------|
| ۵۷۳                     | ۲      | دیوبندیوں کا رد      |
| ۵۷۹                     | ۲      | وہابیہ کا رد         |
| ۵۸۹                     | ۲      | دیوبندیوں کا رد      |
| ۵۹۱                     | ۲      | بد مذہبوں کا رد      |
| ۵۶۹                     | ۲      | وہابیوں کا رد        |
| ۲۳۸، ۲۳۳، ۵۹۷، ۵۹۶      | جلد ۲  | وہابیوں کا رد        |
| ۷۲۰                     | ۲      | بد مذہبوں کا رد      |
| ۵۳                      | ۷      | بد مذہبوں کا رد      |
| ۲۲۳، ۵۲۳، ۱۹۸، ۱۹۷      | جلد ۷  | وہابیہ کا رد         |
| ۶۹۹                     | ۷      | گنگوہی کا رد         |
| ۷۰۰                     | ۷      | قاری عبدالرحمن کا رد |
| ۵۵۳                     | ۸      | وہابیہ کا رد         |
| ۳۳۱۵۳۲۹                 | ۹      | وہابیہ کا رد         |
| ۳۶۹، ۳۶۳                | ۹      | گنگوہی کا رد         |
| ۳۹۹                     | ۹      | گنگوہی کا رد         |
| ۵۷۳، ۵۰۰                | ۹      | دیوبندیوں کا رد      |
| ۶۰۵، ۵۷۷                | ۹      | وہابیوں کا رد        |
| ۶۵۵                     | ۹      | وہابیوں کا رد        |
| ۹۲۶، ۹۱۹، ۸۳۲، ۸۳۶، ۸۳۳ | جلد ۹  | وہابیہ کا رد         |
| ۹۳۲، ۹۳۲، ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۷ | جلد ۹  | وہابیہ کا رد         |
| ۳۸۱، ۲۸۳                | جلد ۱۱ | وہابیہ کا رد         |
| ۳۹۰                     | ۱۱     | بد مذہبوں کا رد      |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                 |
|---------|-----|---|
| ۵۰۸     | ۱۱  | وہابیوں کا رد                               |
| ۵۱۴     | ۱۱  | دیوبندیوں کا رد                             |
| ۷۱۴     | ۱۱  | بد مذہبوں کا رد                             |
| ۳۹۵     | ۱۲  | وہابیوں کا رد                               |
| ۳۹۶     | ۱۲  | رو بد مذہبیاں                               |
| ۲۰۷۵۱۷۷ | ۱۳  | دیوبندی مفتی کا رد تبلیغ                    |
| ۶۱۹     | ۱۳  | دیوبندی مرتد ہیں                            |
| ۶۰۷     | ۱۳  | شاہ ولی اللہ علیہ الرحمۃ کے وہابیت کش فوائد |
| ۱۲۵     | ۱۳  | عقائد وہابیہ                                |
| ۶۸۳     | ۱۳  | وہابی ہونے کی علامت                         |
| ۳۰۹۵۱۶۷ | ۱۵  | وہابیہ کے کفریات پر دس سالے                 |
| ۲۵۹     | ۱۵  | وہابیت کیا ہے                               |
| ۷۱۷     | ۱۵  | دیوبندیوں اور شیعوں میں مماثلت              |
| ۱۶۲     | ۱۶  | دیوبندیوں کا رد                             |
| ۳۹۹.۵۰۷ | ۱۷  | گنگوہی کا رد                                |
| ۲۳۶     | ۱۷  | مولانا لکھنوی کا رد                         |
| ۲۸۲     | ۱۹  | رشید احمد گنگوہی کا رد                      |
| ۳۷۸     | ۱۹  | دیوبند کے فتویٰ کا رد                       |
| ۵۶۳     | ۱۹  | رشید احمد گنگوہی کا رد                      |
| ۲۶۳     | ۲۰  | وہابیہ کے عقائد اور احکام کا بیان           |
| ۲۶۱     | ۲۰  | وہابیہ کا رد                                |
| ۶۳۳     | ۲۱  | دیوبندی گمراہ و بدین ہیں                    |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                              |
|----------|-----|--|
| ۲۶۳      | ۲۱  | بد مذہبوں سے مجالست، مشاربت وغیرہ کا حکم |
| ۳۱۷      | ۲۱  | وہابیوں کا رد، تین وہابیت کش حدیثیں      |
| ۵۰۹      | ۲۲  | چکڑ الویوں کا رد                         |
| ۲۳۹      | ۲۳  | دیوبندیوں کا رد                          |
| ۲۹۲      | ۲۳  | وہابیوں کی فطرت                          |
| ۲۶۵      | ۲۵  | مفتی ندوہ کا رد                          |
| ۵۰۴، ۳۱۷ | ۲۶  | وہابیوں کا رد                            |
| ۲۳۶      | ۲۹  | دیوبندی عقائد کے حامل کا حکم             |
| ۱۴۰      | ۲۹  | نجدیوں کا رد                             |
| ۱۵۹      | ۲۹  | ابن تیمیہ کا رد                          |
| ۵۲۹، ۲۲۳ | ۲۹  | وہابیہ کا رد                             |
| ۲۹۸، ۲۸۵ | ۳۰  | وہابیہ کا رد                             |
| ۲۶۳      | ۳۰  | وہابیہ کے صحابہ پر الزامات               |
| ۲۵۳      | ۳۰  | وہابیہ کے اللہ تعالیٰ پر الزامات         |
| ۵۶۷، ۵۶۳ | ۳۰  | امام الوہابیہ کا رد                      |
| ۵۶۹، ۵۶۸ | ۳۰  | امام الوہابیہ کا رد                      |
| ۵۸۲      | ۳۰  | امام الوہابیہ کی خیانت                   |

رو غیر مقلدین:

|               |   |                             |
|---------------|---|-----------------------------|
| ۲۰۶           | ۱ | غیر مقلدین دین میں قتنہ ہیں |
| ۹۶۵           | ۱ | اہل حدیث ایڈیٹر کی چالیں    |
| ۱۳۲           | ۴ | غیر مقلدین کا رد            |
| ۳۲۱، ۲۱۰، ۲۰۶ | ۵ | غیر مقلدین کا رد            |



| صفحہ                    | جلد | عنوان مسئلہ                        |
|-------------------------|-----|------------------------------------|
| ۵۸۷، ۳۹۹                | ۶   | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۶۳۰، ۶۱۷                | ۶   | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۶۳۷                     | ۶   | مستقل رسالہ                        |
| ۱۵۰                     | ۷   | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۷۵                      | ۸   | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۲۷۷                     | ۹   | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۳۸۹، ۳۷۳، ۳۸۱، ۳۱۹، ۳۱۸ | ۱۱  | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۵۰۸ ، ۳۸۹               | ۱۱  | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۳۶۹، ۶۱۵، ۳۸۱           | ۱۳  | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۳۷۸                     | ۲۰  | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۶۸۳                     | ۲۳  | غیر مقلدوں کا رد                   |
| ۵۰۳                     | ۲۶  | غیر مقلدین کا رد                   |
| ۶۸۱ ۷ ۵۸۱               | ۲۷  | غیر مقلدین کے رد پر دو مستقل رسالے |

روشیہ وروافض :

|                    |    |                    |
|--------------------|----|--------------------|
| ۶۲۲، ۵۳۶، ۵۲۷، ۳۳۹ | ۶  | روافض وشیعہ کا رد  |
| ۷۰۲                | ۷  | روافض وشیعہ کا رد  |
| ۱۷۳ ، ۱۷۲          | ۹  | روافض وشیعہ کا رد  |
| ۲۶۸، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۳۱ | ۱۱ | روافض وشیعہ کا رد  |
| ۳۶۳، ۳۳۷، ۳۳۶، ۳۳۵ | ۱۱ | روافض وشیعہ کا رد  |
| ۶۷۱، ۶۶۳           | ۱۱ | روافض وشیعہ کا رد  |
| ۳۱۵                | ۱۳ | روافض زمانہ کا حکم |
| ۱۲۸، ۱۲۳           | ۱۳ | روافض کے عقائد     |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|---------|-----|---|
| ۳۲۸۵۲۳۹ | ۱۳  | تبرائی رافضیوں کا ردِ بلیغ                      |
| ۲۸۹     | ۱۳  | ایک رافضی تصنیف کے احکام                        |
| ۷۱۷     | ۱۵  | شیعہ اور دیوبندیوں میں مماثلت                   |
| ۵۲۳     | ۱۶  | فی زمانہ رافضی علی العموم کافر ہیں              |
| ۲۰۹     | ۱۶  | رافضیوں کا رد                                   |
| ۲۱۱     | ۱۶  | رافضیوں کے بارے میں سرکارِ اسلامیہ کی پیشینگوئی |
| ۲۳۳     | ۲۰  | آج کل کے شیعہ کا حکم                            |
| ۲۳۳     | ۲۰  | روافض زمانہ کے کچھ عقائد کفریہ کا بیان          |
| ۱۰۰     | ۲۳  | آج کل کے رافضی اسلام سے خارج ہیں                |
| ۲۷۲     | ۲۳  | رافضیوں کی اذان کا رد                           |
| ۷۴۱     | ۲۳  | رافضیوں کا رد                                   |
| ۷۳      | ۲۶  | شیعوں کا رد                                     |
| ۲۳۸     | ۲۶  | روافض زمانہ کفار و مرتدین ہیں                   |
| ۵۲۷     | ۲۸  | تفضیلیہ کا ردِ بلیغ                             |

## روقا دیانیت:

|           |    |                                   |
|-----------|----|-----------------------------------|
| ۳۶۶       | ۸  | قادیانیوں کا رد                   |
| ۵۱۳       | ۱۱ | قادیانیوں کا رد                   |
| ۳۲۱ ، ۲۷۹ | ۱۳ | قادیانیوں کا رد                   |
| ۳۸۵       | ۱۳ | قادیانی کافر                      |
| ۲۳۹       | ۲۰ | قادیانی کا ذبح                    |
| ۲۷۹       | ۲۱ | قادیانی کو مجدد ماننے والے کا حکم |
| ۲۸۰       | ۲۱ | قادیانیوں کا رد                   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

روئے نجریت:

|     |    |                  |
|-----|----|------------------|
| ۱۲۶ | ۱۳ | نجریتوں کے عقائد |
| ۲۳۶ | ۲۰ | نجریتوں کے عقائد |

روصوفیائے کذاب:

|     |    |                        |
|-----|----|------------------------|
| ۱۲۶ | ۱۳ | جموئے صوفیوں کے نظریات |
|-----|----|------------------------|

رسم و رواج:

|         |    |                |
|---------|----|----------------|
| ۳۲۲۵۲۵۷ | ۲۳ | بعض رسم و رواج |
|---------|----|----------------|

رسم قرآن:

|        |    |                        |
|--------|----|------------------------|
| ۱۱۰۵۹۵ | ۳۰ | رسم قرآنی کے کچھ قواعد |
|--------|----|------------------------|

رشوت:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۱۱ | ۶  | رشوت خور قاسق ہیں                               |
| ۳۱۹ | ۱۳ | پیسے لے کر طلاق دلوانا رشوت ہے                  |
| ۳۰۰ | ۱۷ | اپنی عزت بچانے کیلئے جو گو شاعر کو رشوت جائز ہے |
| ۳۶۹ | ۱۸ | رشوت دے کر فیصلہ لینا حرام ہے                   |
| ۳۶۹ | ۱۸ | رشوت کب حرام ہے اور کب نہیں                     |
| ۳۷۰ | ۱۸ | رشوت لینے دینے والوں پر لعنت                    |
| ۵۱۶ | ۱۸ | رشوت لے کر فیصلہ کرے تو قصافذ ہے                |
| ۵۵۶ | ۱۸ | رشوت کے فیصلہ کا بطلان اجماعی نہیں              |
| ۵۸۷ | ۱۸ | رشوت لینے اور دینے والے جہنمی ہیں               |
| ۱۹۸ | ۲۱ | رشوت کے بغیر حج کے لئے چارہ نہ ہو تو حکم        |
| ۳۱۱ | ۲۱ | کعبہ میں داخل ہونے کے لئے رشوت حرام             |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                        |
|------|-----|------------------------------------|
| ۵۵۱  | ۲۳  | رشوت اور سود کے مال کے حکم میں فرق |
| ۵۹۷  | ۲۳  | رشوت کی تعریف اور حکم              |

رضاعت:

|                              |        |  |
|------------------------------|--------|--|
| ۱۷۴، ۱۷۰                     | ۳      | رضاعت کے مسائل                             |
| ۲۱۸                          | ۸      | رضاعت کے مسائل                             |
| ۲۰۰                          | ۱۱     | شبہ رضاعت                                  |
| ۲۰۴                          | ۱۱     | رضاعت میں ایک عورت کا بیان                 |
| ۲۶۴، ۳۳۰، ۳۳۹، ۳۱۱، ۲۷۹، ۲۷۸ | جلد ۱۱ | مسئلہ رضاعت                                |
| ۲۷۰                          | ۱۱     | حقیقی بھائی کی رضاعی بیٹی کی بیٹی سے نکاح  |
| ۲۷۷                          | ۱۱     | بھائی رضاعی نواسی سے نکاح کا حکم           |
| ۲۸۷                          | ۱۱     | رضاعی بھائی کی اولاد سے حرمت نکاح          |
| ۲۹۱                          | ۱۱     | رضیع و مرضعہ کی اولادوں کے مابین نکاح حرام |
| ۲۹۳                          | ۱۱     | رضاعی چچا بھی چچا ہے                       |
| ۵۱۰، ۲۹۴                     | ۱۱     | مسئلہ رضاعت                                |
| ۱۲۷                          | ۱۲     | عورت اگر سوت کو دودھ پلائے تو حکم          |
| ۱۲۸                          | ۱۲     | کبیرہ صغیرہ کو دودھ پلائے تو حکم           |
| ۲۸۸                          | ۱۳     | رضاعت بعد اڑھائی سال نہیں                  |
| ۵۹۴                          | ۱۶     | رضاعت بغیر شہادت عادلہ ثابت نہیں ہوتی      |
| ۲۵۳                          | ۲۳     | بچہ کونیک و صالح خاتون سے دودھ پلویا جائے۔ |

رفع یدین:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۹۱۳ | ۱ | تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا ترک مکروہ |
|-----|---|--|

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ   |
|---------|-----|---------------|
| ۳۷۹،۱۵۳ | ۶   | رفح یدین والے |
| ۵۷۷     | ۶   | ترک رفح یدین  |
| ۶۰۸     | ۷   | رفح یدین      |
| ۳۳۰     | ۹   | رفح یدین      |

رقص :

|     |    |                                |
|-----|----|--------------------------------|
| ۵۵۲ | ۲۲ | رقص کی دو صورتیں اور حکم       |
| ۵۵۲ | ۲۲ | حضرت ہنفر کا رقص حضور کے سامنے |

رموز :

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| ۹۶  | ۱ | رموز کتب فقہ  |
| ۲   | ۲ | رموز          |
| ۵۴۰ | ۵ | رموز کتب حدیث |

روٹی :

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| ۹۶۹ | ۲۱ | روٹی کے چار کٹڑے کرنے کا حکم |
|-----|----|------------------------------|

روپے :

|     |    |                        |
|-----|----|------------------------|
| ۱۳۳ | ۱۰ | روپوں کا نصاب          |
| ۱۳۳ | ۱۰ | روپوں کا حکم           |
| ۱۳۵ | ۱۰ | کتنے روپے پر صاحب نصاب |
| ۱۵۴ | ۱۰ | روپے کا نصاب           |

روح :

|         |   |                    |
|---------|---|--------------------|
| ۶۵۹۷۶۳۹ | ۹ | روح گھر پر آتی ہیں |
|---------|---|--------------------|

| صفحہ                                | جلد   | عنوان مسئلہ                      |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------|
| ۸۸۹، ۸۸۱، ۸۶۴، ۸۶۰<br>۷۳۷، ۹۰۹، ۸۹۳ | جلد ۹ | انسان روح متعلق بالبدن کا نام ہے |
| ۱۳۰                                 | ۲۴    | روح کی غذا کی پہچان              |
| ۴۱۷                                 | ۲۸    | روح سے مادے کا تعلق              |
| ۷۷                                  | ۲۹    | انسان کی روح متجزی نہیں          |
| ۲۷۳                                 | ۲۹    | روح نہیں مرتی                    |
| ۲۸۵                                 | ۲۹    | روحیں کب پیدا ہوتیں              |
| ۳۲۷                                 | ۲۹    | روح اصل میں پاک ہے               |

روزہ:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۵۹۴      | ۱  | روزے میں غرغره کا حکم                     |
| ۷۹۶      | ۱  | روزے کے کفارہ کی مقدار                    |
| ۶۹۲      | ۲  | روزہ میں بیوی کا بوسہ                     |
| ۱۶۹      | ۳  | روزہ میں دانتوں کے خون کا نکل جانا        |
| ۱۷۳      | ۳  | کلی کے بعد کی تری کا حکم                  |
| ۱۷۴      | ۳  | روزہ میں تل کا دانہ چبانے یا نکلنے کا حکم |
| ۴۹۰      | ۳  | روزے میں بھول کر جماع کا حکم              |
| ۶۳       | ۱۰ | روزہ کا ثبوت                              |
| ۳۵۱، ۳۳۱ | ۱۰ | کتاب الصوم                                |
| ۲۲۱      | ۱۱ | روزہ                                      |
| ۲۶۵      | ۱۳ | روزہ کا مذاق اڑانے کا حکم                 |
| ۴۷۴      | ۱۳ | غلبہ شہوت پر قابو کے لئے روزہ             |
| ۳۷۴      | ۱۴ | روزے کا فدیہ بلا عذر منع                  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                              |
|------|-----|--|
| ۲۲۷  | ۲۰  | سخت گرمی میں روزہ کا سوال و جواب         |
| ۲۲۳  | ۲۰  | بقرعید کے دن اور تین دن بعد روزہ حرام ہے |
| ۲۲۳  | ۲۰  | نگلی روزوں میں عرفہ کا روزہ افضل ہے      |
| ۲۱۶  | ۲۰  | روزہ کے کفارے میں دلیل تخیری             |
| ۱۰۵  | ۲۳  | روزہ عصر اور اس کے فوائد                 |
| ۲۸۹  | ۲۳  | روزہ کی حالت میں منی لگانے کا حکم        |
| ۷۵۳  | ۲۳  | حج کے روزے کی وجہ                        |
| ۲۸۰  | ۲۳  | کون سا استنجاہ مفید روزہ ہے              |
| ۲۹۹  | ۲۳  | عشرہ محرم الحرام کے روزے باعث ثواب       |

## رہیۃ ہلال:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۲۷۸۵۳۵۲ | ۱۰ | رہیۃ ہلال اور تاریخی خبر                      |
| ۲۲۱     | ۲۶ | حرمین شریفین میں رہیۃ ہلال کے اختلاف کی کیفیت |

## رہن:

|     |    |                                |
|-----|----|--------------------------------|
| ۲۷۹ | ۹  | قبرستان کے رہن کا حکم          |
| ۱۳۳ | ۱۰ | مرہون زیوروں کی زکوٰۃ کا حکم   |
| ۲۲۸ | ۱۲ | شے مرہون سے اشعار              |
| ۲۲۹ | ۱۲ | شے مرہون میں اجازت مالک        |
| ۱۱۵ | ۱۶ | جاندا مرہونہ کے وقف کی شرط     |
| ۲۸۹ | ۱۷ | شے مرہون کی قیمت قبضہ کے دن سے |
| ۷۲۸ | ۱۸ | مشاع کارہن فاسد ہے             |
| ۲۳۲ | ۱۸ | رہن داخلی اور اس کا حکم        |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                           |
|---------|-----|---------------------------------------|
| ۲۶۵     | ۱۸  | رہن مشاع فاسد                         |
| ۲۶۵     | ۱۸  | رہن داخلی حرام ہے                     |
| ۷۳۰     | ۱۸  | گواہوں کی تصدیق کے بغیر رہن ثابت نہیں |
| ۲۹۲     | ۱۹  | کاشتکاری کی زمین کے رہن کے لئے شرط    |
| ۵۲۷     | ۱۹  | کاشتکاری کے رہن رکھنے کا سوال         |
| ۵۷      | ۲۵  | رہن میں نفع کی شرح سود ہے             |
| ۳۰۲۵۲۱۷ | ۲۵  | کتاب الرہن                            |
| ۵۸      | ۲۵  | رہن سے نفع کی ایک صورت                |

## ریاضی و ہندسہ:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۸۸ | ۲  | ریاضی و ہندسہ کے ضوابط                      |
| ۱۵۳ | ۵  | فلکیوں کی تقسیم فصول                        |
| ۱۵۵ | ۵  | اوقات بعض تحویلات کا نقشہ                   |
| ۶۵  | ۶  | سمت قبلہ میں علم ہیئت کا اعتبار نہیں        |
| ۷۵  | ۶  | ہندوستان کا عرض شمالی                       |
| ۶۳۲ | ۷  | بریلی سے جہت بغداد و مدینہ منورہ کا استخراج |
| ۲۵۵ | ۸  | منزل کوس فرسنگ کی مسافتیں                   |
| ۲۹۶ | ۱۰ | انگریزی روپے سے صاع کا تعین                 |
| ۵۲۵ | ۱۰ | سات مثقال کا وزن                            |
| ۵۲۶ | ۱۰ | رطل، استار مثقال کا وغیرہ                   |
| ۵۲۸ | ۱۰ | تولوں سے فدیہ اور صاع کی مقدار              |
| ۱۲۵ | ۱۲ | مہر فاطمی                                   |
| ۱۳۷ | ۱۲ | دینار و درہم بحساب سکہ راجحہ                |

| صفحہ | نمبر | عنوان مسئلہ                      |
|------|------|----------------------------------|
| ۱۷۲  | ۱۲   | مہر شری                          |
| ۱۷۲  | ۱۲   | مہر ازواج مطہرات                 |
| ۱۷۳  | ۱۲   | دس درہم شری بحساب سکہ راجہ       |
| ۳۰۶  | ۲۶   | واحد کے صد ہونے کی تحقیق         |
| ۳۰۷  | ۲۸   | زاویہ کی اقسام                   |
| ۳۱۳  | ۲۸   | مثلث کے مختلف مثلثی کے زاویے     |
| ۳۲۰  | ۲۸   | شکل بندی سے مقام موذن کی تصویر   |
| ۳۳۰  | ۲۸   | مقدار عمود کی حقیقی نسبت کا بیان |
| ۲۷۰  | ۲۹   | انکسین کا ایک مسئلہ              |
| ۲۷۰  | ۲۹   | ارثا طبعی کا مسئلہ               |
| ۲۷۰  | ۲۹   | جبر و مقابلہ کا مسئلہ            |

ریشم:

|     |    |                                    |
|-----|----|------------------------------------|
| ۶۰۲ | ۳  | ریشم                               |
| ۱۱۳ | ۲۲ | مرد کے لئے ریشمی کمر بند کا حکم    |
| ۱۱۳ | ۲۲ | سرکار نے ریشم کی خیاطت کا جبہ پہنا |
| ۱۵۵ | ۲۲ | ریشمی کپڑا مرد کو حرام             |
| ۱۷۹ | ۲۲ | ریشم کی تعریف                      |
| ۱۵۳ | ۲۲ | ریشم کے ازار بند کے استعمال کا حکم |
| ۱۷۶ | ۲۲ | ریشمی جائے نماز کے استعمال کا حکم  |

ریل:

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| ۳۵۳ | ۳ | ریل میں نماز |
|-----|---|--------------|

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--------------|
| ۱۱۳      | ۵   | ریل میں نماز |
| ۱۳۶، ۲۰۲ | ۶   | ریل میں نماز |



## زکوٰۃ:

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| ۹۲۷       | ۱  | کل مال مصرف خیر میں دینے کا حکم                       |
| ۳۳۰۷۶۳    | ۱۰ | کتاب الزکوٰۃ  |
| ۵۹۶       | ۱۳ | مال زکوٰۃ و نذر خاص برابر ہیں                         |
| ۵۶        | ۱۳ | زکوٰۃ بنام قرض دینا صحیح ہے                           |
| ۲۳۹       | ۱۴ | زکوٰۃ ذمی کو نہیں دے سکتے                             |
| ۵۵۹       | ۱۶ | بلاعذر شرعی ۳ سال زکوٰۃ نہ دینے والا فاسق ہے          |
| ۲۸۷       | ۱۶ | لا علمی میں زکوٰۃ مالدار کو چلی گئی                   |
| ۲۰۹       | ۱۷ | نوٹ پر زکوٰۃ ہے                                       |
| ۶۸۷       | ۱۸ | میاں بیوی باہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے                     |
| ۶۵۶       | ۱۸ | زکوٰۃ حرام مال سے ادا نہیں ہوتی                       |
| ۵۴۲       | ۲۰ | زکوٰۃ میں تملیک ضروری                                 |
| ۱۰۶       | ۲۳ | زکوٰۃ مسجد میں دینے کا حکم                            |
| ۱۰۶       | ۲۳ | زکوٰۃ خلافت فنڈ میں                                   |
| ۱۳۱ ، ۱۰۶ | ۲۳ | زکوٰۃ کارکن تملیک ہے                                  |
| ۱۳۰       | ۲۳ | زکوٰۃ کی مد سے چندہ بد مذہبوں کے مشترکہ یتیم خانے میں |
| ۲۱۱       | ۳۰ | زکوٰۃ چوتھائی سے چالیسواں حصہ ہوتی                    |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

زمزم:

|            |    |  |
|------------|----|--|
| ۴۵۲        | ۲  | زمزم سے غسل  |
| ۴۵۲        | ۲  | زمزم سے استنجاء                                    |
| ۴۷۷ (ماہی) | ۲  | زمزم   |
| ۴۵۳        | ۵  | حجر اسود و زمزم کے درمیان قبور انبیاء علیہم السلام |
| ۶۱۹        | ۵  | آب زمزم کی حدیث کا مرتبہ                           |
| ۱۲۱        | ۹  | آب زمزم سے استنجاء منع ہے                          |
| ۴۰۱        | ۲۶ | آب زمزم حضرت خضر علیہ السلام ہر سال پیتے ہیں       |

زمین:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۹۶  | ۲  | ناپاک زمین پر جو تاہن کر نماز درست نہیں   |
| ۵۶۷ | ۴  | پوشاب والی زمین پر گری راب کی شکر کا حکم  |
| ۳۳۳ | ۵  | زمین تراور ناپاک تو مسلکی وضاحت           |
| ۹۰۷ | ۹  | زمین پر انبیاء کے بدن کو کھانا حرام       |
| ۴۰۸ | ۹  | بلا اجازت کسی کی زمین میں دفن             |
| ۳۸۰ | ۹  | دو امی پوشہ والی زمین پر قبر بنانے کا حکم |
| ۲۱۳ | ۱۰ | زمین ہندوستان کی                          |
| ۱۱۹ | ۱۷ | مزرود زمین کی بیع کی تفصیل                |
| ۱۱۹ | ۱۷ | زمین کے تابع کھیتی کب ہے اور کب نہیں      |
| ۱۳۳ | ۱۸ | باشت بھر زمین ظلمنا لینے کی اخروی سزا     |
| ۱۸۰ | ۲۰ | سلطانی زمین میں حق استمرار ملنے کی صورت   |
| ۲۷۳ | ۲۱ | کافر کی زمین میں مسجد کا حکم              |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                            |
|---------|-----|--|
| ۲۶۱     | ۲۳  | عربوں کی زمین عشری ہے                  |
| ۷۴      | ۲۶  | معافی کی زمین کا حکم                   |
| ۳۸۱۵۱۹۵ | ۲۷  | زمین و آسمان کے ساکن ہونے پر تین رسائل |

## زن:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۳۳۳،۳۳۱ | ۱۱ | زن مفقود                                      |
| ۳۳۸،۳۱۲ | ۱۱ | زن مفقود                                      |
| ۲۳۵     | ۲۱ | زن مفصاة سے نکاح کا حکم                       |
| ۶۳۱     | ۲۳ | زن مفقود کے بارے میں امام مالک کے قول کا مطلب |

## زنا / زانی :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۲۳ | ۴  | زانی کے ہاتھ کے ذبیحہ کا حکم                     |
| ۵۲۳ | ۶  | زانی فاسق ہے۔                                    |
| ۶۰۲ | ۶  | زانی کی امامت مکروہ ہے                           |
| ۶۰۳ | ۶  | زانی بعد تو بہ امامت کرا سکتا ہے                 |
| ۶۳۳ | ۶  | زانی فاسق ہے، امام بنانا گناہ                    |
| ۱۹۵ | ۱۱ | زنا کے تین گواہ ہوں تو حکم                       |
| ۲۶۳ | ۱۱ | زانی نے بحالت حمل زنا کیا تو حکم                 |
| ۲۹۳ | ۱۱ | زنا سے بھتیجی، بھانجی حرام نہیں ہوتی             |
| ۲۹۳ | ۱۱ | ہندہ کی پھوپھی سے زنا کیا اب ہندہ سے نکاح کا حکم |
| ۳۲۳ | ۱۱ | زنا کا حمل ہو تو حکم                             |
| ۳۳۵ | ۱۱ | زنا پردہ کی گواہی                                |
| ۳۳۳ | ۱۱ | اثبات زنا میں صرف عورتوں کی گواہی                |

| ردیف     | جلد | موضوع مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۳۷۱۵۳۵۳  | ۱۱  | زنا سے مصاہرت                                      |
| ۳۳۳      | ۱۱  | عورت اور اس کی بیٹی سے زنا کے بعد نکاح کا حکم      |
| ۳۵۸      | ۱۱  | ساس کا اقرار زنا اور حکم                           |
| ۳۶۳      | ۱۱  | ساس سے زنا حرام مگر عورت حرام نہیں                 |
| ۳۶۷، ۳۶۶ | ۱۱  | خسر کا بیوہ سے زنا کا حکم                          |
| ۵۱۳      | ۱۱  | زنا و دوامی زنا، نیت نکاح میں فرق مستتر ہے یا نہیں |
| ۱۲۷      | ۱۲  | شوہر کے اصول و فروع سے زنا کا حکم                  |
| ۳۲۲      | ۱۳  | زنا کی عدت نہیں                                    |
| ۳۲۲      | ۱۳  | دوسرے کی عورت بھگانے والا زانی                     |
| ۳۲۲      | ۱۳  | زنا موجب بطلان نکاح نہیں                           |
| ۳۷۳      | ۱۳  | نکاح طینی بغیر طلاق زنا زنا زنا                    |
| ۶۱۵      | ۱۳  | زنا کی شہادت کے الفاظ                              |
| ۶۲۳      | ۱۳  | ثبوت زنا از شہادت کی شرائط                         |
| ۶۲۳      | ۱۳  | زنا کافر سے بھی حرام                               |
| ۱۲۱      | ۱۶  | زنا کی کمائی حرام ہے                               |
| ۶۲۳      | ۱۸  | زنا کی تہمت کے بعد گواہ نہ لائے تو قذف کا مستحق ہے |
| ۲۵۲      | ۲۰  | کسی پر بلا ثبوت زنا کا حکم لگانا حرام              |
| ۲۵۲      | ۲۰  | زانی کا ذبیحہ حلال ہے                              |
| ۱۵۵      | ۲۱  | زانی کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم                    |
| ۱۸۳      | ۲۱  | زنا کے ثبوت کا شرعی معیار                          |
| ۲۸۱      | ۲۱  | زانی کے لئے عدت نہیں ہے                            |
| ۵۶۱      | ۲۲  | زنا کو حلال کرنے والے کو سرکار نے حکمت سے سمجھایا  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|------|-----|--|
| ۲۳۹  | ۲۲  | زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا                  |
| ۳۲۶  | ۲۳  | ثبوت زنا کے لئے گواہوں کا معیار            |
| ۳۲۶  | ۲۳  | بوڑھے زانی کی سزا                          |
| ۳۲۹  | ۲۳  | بے ثبوت شرعی زنا کی تہمت لگانے والے کا حکم |
| ۳۸۷  | ۲۳  | زنا کی تہمت لگانے والے کی شہادت مردود ہے   |
| ۱۳۷  | ۲۶  | زنا کی تہمت حرام اور اس کی سزا             |
| ۶۵   | ۲۹  | زنا خلاف رضامندی و بلا رضامندی میں فرق ہے  |

## زوج / زوجہ / زوجیت:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۳۰۷      | ۳  | بہت صورتوں میں زوجہ سے صحبت حرام ہے      |
| ۵۴۰      | ۳  | زوجہ اگر پسر زوج کا بشہوت بوسہ لے تو حکم |
| ۴۱۲، ۳۴۴ | ۱۱ | زوج مفقود الخمر                          |
| ۴۲۸      | ۱۱ | زوج مفقود الخمر                          |
| ۴۲۸، ۳۴۵ | ۱۳ | زوجہ مفقود الخمر کا مکمل بیان            |
| ۲۸۵      | ۱۸ | زوجیت کے ثبوت کی ۶ صورتیں                |
| ۶۱۱      | ۲۳ | زوجہ کا کفن شوہر پر فرض                  |

## زیارت:

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| ۵۵۸، ۵۵۵ | ۳ | زیارت قبور    |
| ۵۶۳      | ۳ | زیارت قبور    |
| ۵۹۳      | ۵ | زیارت سرکار ﷺ |
| ۵۶۳، ۵۲۲ | ۹ | زیارت قبور    |
| ۴۵۰      | ۹ | زیارت قبور    |



| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                            |
|----------|-----|--|
| ۷۹۸، ۷۶۳ | ۱۰  | زیارت بارگاہ سید المرسلین              |
| ۲۹۵      | ۱۹  | زیارت قبر کی اجرت ناجائز               |
| ۱۰۹      | ۲۳  | ہولیاہ اللہ کی زیارت کے لئے سفر کا حکم |
| ۲۰۵      | ۹   | زیارت قبور کا حکم                      |
| ۲۸۲      | ۲۹  | زیارت قبور سنت ہے                      |
| ۷۲       | ۳۰  | زیارتہ القبور للنساء                   |

زیارت:

|         |    |               |
|---------|----|---------------|
| ۵۰۵۷۲۸۱ | ۲۳ | زیارت کا بیان |
|---------|----|---------------|

زیورہ زیورات:

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| ۱۵۳۷۱۱۱ | ۲۲ | زیورات کا بیان                        |
| ۲۲۸     | ۲۵ | جزیور امانت ہواں کا حکم               |
| ۲۵۶     | ۲۵ | زیورہ بن رکھنے کی صورت                |
| ۲۲۸     | ۲۵ | زیور امانت ہو تو شہادت عادلہ پر موقوف |
| ۶۳۲     | ۲۵ | زیور عاریتہ لینے والا مرجائے تو حکم   |
| -۱۱۵    | ۲۶ | چڑھاوے کے زیورات کا حکم               |

(س)

سائنس:

دیکھئے فلسفہ:

سایہ:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۷۷۰۷۶۹۵ | ۳۰ | حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا |
|---------|----|---|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

سبیل:

سبیل سے وضو کا حکم

۲۸۹، ۲۸۸، ۲۸۱

۲

ستر / حجاب / پردہ :

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۲۷۲      | ۱  | ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا             |
| ۳۰۷      | ۳  | صرف ستر ہو کر نماز پڑھنے کا حکم          |
| ۵۵۱      | ۱۴ | ستر و حجاب کے مسائل                      |
| ۲۰۸      | ۱۸ | مکانات کی بے پردگی کے مسائل              |
| ۶۱۳      | ۱۸ | کسی عورت کو بے پردہ دیکھنا فسق ہے        |
| ۶۳۷      | ۲۱ | بے پردہ نکلنے والی عورتوں کا حکم         |
| ۲۵۰، ۲۰۱ | ۲۲ | ستر اور اسکے احکام                       |
| ۵۹۳      | ۲۲ | بوقت ضرورت ستر دیکھنا دکھانا منع نہیں ہے |
| ۶۰۴      | ۲۲ | بچے کا کوئی ستر نہیں                     |
| ۲۴۰      | ۲۲ | پردے کا ضابطہ کلیہ                       |
| ۵۷۸      | ۲۳ | عورتوں کا بے پردہ گھومنا حرام            |
| ۶۳۷      | ۲۳ | شاگردنات استاد سے پردہ کرے               |
| ۶۹۲      | ۲۳ | مسلمان عورت کافرہ عورت سے بھی پردہ کرے   |

سترہ:

سترہ اور اس کی مقدار کا حکم

۲۷۹

۲۲

سجدہ تعظیسی:

|     |    |                                    |
|-----|----|------------------------------------|
| ۱۵۴ | ۱۵ | سجدہ تعظیسی حرام                   |
| ۱۶۳ | ۲۱ | سجدہ تعظیسی اگر بت کو ہو تو کفر ہے |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۴۰۷     | ۲۲  | غیر خدا کو سجدہ حرام   |
| ۴۱۲     | ۲۲  | سجدہ کی اقسام اربعہ  |
| ۴۱۷     | ۲۲  | لانگہ کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی                                 |
| ۴۱۷     | ۲۲  | حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی   |
| ۴۱۷     | ۲۲  | حکم ہاتھ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی |
| ۴۲۳     | ۲۲  | سجدہ کی دو اقسام اور حکم   |
| ۵۶۹۷۴۲۵ | ۲۲  | سجدہ تعظیمی کی حرمت کا مفصل بیان   |
| ۶۲۹     | ۲۹  | سجدہ تعظیمی حرام   |

سجدہ تلاوت:

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| ۲۳۹۷۴۲۳   | ۸  | باب سجدہ تلاوت                                   |
| ۵۳۹ ، ۴۲۵ | ۸  | سجدہ تلاوت کی ایک صورت                           |
| ۸۰        | ۱۰ | سجدہ تلاوت فی النور واجب ہے                      |
| ۶۰۷       | ۱۰ | نماز میں آیت سجدہ پر فی النور سجدہ ہے            |
| ۲۵۷       | ۱۳ | سجدہ تلاوت نذر سے لازم نہیں ہوتا                 |
| ۴۰۹       | ۲۲ | نمازی کی تلاوت سے خارج نماز پر سجدہ تلاوت کا حکم |
| ۴۱۲       | ۲۲ | سجدہ کی اقسام اربعہ                              |
| ۴۲۳       | ۲۲ | سجدہ کی دو اقسام اور حکم                         |

سجدہ سہو:

|         |   |              |
|---------|---|--------------|
| ۶۲۲     | ۶ | سجدہ سہو     |
| ۵۶۷۷۴۵۷ | ۷ | سجدہ سہو     |
| ۱۷۷     | ۸ | باب سجدہ سہو |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                   |
|------|-----|-------------------------------|
| ۳۱۳  | ۸   | سجدہ سہو کا ترک بوجہ اثر وہام |
| ۶۰۷  | ۱۰  | سجدہ سہو                      |
| ۴۱۴  | ۲۲  | سجدہ کی اقسام اربعہ           |
| ۴۲۳  | ۲۲  | سجدہ کی دو اقسام اور حکم      |

## سحر و افطار:

|        |    |                     |
|--------|----|---------------------|
| ۶۴۴۵۶۱ | ۱۰ | سحر و افطار کا بیان |
|--------|----|---------------------|

## سرمہ:

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| ۶۴۰ | ۳ | سرمہ سے تیمم کا حکم |
|-----|---|---------------------|

## سفر / مسافر:

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| ۵۱۹       | ۲  | سفر و حضر میں مال ملانا                              |
| ۴۲۹       | ۳  | قلیل و کثیر سفر کا فرق                               |
| ۵۵۳       | ۳  | سفر میں کب پانی کی تلاش فرض                          |
| ۴۲۳       | ۳  | مسافر کے لئے ایک مشکل صورت                           |
| ۱۵۹       | ۵  | سفر میں جمع بین الصلوٰتین                            |
| ۴۲۶       | ۵  | مسافر کے لئے اذان و اقامت کا ترک                     |
| ۲۳۳ ، ۲۳۹ | ۷  | امام مسافر اور مقتدی مقیم                            |
| ۲۷۱۵۲۴۱   | ۸  | باب صلوٰۃ المسافر                                    |
| ۱۱۴       | ۱۰ | مسافر اور زکوٰۃ                                      |
| ۳۳۷       | ۱۰ | سفر اور روزہ   |
| ۲۶۸       | ۱۴ | بیوی کو چھوڑ کر سفر پر جانے کی مدت                   |
| ۵۹۸       | ۲۳ | انگریزی نیا سودی کمپنی (ایئر لائن) پر حج کا سفر کرنا |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                          |
|------|-----|--------------------------------------|
| ۴۰۰  | ۲۳  | سز کو جانے کے ایام                   |
| ۵۵   | ۲۵  | سز میں سواری کا کرایہ رہ جائے تو حکم |

سلام:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۴۲۷ | ۳  | سلام کا جواب حالت جنابت میں                               |
| ۳۶۵ | ۴  | بھالت جنابت سلام کا جواب                                  |
| ۱۸۹ | ۶  | سلام کے بعد امام کی اطاعت ختم                             |
| ۱۹۰ | ۶  | سلام کے بعد امام کیسے بیٹھے                               |
| ۴۰۴ | ۶  | امام کے لئے بعد سلام قبلہ رو ہونا مکروہ ہے                |
| ۴۰۷ | ۶  | صرف امام سلام کے بعد پھرے                                 |
| ۴۲۷ | ۲۱ | کافر کو تظیماً سلام کہنے والا کافر                        |
| ۳۲۴ | ۲۲ | مرد کا اہلیہ کو سلام کہنا                                 |
| ۳۲۷ | ۲۲ | سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کو سلام          |
| ۳۳۲ | ۲۲ | الفاظ سلام و جواب سلام                                    |
| ۳۳۳ | ۲۲ | سلام و جواب سلام کے متعلق احادیث                          |
| ۳۳۵ | ۲۲ | لفظ سلام منہ سے   |
| ۳۳۶ | ۲۲ | سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سلام فرمایا |
| ۳۷۸ | ۲۲ | کس کس کو سلام کرنا جائز نہیں                              |
| ۴۰۹ | ۲۲ | نماز کے اختتام پر سلام کی حکمت                            |
| ۴۱۸ | ۲۲ | کن لوگوں پر سلام کا جواب واجب نہیں                        |
| ۵۶۸ | ۲۲ | سلام میں ابتدا  |
| ۵۶۹ | ۲۲ | سلام کا جواب وضو، تلاوت کے دوران                          |
| ۳۳۳ | ۲۲ | سلام کا جواب واجب کفایہ ہے                                |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|------|-----|---|
| ۳۲۶  | ۲۳  | کافر بد مذہب کو ابتداء بسلام حرام       |
| ۷۱۳  | ۲۳  | سلام کا جواب علی الفور واجب             |
| ۵۶۶  | ۲۹  | التحیات میں معافی کا قصد کر کے سلام کرے |

سماع:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۶۴۴     | ۱۳ | سماع کون سا مباح ہے                                      |
| ۵۵۸     | ۲۱ | سماع کی شرائط  |
| ۵۵۱     | ۲۲ | سماع میں تالی  |
| ۵۵۶     | ۲۲ | سماع کا ترک حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی وجہ |
| ۵۵۸     | ۲۲ | کون سا سماع مردود و گناہ                                 |
| ۵۵۷     | ۲۲ | سماع کی اقسام  |
| ۷۲۲     | ۲۳ | سماع کے جائز ہونے کی ایک شرط                             |
| ۸۳      | ۲۳ | بے مزا میر سماع کی صورتیں                                |
| ۱۲۳     | ۲۳ | سماع کی شرائط پر جامع فتویٰ                              |
| ۱۶۲۷۱۳۵ | ۲۳ | سماع پر مستقل رسالہ                                      |

سماع موتی

|         |   |                   |
|---------|---|-------------------|
| ۹۳۳۷۶۷۵ | ۹ | سماع موتی کا بیان |
|---------|---|-------------------|

سنت:

|      |   |                                  |
|------|---|----------------------------------|
| ۲۹۳  | ۱ | وضو کی ابتدا میں بسم اللہ سنت ہے |
| ۹۰۰  | ۱ | وضو میں داہنے سے ابتدا سنت ہے    |
| ۱۰۵۰ | ۱ | ۱۰ چیزیں انبیاء کی سنت ہیں       |
| ۹۰۱  | ۱ | سنت کی اقسام اور احکام           |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                      |
|------|-----|--|
| ۹۵۰  | ۱   | سنت واجب کی تکمیل                                |
| ۵۲   | ۲   | برتن بہ نیت سنت دھونے کا حکم                     |
| ۳۷۵  | ۳   | ضرب ہتھیلیوں سے سنت ہے                           |
| ۳۸۳  | ۳   | ہاتھ مار کر گرد جھاڑنا سنت ہے                    |
| ۳۳۳  | ۵   | نماز فجر کو روشنی میں پڑھنا سنت ہے               |
| ۳۶۵  | ۵   | فجر کی سنتیں رہ جائیں تو پھر پڑھے                |
| ۳۹۷  | ۵   | مردہ سنت زعمہ کرنے کی احادیث                     |
| ۱۸۲  | ۶   | ٹٹا پڑھنا سنت ہے                                 |
| ۶۴۱  | ۶   | سنت کے احکام                                     |
| ۲۰۰  | ۷   | سنت مؤکدہ کی تعریف                               |
| ۲۳۵  | ۹   | قبر کے پاس دعا سنت ہے                            |
| ۷۹۲  | ۱۰  | سنتیں حج کی                                      |
| ۲۹۳  | ۱۱  | سنت نکاح کب                                      |
| ۱۲۶  | ۲۲  | کنواری لڑکیوں کو منگنی کے لئے آراستہ کرنا سنت ہے |
| ۲۶۸  | ۲۲  | سنت جب بھی ادا کریں سنت ہی ہے                    |
| ۵۶۳  | ۲۲  | نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ سنت ہے              |
| ۶۳۳  | ۲۲  | سنت کی تعریف اور واجب و سنت میں فرق              |
| ۶۷۱  | ۲۲  | تارک سنت کے لئے وعید کی احادیث                   |
| ۶۰۸  | ۲۳  | ہدیہ قبول کرنا اور عوض دینا سنت                  |
| ۱۷۰  | ۲۳  | خطبہ نکاح سنت                                    |
| ۲۰۲  | ۲۳  | احیائے سنت کا ثواب                               |
| ۵۲   | ۲۸  | خطبہ جمعہ کی اذان مسجد سے باہر سنت               |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                       |
|------|-----|-----------------------------------|
| ۱۳۰  | ۲۸  | سنت بدلنے والوں کیلئے شدید وعیدیں |
| ۲۸۲  | ۲۹  | زیارت قبور سنت ہے                 |
| ۳۱۳  | ۲۹  | استعمال دوا سنت ہے                |

سند:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۹۷  | ۱ | سند مصنف علیہ الرحمۃ فی الفقہ            |
| ۵۱۲ | ۸ | مصنف علیہ الرحمۃ کی ایک حدیث میں سند     |
| ۱۳۳ | ۹ | ایک سند کہ مجنون پر پڑھو تو شفاء ہو جائے |

ستی:

|         |    |                                       |
|---------|----|---------------------------------------|
| ۶۵۳۵۶۱۳ | ۲۹ | سنی اور غیر سنی میں امتیاز کے ۲۰ امور |
|---------|----|---------------------------------------|

سواری:

|         |   |  |
|---------|---|--|
| ۴۲۴۵۴۲۲ | ۳ | نماز کے لئے سواری سے نہ اتر سکے تو کیا کرے |
|---------|---|--|

سود:

|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| ۱۱۰       | ۵ | سود کا گناہ                  |
| ۴۸۳، ۴۹۰  | ۲ | سود خور                      |
| ۴۹۳       | ۲ | سود خور کی امامت             |
| ۵۶۳ ، ۵۲۱ | ۲ | سود لکھنے والا               |
| ۵۲۸       | ۲ | سودی قرض لینے والا           |
| ۵۸۵       | ۲ | سود خور کی امامت             |
| ۸۹        | ۸ | سود کی مخلوط آمدنی کا حکم    |
| ۵۰۷       | ۹ | حاجت شرعیہ کے وقت سود کا حکم |
| ۶۶۶       | ۹ | بلا ضرورت سود دینا بھی گناہ  |

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                                       |
|------------|-----|---|
| ۱۹۲        | ۱۰  | زید بن ارقم کا سود کی بعض صورتوں سے رجوع          |
| ۱۷۲        | ۱۲  | سود پر فریقین راضی ہو تو بھی حرام قطعی ہے         |
| ۱۱۳        | ۱۳  | سود کی حرمت                                       |
| ۱۱۳        | ۱۳  | سود خور پر لعنت                                   |
| ۳۷۳ ، ۱۱۵  | ۱۳  | سود کا گناہ                                       |
| ۳۷۸        | ۱۳  | سود حرام  |
| ۲۲۹        | ۱۶  | سود کی شرح پر کرایہ کا حکم                        |
| ۸۹         | ۱۷  | سود لینے والے کی رقم سے دینے والا مجرا کر سکتا ہے |
| ۹۰         | ۱۷  | سود کی ملک کا حکم                                 |
| ۱۶۰        | ۱۷  | سود کی تعریف                                      |
| ۲۶۹        | ۱۷  | سود خور کی امامت                                  |
| ۲۷۸        | ۱۷  | سود کی وعیدوں کے بیان کی احادیث                   |
| ۳۹۳ تا ۲۹۱ | ۱۷  | باب الربا   |
| ۶۷۰        | ۱۸  | بٹے سود میں ماہر ہیں                              |
| ۱۵۱        | ۱۹  | مضاربتہ میں سود کس طرح ہے                         |
| ۴۹۹        | ۱۹  | سودی کاروبار کرنے والے کے ہاں نوکری کا حکم        |
| ۵۱۳        | ۱۹  | سودی کاروبار حرام                                 |
| ۵۱۳        | ۱۹  | سود کا گناہ                                       |
| ۵۱۳        | ۱۹  | سود سے بچنے کے طریقے                              |
| ۵۶۰        | ۱۹  | سودی قرض کا حکم                                   |
| ۶۳۶        | ۱۹  | سود کی حرمت کا بیان                               |
| ۲۰۶        | ۲۰  | سود کی ایک صورت                                   |

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------------|-----|--|
| ۴۹۶        | ۲۰  | سود حرام                                       |
| ۱۵۲        | ۲۱  | سود خور پر لعنت                                |
| ۱۵۵        | ۲۱  | سود خور کے ساتھ کھانا کھانے کا حکم             |
| ۱۶۱        | ۲۱  | سود گناہ کبیرہ                                 |
| ۶۴۱ تا ۶۴۷ | ۲۱  | سود خور کے گھر کھانا کھانا                     |
| ۶۵۸        | ۲۱  | سود خور کے کھانے سے اجتناب کرنا چاہئے          |
| ۱۰۳        | ۲۳  | سود خور کی امامت کا حکم                        |
| ۱۰۳        | ۲۳  | سود خور کے ہاں دعوت کا حکم                     |
| ۵۴۲        | ۲۳  | سودی روپیہ سے بنے تالاب اور اس سے وضو کا حکم   |
| ۵۴۲        | ۲۳  | سودی روپیہ سے حج کا حکم                        |
| ۵۹۸        | ۲۳  | حج کیلئے سودی کمپنی (ایئر لائن) کا سفر کرنا    |
| ۲۶۸        | ۲۳  | سودی قرض سے شادی پر کھانا کھلانا               |
| ۵۴۲        | ۲۳  | سودی رقم سے بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز        |
| ۵۴۵        | ۲۳  | سود کا مال ترکہ میں چھوڑے تو حکم               |
| ۵۴۱        | ۲۳  | سود کے کچھ مسائل                               |
| ۵۶۸        | ۲۳  | سود سے چھٹکارے کا حیلہ چاہئے نہ کہ سود لینے کا |
| ۵۷۸        | ۲۳  | سود لینے دینے کی مذمت                          |
| ۵۸۲        | ۲۳  | سودی قرض لینے کی ضرورتاً اجازت                 |
| ۵۸۲        | ۲۳  | سودی قرض لینے کی ضرورتوں کا بیان               |
| ۵۸۷        | ۲۳  | سود کھانے کھلانے پر لعنت                       |
| ۵۷         | ۲۵  | رہن میں نفع کی شرح سود ہے                      |
| ۲۹۷        | ۲۵  | سود کا مال توبہ سے بھی حلال نہیں ہوتا          |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ       |
|------|-----|-------------------|
| ۲۱۷  | ۲۵  | قرض کا نفع سود ہے |
| ۲۵۳  | ۲۵  | رہن و غلی سود ہے  |

سور:

دیکھئے جہونا:

سوال/سائل:

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| ۳۰۳       | ۱۰ | ضرورت شریعہ کے بغیر سوال کا حکم   |
| ۳۰۷       | ۱۰ | گدا گر کو بھیک دینے کی مذمت   |
| ۳۹۱ ، ۳۱۸ | ۱۶ | مسجد میں اپنے لئے سوال منع ہے   |
| ۳۱۶       | ۲۱ | بلاعذر سوال حرام ہے   |
| ۳۶۳       | ۲۳ | جن کو بھیک مانگنا حرام ان کو دینا بھی گناہ  |
| ۶۰۷       | ۲۳ | سوال کرنا کب جائز اور کب ناجائز   |
| ۳۷۰       | ۲۴ | ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک سائل کو ٹکڑا دیا اور دوسرے کو باعزاز طعام |
| ۲۱۵       | ۲۵ | تندرست کو بھیک نہ دی جائے   |

سوگ:

دیکھئے حداد:

سونا:.....(GOLD)

|        |    |                     |
|--------|----|---------------------|
| ۶۹۵    | ۳  | سونے پر تیمم        |
| ۶۰۲    | ۳  | سونا پگھلانا        |
| ۸۵     | ۱۰ | سونے کا نصاب        |
| ۱۱۵۵۱۳ | ۱۰ | سونا چاندی کو ملانا |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۱۳۳  | ۱۰  | سونے کا نصاب                                       |
| ۵۲۶  | ۱۰  | سونے کے نصاب کی مقدار                              |
| ۱۱۲  | ۲۲  | سونے کے استعمال میں اصل حرمت ہے                    |
| ۱۱۱  | ۲۲  | سونے کی گھڑیوں کا حکم                              |
| ۱۲۳  | ۲۲  | سونے کی تاروں سے منقش کرنے کا مردوں کے لئے حکم     |
| ۱۲۹  | ۲۲  | سونے کی گھڑی جیب میں ہو تو نماز کا حکم             |
| ۱۳۲  | ۲۲  | مرد کے لئے سونے کے استعمال کے جواز کی ۱۳ صورتیں    |
| ۶۷۹  | ۲۲  | سونے کے ناخن استعمال کرنا مرد و عورت کے لئے ناجائز |
| ۱۹۵  | ۲۲  | سونے کی ناک کا حکم                                 |

## سیاست:

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| ۶۲۹     | ۱۳ | سیاست کا حق کسے ہے                   |
| ۶۳۱     | ۱۳ | سیاست قتل کا حق کسے ہے               |
| ۱۸۲     | ۱۳ | سلطان کی اقسام                       |
| ۲۱۸     | ۱۳ | ملک پر تسلط کی صورتیں                |
| ۱۳۳     | ۱۵ | مسلمانوں کو حالت سنبھالنے کے ۴ مشورے |
| ۱۳۵     | ۱۵ | مسلمانوں کی حالت زار                 |
| ۲۶۵     | ۱۵ | بادشاہ اسلام کی اعانت کے درجات       |
| ۳۷۳     | ۱۶ | جرم بغاوت کی سزا ہر جگہ سخت ہے       |
| ۲۹۰     | ۲۱ | بادشاہ اگر غیر مستحق کو دے تو حکم    |
| ۲۹۰     | ۲۱ | ہند اور سندھ سے ہجرت کا حکم          |
| ۷۱۹۷۷۱۷ | ۲۲ | سیاسات کا بیان                       |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

سید / سیدہ / سادات:

|               |    |                                       |
|---------------|----|---------------------------------------|
| ۱۰۹۵۹۹        | ۱۰ | سادات محتاجین کو زکوٰۃ                |
| ۲۶۷           | ۱۰ | سادات پر زکوٰۃ                        |
| ۷۱۲، ۷۰۴      | ۱۱ | سیدہ کا نکاح                          |
| ۷۳۰، ۷۲۸، ۷۱۷ | ۱۱ | سیدہ کا نکاح                          |
| ۳۶۱           | ۱۳ | دادا پٹھان دادی والدہ سیدانی          |
| ۲۲۰           | ۲۲ | سادات کی تعظیم فرض اور تو صیف لازم ہے |
| ۲۲۳           | ۲۲ | سادات کی تعظیم کی وجہ                 |
| ۵۶۸           | ۲۲ | سید کے لڑکے سے خدمت لینے کا حکم       |
| ۳۳۱           | ۲۳ | تعظیم سادات کی احادیث                 |
| ۵۸۷           | ۲۹ | تعظیم سادات کی اہمیت                  |

سیر:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۹۳ | ۲  | ضروریات دین کے منکر کا حکم               |
| ۲۸۱ | ۳  | ہندو مرد و عورت کنویں سے بھریں تو حکم    |
| ۳۹۰ | ۹  | کافر یا مرتد مرے تو رشتہ دار کیا کریں    |
| ۳۶۷ | ۱۱ | مرتد یا مرتدہ کا حکم                     |
| ۲۰۰ | ۱۱ | حربہ کتابیہ سے نکاح کا حکم               |
| ۲۸۲ | ۱۱ | دارالحرب میں حربہ سے زنا                 |
| ۶۹۱ | ۱۱ | قرآن کے ایک نقطے کے بھی منکر کا حکم      |
| ۲۶۱ | ۱۲ | زید قادیانی عورت مسلمان کا حکم           |
| ۲۶۳ | ۱۲ | عورت مرتدہ ہو تو حکم نکاح                |
| ۲۶۳ | ۱۲ | مرتدہ بعد اسلام نکاح پر مجبور کی جائے گی |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۴۰۳      | ۱۲  | عورت مرتدہ ہو کر مسلمان ہو تو بھی حلالہ ضروری              |
| مکمل جلد | ۱۳  | کتاب السیر اول   |
| مکمل جلد | ۱۵  | کتاب السیر دوم   |
| ۳۶۸      | ۱۷  | اہل حرب کا مال غیر معصوم ہے                                |
| ۳۶۹      | ۱۷  | حربی غیر مستامن کا مال دارالسلام میں بھی غیر محفوظ ہے      |
| ۱۹۲      | ۱۸  | جہاں کافروں کا غلبہ ہو وہاں مسلمانوں کا قاضی بنانا واجب ہے |
| ۵۳۶      | ۱۸  | احکام کفر کا غلبہ نہ ہو تو بلاد اسلام ہے                   |
| ۴۳۷      | ۱۹  | علمائے دین کی تحقیر کے احکام                               |
| ۴۹۹      | ۱۹  | دیوبندی کافر مکران کی ہر بات غلط نہیں                      |
| ۳۹۳۵۱۰۱  | ۲۱  | سیر کے تفصیلی مسائل  |

## سیرت:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۱۳ | ۷  | نماز کسوف میں جنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نظر آئی    |
| ۴۷۷ | ۸  | جمعہ کے خطبہ میں بارش کی دعا کا واقعہ                                   |
| ۵۲۲ | ۸  | سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ۹ سال عید کی نمازیں پڑھی ہیں |
| ۵۲۳ | ۸  | خطبہ عید بعد سلام کچھ دیر بعد سنت صحابہ ہے                              |
| ۱۱۵ | ۹  | رئیس المنافقین کو قیص دینے کی وجہ                                       |
| ۱۱۶ | ۹  | سرکار ﷺ سوال رد نہ فرماتے   |
| ۵۸۹ | ۹  | سرکار ﷺ ہر سال مزارات اُحد پر حاضر ہوتے                                 |
| ۹۱۲ | ۹  | مقبرہ بقیع میں سرکار ﷺ کی تشریف آوری                                    |
| ۸۰۶ | ۱۰ | حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرنے والے کو جواب دیتے ہیں                 |
| ۸۰۷ | ۱۰ | سرکار ﷺ کا علم بعد وفات بھی حیات جیسا ہے                                |
| ۶۰۷ | ۱۵ | سرکار ﷺ سب سے بڑھ کر مہربان   |



| صفحہ       | جلد | مناہجہ مسئلہ  |
|------------|-----|---|
| ۷۰۱        | ۱۵  | مرض وصال میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت                          |
| ۷۰۱        | ۱۵  | مدینہ منورہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف آوری کا منظر          |
| ۱۰۱        | ۲۱  | رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجرم کو اپنے ساتھ کھانا کھلایا           |
| ۴۰۲        | ۲۱  | حضور ﷺ نے اپنے بال بلور تبرک خود تقسیم کئے                                      |
| ۶۲۹        | ۲۱  | حضور ﷺ کی عادت دسترخوان پر کھانا کھانے کی تھی                                   |
| ۶۵۲        | ۲۱  | کھانے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت                             |
| ۶۷۰        | ۲۱  | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر کھانوں کی کیفیت                |
| ۶۰۲        | ۲۱  | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک                                 |
| ۷۵۳        | ۲۳  | حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں پیر کو ہوئی              |
| ۴۶۳        | ۲۳  | کرم خداوندی دیکھ کر سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ پر خٹک فرمایا |
| ۳۷۷        | ۲۳  | حضور ﷺ کا ساکن اور نالش کے ساتھ رویہ مبارک                                      |
| ۶۹۶        | ۲۳  | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء طیبہ                                 |
| ۷۰۲        | ۲۳  | حضور ﷺ کے مالک ہونے پر زیور سے استدلال  |
| ۴۰۵        | ۲۶  | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت و وصال کی تحقیق ائینق          |
| ۳۶۵        | ۲۸  | سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء کی تعداد                      |
| ۳۶۶        | ۲۸  | سورۃ فاتحہ میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مدح                    |
| ۳۶۶        | ۲۸  | انبیاء کے سردار سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں                           |
| ۷۷۰ تا ۱۲۶ | ۳۰  | سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تفصیلی بیان                        |
| ۱۲۹        | ۳۰  | حضور ﷺ سب رسولوں سے افضل  |
| ۱۹۳        | ۳۰  | حضور ﷺ سر اپانور ہیں  |
| ۳۵۹        | ۳۰  | حضور ﷺ مشکل کشا ہیں   |
| ۵۰۰        | ۳۰  | حضور ﷺ مالک احکام شرع ہیں   |

| صفحہ          | جلد | عنوان مسئلہ           |
|---------------|-----|-----------------------|
| ۶۵۷           | ۳۰  | حضور ﷺ نور ہیں        |
| ۷۳۷، ۷۱۵، ۶۹۵ | ۳۰  | حضور ﷺ کا سایہ نہ تھا |

## ﴿ش﴾

### شبینہ:

|     |   |                            |
|-----|---|----------------------------|
| ۴۷۲ | ۷ | شبینہ مکروہ ہے             |
| ۴۷۵ | ۷ | شبینہ کا ایک سوال اور جواب |

### شراب / شرابی:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۱۶ | ۲  | بڑی مونچھوں والے شرابی کے جھوٹے کا حکم               |
| ۱۰۴ | ۳  | شراب، شریب و شروب میں فرق                            |
| ۴۳۵ | ۵  | جس مکان میں شراب پی جائے اس میں نماز کا حکم          |
| ۲۳۷ | ۱۴ | شرابی جنت میں نہ جائے گا                             |
| ۴۸۶ | ۱۴ | شراب پینا گناہ کبیرہ ہے                              |
| ۶۱۱ | ۱۴ | شرابی کی اخروی سزا                                   |
| ۴۱۳ | ۱۴ | شرابی کو مبارک باد دینا                              |
| ۵۴۸ | ۱۴ | شراب پینے کا حکم                                     |
| ۴۳۷ | ۱۶ | اسپرٹ شراب ہے  |
| ۵۰۱ | ۱۹ | شراب کے لئے مکان کرایہ پر دینے کا حکم                |
| ۳۶۱ | ۲۱ | شراب کی حرمت کی ابتداء کی تفصیل                      |
| ۶۰۶ | ۲۲ | شراب نشوں میں بدتر ہے                                |
| ۵۵۵ | ۲۳ | شراب فروشی سے تائب ہونے والا حاصل شدہ مال کا کیا کرے |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                        |
|------|-----|------------------------------------|
| ۱۹۳  | ۲۳  | شراب بطور علاج کا حکم              |
| ۲۰۱  | ۲۳  | اسپرٹ شراب ہے                      |
| ۲۰۸  | ۲۳  | شراب بدن پر ملنا بھی حرام ہے       |
| ۱۰۱  | ۲۵  | شراب حرام و ناپاک ہے               |
| ۱۰۱  | ۲۵  | حرمت شراب کی احادیث                |
| ۱۰۲  | ۲۵  | شرابی کا عذاب                      |
| ۱۰۳  | ۲۵  | خوف خدا سے شراب چھوڑنے کا ثواب     |
| ۱۰۶  | ۲۵  | شراب کا حرام ہر ناکس پر موقوف ہے   |
| ۲۰۷  | ۲۵  | شراب کی حرمت کا منکر کافر ہے       |
| ۲۱۳  | ۲۵  | نشہ بذاتہ حرام ہے                  |
| ۲۰۲  | ۲۵  | انگلی شریعتوں میں شراب حرام نہ تھی |
| ۹۳   | ۲۹  | خاوند کے شراب کا وبال اس پر ہے     |

### شرب / اشربہ:

|         |   |                                       |
|---------|---|---------------------------------------|
| ۴۷۸     | ۲ | کنوئیں کا پانی ملک خدا ہے             |
| ۴۸۱     | ۲ | بارش کا پانی خود برتن میں بھرے تو حکم |
| ۵۱۳     | ۲ | کنوئیں کا پانی کس کا                  |
| ۵۲۵     | ۲ | تابلغ کے بھرے پانی کی صورتیں          |
| ۵۲۶     | ۲ | تابلغ کے بھرے پانی کی آٹھ صورتیں      |
| ۵۲۸     | ۲ | تابلغ کے بھرے پانی کی سات صورتیں      |
| ۵۲۹     | ۲ | بوہرے کا بھر پانی                     |
| ۵۳۱ ۵۳۰ | ۲ | تابلغ کے بھرے پانی کا مسئلہ           |
| ۵۳۲     | ۲ | کنوئیں کا پانی مباح                   |

| صفحہ      | جلد | عنوان مسئلہ                                  |
|-----------|-----|--|
| ۵۳۳       | ۲   | غلام و کنیز کے بھرے پانی کا حکم              |
| ۵۳۹ ، ۵۳۳ | ۲   | بالغ کے بھرے پانی میں نابالغ کا پانی مل جائے |
| ۶۷۳۵۶۰۷   | ۲۱  | شراب و طعام کا مکمل بیان                     |
| ۲۱۶۷۷۷    | ۲۵  | کتاب الاثریۃ                                 |

شرکت:

|        |    |  |
|--------|----|--|
| ۵۱۲    | ۲  | ترکہ میں بھائیوں نے مل کر کام کیا تو حکم       |
| ۵۱۳    | ۲  | مباح چیز مشترکہ ہو تو حکم                      |
| ۵۱۳    | ۲  | مباح لکڑی کا مالک کون                          |
| ۵۱۹    | ۲  | سفر و حضر میں دو اشخاص مال ملا لیں تو حکم      |
| ۱۰۶    | ۱۰ | نیک کام میں شراکت کا ثواب سب کو ہوگا           |
| ۲۱۶    | ۱۲ | بصورت شرکت ہبہ قرض وغیرہ کا حکم                |
| ۲۱۶    | ۱۶ | شرکت عنان، مفاوضہ کا حکم                       |
| ۱۱۰۷۸۹ | ۱۶ | باب الشركة                                     |
| ۵۷۱    | ۱۶ | شریک کے مال مشترک میں تصرف کی حد               |
| ۳۷۱    | ۱۷ | بطور شرکت شرعاً میں نفع و نقصان میں شرکت ضروری |
| ۱۶۰    | ۱۸ | شرکت ملک کی تعریف                              |
| ۲۷۰    | ۱۸ | شرکت کا علم شریک ہونے کو مستلزم نہیں           |
| ۵۱۶    | ۱۹ | مشترک جائداد کے منافع کا سوال                  |
| ۶۷۱    | ۱۹ | ورثاء کی شرکت کا حکم                           |
| ۳۷۲    | ۲۰ | مال شرکت سے قربانی میں اجازت شرکاء کی تفصیل    |
| ۳۷۳    | ۲۰ | مسئلہ شرکت کی تفصیل                            |
| ۳۸۷    | ۲۵ | بکرنے اپنے لئے مکان خرید تو دوسروں کا حق نہیں  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

شرط:

|     |    |                                 |
|-----|----|---------------------------------|
| ۵۰۶ | ۲  | بہ اور صدقہ میں شرط قاسد کا حکم |
| ۱۰۸ | ۱۰ | اجرت میں شرط قاسد کی ایک صورت   |
| ۲۱۵ | ۱۳ | خلاف شریعت شرط باطل ہے          |
| ۳۳۳ | ۱۸ | نکاح میں پھرنے کی شرط کا حکم    |

شکار:

|     |    |                               |
|-----|----|-------------------------------|
| ۴۷۹ | ۲  | جس کا جال ہو شکار اسی کا ہوگا |
| ۵۱۳ | ۲  | جس نے پکڑا شکار اسی کا ہوگا   |
| ۵۱۰ | ۱۳ | شکار میں کتے سے استعانت       |
| ۵۱۰ | ۱۳ | کتا شکار سے ماشہ بھرنے کا حکم |

شعر:

|            |    |   |
|------------|----|---|
| ۳۰۷        | ۱۵ | کفری مضمون کا شعر                                     |
| ۳۰۷        | ۱۵ | موافق شرع شعر   |
| ۳۰۸        | ۱۵ | ایک شعر کی تشریح                                      |
| ۳۰۴ تا ۳۰۲ | ۱۵ | چند غلط اشعار   |
| ۳۳۳        | ۲۱ | حضرت جلال الدین علیہ الرحمہ کے اشعار                  |
| ۳۳۵        | ۲۱ | شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام (اشعار)               |
| ۳۳۶        | ۲۱ | حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام (اشعار)         |
| ۳۳۶        | ۲۱ | حضرت خواجہ شمس الدین حافظ علیہ الرحمہ کا کلام (اشعار) |
| ۳۳۶        | ۲۱ | حضرت مولانا نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام (اشعار)      |
| ۳۵۰        | ۲۱ | نقش نعل رسول کی برکت میں اشعار (قصیدہ)                |

| صفحہ  | جلد | عنوان مسئلہ  |
|-------|-----|--|
| ۳۹۶   | ۲۲  | ایک قطب کے گرد طواف پر مولانا روم علیہ الرحمۃ کے اشعار                               |
| ۳۶۹   | ۲۳  | شعرا چھا بھی ہے اور برابر بھی  |
| ۱۲۷   | ۲۶  | سماع کے حوالے سے ایک شعر اور اس کا جواب  |
| ۵۸۳   | ۲۶  | پیر کے بارے میں شیخ عطار علیہ الرحمۃ کے اشعار  |
| ۵۹۵   | ۲۸  | تصوف سے متعلق چند اشعار کی تشریح   |
| ۳۹۶   | ۲۸  | حضرت علامہ مفتی نقی علی خان علیہ الرحمۃ کی تعریف میں عربی اشعار                      |
| ۳۹۶   | ۲۸  | حضرت مولانا شاہ رضا علی نقشبندی علیہ الرحمۃ کی تعریف میں عربی اشعار                  |
| ۶۱۳   | ۲۸  | حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اشعار |
| ۶۶۵   | ۲۹  | اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کے عربی اشعار   |
| ۶۶    | ۲۹  | کچھ اشعار اور ان کے مطالب  |
| ۸۳۵۸۳ | ۳۰  | ایک شعر کا مطلب  |
| ۲۵۷   | ۳۰  | حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ہاتھِ نبی کے اشعار                        |
| ۳۰۱   | ۳۰  | حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اشعار  |
| ۶۲۲   | ۳۰  | قصیدہ بردہ کے چند اشعار کی شرح   |

## شعار:

|        |    |                                    |
|--------|----|------------------------------------|
| ۶۲۲    | ۸  | اہل باطل کا شعار کب تک قابل اعتراض |
| ۵۵۱۵۲۹ | ۲۳ | شعار کفار اور اس کے احکام          |

## شفاعت:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۹۲ | ۹  | ہر شفاعت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت میں |
| ۲۵۷ | ۲۲ | شفاعت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ                   |

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                       |
|------------|-----|-----------------------------------|
| ۴۰۷        | ۲۳  | شقاقت حسنا اور شقاقت سیئہ سے مراد |
| ۶۱۰ تا ۵۷۱ | ۲۹  | شقاقت کے باب میں مستقل رسالہ      |
| ۶۵۴        | ۲۹  | حضور کے شافع ہونے کا ثبوت قرآن سے |
| ۲۱۸        | ۳۰  | شقاقت کی احادیث                   |

شفعہ:

|           |    |   |
|-----------|----|---|
| ۱۸۹       | ۱۰ | ثبوت شفعہ کے بعد اس کے استقاط کا حیلہ           |
| ۱۹۱       | ۱۷ | خریدار سے انکار کے بعد حق شفعہ نہیں             |
| ۳۶۰       | ۱۸ | شفعہ میں ذرا سی تاخیر بھی شفعہ کو باطل کر دے گی |
| ۵۶۶، ۲۰۰  | ۱۸ | شفعہ کے ایک معاملہ کا سوال                      |
| ۷۱۱       | ۱۸ | شفعہ کے ایک معاملہ کا سوال                      |
| ۱۷۳ تا ۹۵ | ۲۰ | باب الشفعہ                                      |

شہادۃ / گواہی:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۸۴۵ | ۱  | صرف پاجامہ پہن کر راستے پر چلنے والا مرد و شہادۃ ہے |
| ۸۰  | ۱۰ | زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر والا مرد و شہادۃ ہے      |
| ۴۰۹ | ۱۰ | شہادۃ علی الشہادۃ کا طریقہ                          |
| ۴۱۴ | ۱۰ | شہادۃ علی القضاء کا طریقہ                           |
| ۵۷۴ | ۱۰ | قول شہادت کے لئے ایک زائد شرط                       |
| ۵۷۶ | ۱۰ | قواعد عقلیہ شہادۃ کی رد میں معتبر نہیں              |
| ۶۰۸ | ۱۰ | ہلال کے بارے میں تار کی گواہی کا حکم                |
| ۶۰۹ | ۱۰ | تار اہلیت شہادۃ نہیں رکھتا                          |
| ۶۱۳ | ۱۰ | حج میں رد شہادات کی وجہ                             |



| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ  |
|--------|-----|--|
| ۱۳۸    | ۱۱  | نکاح میں شاہدوں کا الفاظ کے معانی سمجھنا ضروری نہیں ہے   |
| ۲۰۲    | ۱۱  | جھوٹی گواہی کی سزا                                       |
| ۲۱۶    | ۱۱  | صرف عورتوں کی شہادۃ سے نکاح نہیں                         |
| ۲۳۲    | ۱۱  | شہادت اقرار کی حیثیت                                     |
| ۳۶۸    | ۱۱  | شیعہ سنی کی شہادت میں اہل شہادت کا قول                   |
| ۱۹۳    | ۱۲  | نفی پر شہادت کا حکم                                      |
| ۲۳۰    | ۱۲  | فرع کی اصل کے لئے اور اصل کی فرع کے لئے گواہی معتبر نہیں |
| ۲۳۲    | ۱۲  | ثبوت طلاق میں دو گواہ کافی                               |
| ۲۳۲    | ۱۲  | بھائی کی گواہی بہن کے حق میں                             |
| ۶۵۵    | ۱۲  | گواہ شرعی نہ ہوں تو طلاق کا حکم                          |
| ۶۱۵    | ۱۳  | شہادۃ زناء کے الفاظ                                      |
| ۵۸۳    | ۱۳  | شہادۃ جھوٹی حرام   |
| ۱۳۹    | ۱۵  | جھوٹی شہادۃ فسق  |
| ۵۹۳    | ۱۶  | شہادۃ عادلہ رضاعت میں ضروری ہے                           |
| ۳۲۳    | ۱۶  | آدمی کے مردود الشہادۃ ہونے کی صورتیں                     |
| ۶۷۶    | ۱۷  | شہادۃ اور دعویٰ میں مطابقت ضروری                         |
| ۱۳۷۵۹۳ | ۱۸  | باب الشہادۃ  |
| ۲۹۳    | ۱۸  | تحلیف کی ایک صورت  |
| ۳۶۲    | ۱۸  | خدا کی قسم سچ کہوں گا کا حکم                             |
| ۶۷۷    | ۱۸  | قسم اور مقسم میں سکوت سے فاصلہ ہو تو حکم                 |
| ۱۰۳    | ۱۸  | گواہ کے لئے نماز باجماعت کا پابند ہونا ضروری             |
| ۶۱۵    | ۱۹  | عورت معتوہ کی شہادت کا حکم                               |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۱۳۰  | ۲۰  | شفیع کو طلب اشہاد کے وقت علم ہوا تو طلب موافقت کے لئے یہی کافی |
| ۱۵۳  | ۲۰  | شفیع کے گواہوں پر تنقید  |
| ۱۴۹  | ۲۱  | قاسم کی شہادت جب کہ وہ نائب ہو جائے                            |
| ۱۸۳  | ۲۱  | مقدوف فی القذف کی گواہی  |
| ۵۹۷  | ۲۲  | عجی کے منڈانے والے کی گواہی کا حکم                             |
| ۳۲۶  | ۲۳  | ثبوت زنا کیلئے گواہوں کا معیار                                 |
| ۸۸   | ۲۳  | برائیکمیل تماشہ کرنے والے کی شہادت مردود                       |
| ۳۲۲  | ۲۳  | محدوف فی القذف کی شہادت  |
| ۳۸۷  | ۲۳  | زنا کی تہمت لگانے والے کی شہادت                                |
| ۵۵۹  | ۲۳  | تصویر دار کپڑا فروش کی شہادت بھی مردود ہے                      |
| ۶۵۱  | ۲۵  | گواہی ہر حال میں ثقہ لوگوں کی مستحب ہے                         |
| ۱۴۷  | ۲۶  | زنا کی تہمت لگانے والا مردود و اشہادہ ہے                       |
| ۵۸۷  | ۲۶  | تارک جماعت قاسم مردود و اشہادہ ہے                              |

شہد:

|     |    |                   |
|-----|----|-------------------|
| ۶۶۶ | ۲۱ | شہدات اٹارنا جائز |
|-----|----|-------------------|

شہر:

|     |    |                         |
|-----|----|-------------------------|
| ۳۵۲ | ۲۰ | شہر کی تعریف کامل       |
| ۳۷۹ | ۲۰ | فتائے مصر (شہر) کا بیان |

شہنشاہ:

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| ۳۹۳۷۳۳۹ | ۲۱ | سرکار کو شہنشاہ کہنا جائز |
|---------|----|---------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

شہید:

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| ۲۶۸ | ۳  | شہید کا خون کب پاک ہے        |
| ۵۱۸ | ۷  | شہداء بئر معونہ کا سازشی کون |
| ۲۰۵ | ۱۱ | شہید کون ہے                  |

شیطان:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۰۵ | ۴  | شیطان کا دھوکہ                           |
| ۱۰۹ | ۱۱ | شیطان کا حیلہ حسنت سے                    |
| ۴۷۵ | ۱۱ | شیطان جھوٹا ہے                           |
| ۲۱۳ | ۲۲ | شیطان بے حیا کا استاذ ہے                 |
| ۵۱۹ | ۲۲ | ابلیس سجدہ آدم سے کیوں باز رہا           |
| ۵۷۹ | ۲۳ | حسد کا شیطان ہے                          |
| ۱۵۰ | ۲۵ | حضرت نوح علیہ السلام اور شیطان کا منازعہ |



صابن:

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| ۵۷۲ | ۳ | صابنوں کا حکم |
|-----|---|---------------|

صبح صادق و کاذب:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۵۶۷ | ۱۰ | صبح صادق و کاذب کے احکام میں مستقل رسالہ |
|-----|----|--|

صحابہ:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۵۸۲ | ۵ | صحابہ کی مشاجرت میں بعد والوں کے لئے حکم |
|-----|---|--|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

صدقہ:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۷۹۶      | ۱  | صدقہ فطر کی مقدار                                 |
| ۹۳۲      | ۱  | محتاج عزیزوں کو چھوڑ کر غیروں کو صدقہ دینے کا حکم |
| ۱۰۸      | ۱۰ | صدقہ بے قبضہ تمام نہیں                            |
| ۶۴۹      | ۹  | میت کے لئے صدقہ سات دن تک                         |
| ۱۰۹      | ۱۰ | صدقہ بے قبضہ تمام نہیں                            |
| ۲۹۱، ۲۵۲ | ۱۰ | صدقہ فطر کی کچھ تفصیل                             |
| ۲۹۷، ۲۹۴ | ۱۰ | صدقہ فطر کی مزید تفصیل                            |
| ۵۹۶      | ۱۳ | اہل و عیال اولاد پر خرچ صدقہ ہے                   |
| ۲۶۵      | ۱۹ | غنی کے لئے صدقہ کار ثواب ہے                       |
| ۳۶۶      | ۲۰ | صدقہ فطر کا نصاب                                  |
| ۵۴۲      | ۲۰ | صدقہ فطر میں تملیک ضروری                          |
| ۵۴۳      | ۲۰ | صدقہ کے اطلاقات کا بیان                           |
| ۳۰۵      | ۲۰ | صدقہ کے جانور کو بلا ذبح معارف دینے کی وضاحت      |
| ۳۰۶      | ۲۰ | صدقہ واجبہ کی تفصیل                               |
| ۱۰۵      | ۲۱ | مال حرام سے صدقہ قابل قبول نہیں                   |
| ۱۱۰      | ۲۱ | مال حرام سے صدقہ کر کے امید ثواب رکھنا کفر ہے     |
| ۱۱۲      | ۲۳ | مال حرام کے صدقہ کا حکم                           |
| ۱۶۰، ۱۳۵ | ۲۳ | مسلمانوں کا مشترکہ طور پر صدقہ کرنے کی ایک صورت   |
| ۵۴۹      | ۲۳ | صدقہ واپس نہیں لیا جاتا                           |
| ۱۸۵      | ۲۴ | صدقہ کے فضائل                                     |
| ۳۷۹      | ۲۴ | صاحب نصاب صدقات واجبہ لے                          |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                        |
|------|-----|------------------------------------|
| ۳۵۵  | ۲۶  | غریب کی اعانت صرف اپنے مال سے جائز |

صرف:

|         |    |             |
|---------|----|-------------|
| ۶۳۸۵۶۰۱ | ۱۷ | صرف کا بیان |
|---------|----|-------------|

صریح و بائن:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۴۲۵ | ۱۲ | صریح غیر صریح سے الحاق               |
| ۴۲۷ | ۱۲ | صریح کا بائن سے الحاق                |
| ۴۵۱ | ۱۲ | صریح میں نیت کی ضرورت نہیں           |
| ۶۱۱ | ۱۲ | رجعی + بائن = بائن                   |
| ۶۲۸ | ۱۲ | بائن + رجعی = بائن                   |
| ۶۳۳ | ۱۲ | بائن، بائن کو لاحق نہیں ہوتی ہے      |
| ۱۰۶ | ۱۳ | عدت میں صریح کا الحاق صریح و بائن سے |
| ۲۷۱ | ۱۳ | بائن بائن کو لاحق نہیں ہوتی          |

صلح:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۱۳۲     | ۱۱ | صلح اقرب کا حکم  |
| ۱۷۸     | ۱۱ | صلح کا مسئلہ   |
| ۲۱۷     | ۱۲ | جہالت مفصی الی المنازعة نہ ہو تو جواز صلح سے مانع نہیں |
| ۴۲۳     | ۱۳ | کون سی صلح جائز  |
| ۱۲۸۵۱۱۹ | ۱۹ | صلح کا مکمل بیان                                       |
| ۲۸۳     | ۲۰ | گوشت خریداری غلط شرط پر صلح ناجائز                     |
| ۲۳۲     | ۲۶ | صلح کی ایک صورت  |

صلوٰۃ و سلام: دیکھئے درود پاک

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## صوفیاء:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۵۹ | ۵  | صوفیاء کا چلہ                              |
| ۵۶۲ | ۵  | صوفیاء اور صدقہ                            |
| ۵۵۹ | ۲۲ | صوفیاء سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف جھکنے والے |

## صدیق:

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| ۵۱۰     | ۱۳ | شکار میں کتے سے استعانت کا حکم |
| ۳۵۱۵۳۳۱ | ۲۰ | کتاب البصیر                    |

## ﴿ض﴾

## ضحوہ کبریٰ:

|     |   |                            |
|-----|---|----------------------------|
| ۳۱۳ | ۵ | ضحوہ کبریٰ نکالنے کا طریقہ |
|-----|---|----------------------------|

## ضروریات دین:

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| ۲۲۲       | ۱  | ضروریات دین کا معنی                            |
| ۲۹۳       | ۲  | ضروریات دین سے کسی ایک شے کے منکر کا حکم       |
| ۱۰۱       | ۵  | ضروریات دین کے علاوہ کسی شے کا انکار کفر نہیں  |
| ۹۴۲       | ۹  | ضروریات دین کے علاوہ کسی شے کا انکار کفر نہیں  |
| ۳۷۸       | ۱۱ | ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ جانا بھی کفر ہے |
| ۲۹۱       | ۱۲ | ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ جانا بھی کفر ہے |
| ۳۰۷       | ۱۲ | نکاح طائی کی اباحت ضروریات دین سے ہے           |
| ۲۶۶ ، ۱۲۳ | ۱۳ | ضروریات دین کا منکر اور اس کا حکم              |
| ۱۷۶       | ۲۱ | ضروریات دین کے منکر کا حکم                     |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ              |
|------|-----|--------------------------|
| ۷۳   | ۲۶  | شیعہ ضروریات دین کے منکر |

## ضمان:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۴۸۳ | ۱۳ | بوجہ نافرمانی عورت، شوہر نے نوکر رکھا تو تاوان کس پر  |
| ۴۸۳ | ۱۳ | عورت اعزہ کی شادی میں خرچ کرے تو حکم                  |
| ۶۳۶ | ۱۳ | نماز نہ پڑھنے پر مارا گھڑی ٹوٹ گئی ضمان واجب          |
| ۱۵۵ | ۱۶ | مال وقف کو حرام امور میں صرف کرنے پر ضمان ہے          |
| ۴۶۹ | ۱۶ | مسجد کی آمدن دوسرے امور میں صرف کرنے پر ضمان ہے       |
| ۵۷۰ | ۱۶ | متولی کی احتیاط کے باوجود مال چوری ہو تو ضمان نہیں ہے |
| ۵۷۲ | ۱۶ | مسجد کی رقم اپنے صرفہ میں لانے پر ضمان ہے             |
| ۹۳  | ۱۷ | امین پر بلا تعدی و تقصیر فی الحفظ ضمان نہیں           |
| ۳۷۸ | ۱۸ | مرتبہن سے تاوان لینے کی ایک صورت                      |
| ۱۵۴ | ۱۹ | امین ضامن نہیں جبکہ غاصب نے زبردستی چھینا             |
| ۶۸۹ | ۱۹ | شرکت کی شے استعمال سے ضائع ہو تو ضمان کس پر           |
| ۶۹۲ | ۱۹ | عامۃ الورود مثلاً سرائے سے سامان گم ہو تو ضمان کس پر  |
| ۱۷۳ | ۲۰ | مسجد کی زائد قیمت خرچ کرنے پر متولی پر تاوان ہے       |
| ۱۷۹ | ۲۰ | کاشتکار کے حق استقرار کے تاوان کا سوال                |
| ۱۹۸ | ۲۰ | شرکاء کی مرضی کے خلاف کاشت پر نقصان پہنچے تو تاوان دے |
| ۱۱۳ | ۲۱ | مال غیر کھانے کے بعد جب تک تاوان نہ دے تو توبہ کا حکم |
| ۱۰۱ | ۲۳ | کسی کا گھڑا توڑنے پر ضمان ہے                          |
| ۵۵۸ | ۲۳ | تاوان کا روپیہ جمع کرنے کا حکم                        |
| ۳۴۸ | ۲۵ | مال مشترک سے جہیز میں تعدی پر ضمان                    |
| ۴۹۷ | ۲۵ | مال مشترک سے بے اجازت صرف پر ضمان                     |



| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۶۳۹  | ۲۵  | در شکان متعلق ہونے کے بعد ترک کی خیرات پر تاوان ہوگا |
| ۸۲   | ۲۶  | بلا اجازت ترک کو خرچ کرنے پر تاوان ہے                |



طب:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۷۰۰ | ۲۳ | تبض کے اختلاف کی وجہ                        |
| ۲۵۵ | ۲۳ | بزرگم اطباء سوات بیماریاں متعدد ہیں         |
| ۲۷۵ | ۲۶ | آلے کے ذریعے بچے کے مذکورہ مونت ہونے کا علم |

طبیعیات:

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| ۲۳۸ ، ۲۳۵ | ۳ | پانی کا رنگ                              |
| ۲۳۹       | ۳ | دریا سفید کیوں                           |
| ۲۴۰       | ۳ | اوس، برف اور آئینہ میں درز کی سفیدی کیوں |
| ۲۴۱       | ۳ | رگتیں تاریکی میں موجود                   |
| ۵۸۰       | ۳ | احتراق کی ۶ صورتیں                       |
| ۶۰۱       | ۳ | انطباع کی حقیقت                          |
| ۶۰۳       | ۳ | پتھر کس طرح بنتا ہے                      |
| ۶۰۴       | ۴ | انطراق کے معنی                           |
| ۶۰۵       | ۳ | لین و ذوبان کی اقسام                     |
| ۶۰۶       | ۳ | تار کے مفرق ہونے کا سبب                  |
| ۶۱۰       | ۳ | معدنیات کی ۶ اقسام                       |

| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ                              |
|--------|-----|--|
| ۶۱۲    | ۳   | چاروں عناصر میں تبدیلی کی ۱۲ صورتیں      |
| ۶۲۳    | ۳   | گندھک نر ہے اور پارہ مادہ                |
| ۱۳۷    | ۵   | کرہ بخار کی بلندی کرہ زمین سے            |
| ۵۰۳    | ۱۰  | حلق میں دھواں کی تلخی کیوں معلوم ہوتی ہے |
| ۶۲۰    | ۱۰  | بخارات کی بلندی کرہ زمین سے              |
| ۶۲۱    | ۱۰  | مکانیات اور زمانیات کا قرب               |
| ۱۲۳    | ۲۳  | نفس کی عادت                              |
| ۱۲۳    | ۲۳  | بندگان نفس کی نظر کی حالت                |
| ۱۲۳    | ۲۳  | منع اجلب للشوق ہے                        |
| ۳۱۸    | ۲۳  | صحت قطعاً مؤثر ہے                        |
| ۱۰۲۵۹۳ | ۲۷  | چند طبعیاتی تحقیقات                      |

## طریقہ:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۲۶ | ۱  | بڑے استنجاء کا مسنون طریقہ                       |
| ۸۳۸ | ۱  | مسواک کے امتحان کا طریقہ                         |
| ۱۲۸ | ۱۰ | طریقہ ادائیگی زکوٰۃ چند سال                      |
| ۴۰۴ | ۱۱ | طریقہ وہابیت کو پرکھنے کا                        |
| ۱۱۸ | ۱۶ | حرام کی کمائی کو مصارف خیر میں خرچ کرنے کا طریقہ |
| ۲۲۴ | ۲۲ | مشت زنی کے گناہ سے بچنے کا طریقہ                 |
| ۱۵۵ | ۲۳ | بغرض حصول شفا متفرق اشیاء کو جمع کرنے کے طریقہ   |
| ۵۴۲ | ۲۳ | سود خوری سے توبہ کا طریقہ                        |

| صفحہ | ردیف | عنوان مسئلہ                        |
|------|------|------------------------------------|
| ۵۵۱  | ۲۳   | حرام مال سے سبکدوشی کا طریقہ       |
| ۶۵۱  | ۲۳   | جنوں کو لارانی کے مختلف طریقے      |
| ۳۶   | ۲۷   | اضرار وصیت کے چند طریقے            |
| ۵۵۶  | ۲۹   | اولیاء کو عدا کرنے کا طریقہ متواتر |
| ۶۳۱  | ۲۹   | بد شکونی میں ہندوانہ طریقہ         |

## طلاق:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۲۷۱ | ۱  | اقرار طلاق سے رجوع کی ایک صورت       |
| ۱۳۷ | ۳  | چار بیویوں میں طلاق کا مسئلہ         |
| ۱۱۹ | ۴  | طلاق کے اقرار کا مسئلہ               |
| ۱۲۳ | ۱۱ | طلاق کے مجموعے اقرار کا حکم          |
| ۱۲۳ | ۱۱ | طلاق ایک دی، اقرار تین کا کیا تو حکم |
| ۱۲۸ | ۱۱ | بے نیت انت طالق کہا تو حکم           |
| ۱۳۵ | ۱۱ | تو میری بی بی نہیں کا حکم            |
| ۱۶۳ | ۱۱ | جس سے نکاح کروں اسے طلاق کا حکم      |
| ۲۱۳ | ۱۱ | طلاق کی شرط پر نکاح کا حکم           |
| ۲۲۸ | ۱۱ | طلاق نشہ میں                         |
| ۲۲۹ | ۱۱ | طلاق                                 |
| ۲۲۹ | ۱۱ | مذاق، دل لگی میں طلاق                |
| ۲۲۹ | ۱۱ | غیر زبان میں طلاق                    |
| ۲۸۹ | ۱۱ | ایک لفظ سے ۳ طلاق کا حکم             |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۳۱۳     | ۱۱  | طلاق دینا چاروں ہے مگر                               |
| ۳۱۷     | ۱۱  | سالی سے زنا سے عورت کو طلاق نہ ہوگی                  |
| ۵۰۵     | ۱۱  | غصہ میں طلاق   |
| ۶۶۰     | ۱۱  | تابالغی کا نكاح اور طلاق                             |
| ۱۲۲     | ۱۲  | طلاق کا ایک مسد                                      |
| ۵۱۱۷۳۲۱ | ۱۲  | تاب الطلاق   |
| ۲۵۳۷۱۰۱ | ۱۳  | باب تعلیق الطلاق                                     |
| ۱۹۲     | ۱۳  | تین طلاق کے بعد رجوع نہیں                            |
| ۲۲۶     | ۱۳  | تفصیل مسئلہ طلاق ثلاثہ                               |
| ۵۶۲     | ۱۳  | تین طلاقیں بیک وقت گناہ کیوں                         |
| ۱۵۴     | ۱۵  | تین طلاق کے بعد حلالہ ضروری                          |
| ۶۲۶     | ۱۶  | طلاق کے محض اقرار سے طلاق نہیں ہوتی                  |
| ۳۰۳     | ۱۷  | بے نماز عورت کو طلاق کا حکم                          |
| ۱۱۴     | ۱۸  | طلاق میں سنی سنائی گواہی مقبول نہیں                  |
| ۶۵۷     | ۱۸  | غصہ کی طلاق کی و باء عام ہے                          |
| ۱۱۱     | ۱۸  | طلاق کے متعدد گواہوں کا بیان                         |
| ۱۲۷     | ۱۸  | واقعہ طلاق ہوگئی عورت گواہی سے ثابت نہ کر سکی تو حکم |
| ۱۲۸     | ۱۸  | طلاق میں صرف عورت کی گواہی کا حکم                    |
| ۱۲۹     | ۱۸  | طلاق میں صرف ایک گواہ ہو تو حکم                      |
| ۲۳۵     | ۱۸  | طلاق کے لئے نصاب شہادت                               |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                               |
|---------|-----|---|
| ۶۷۳     | ۱۸  | ”تو میری عورت نہیں“ قسم کھا کر کہا تو حکم |
| ۶۳۳     | ۱۹  | جنون کی طلاق کا حکم                       |
| ۶۳۸     | ۱۹  | طلاق صبی کا حکم                           |
| ۶۸۱     | ۲۱  | طلاق بلا نکاح نہیں                        |
| ۱۹۵۵۱۸۳ | ۲۳  | طلاق کے کچھ مسائل                         |
| ۲۱۰     | ۲۶  | خلوت سے پہلے طلاق کا حکم                  |
| ۳۵۶     | ۲۶  | بے ثبوت شرعی طلاق نہیں مانی جاسکتی        |

## طواف:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۸۲ | ۲۲ | طواف قبر کا حکم  |
| ۳۸۶ | ۲۲ | طواف کا معنی   |
| ۳۸۷ | ۲۲ | طواف کی اقسام اور بعد اور احکام  |
| ۳۹۳ | ۲۲ | طواف کی دو اقسام   |
| ۳۹۵ | ۲۲ | حجاج کا طوافِ روضہ سرکار کرنے پر لوگوں کو غلیظ لفظ کہنا اور اسکی تکفیر |
| ۳۹۸ | ۲۲ | طوافِ قبر اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ                      |
| ۳۹۹ | ۲۲ | طوافِ قبر میں خلاصہ کلام   |
| ۲۰۵ | ۲۹ | طوافِ قبر کا حکم   |
| ۳۳۳ | ۲۹ | طوافِ تعظیسی صرف کعبہ کا ہے  |

## طہارت:

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| محل | ۱ | کتاب الطہارت |
|-----|---|--------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--------------|
| مکمل | ۲   | کتاب الطہارت |
| مکمل | ۲   | کتاب الطہارت |
| مکمل | ۲   | کتاب الطہارت |



## ظروف:

|         |    |                       |
|---------|----|-----------------------|
| ۱۵۳۵۱۱۱ | ۲۲ | ظروف کا بیان          |
| ۱۱۶     | ۲۳ | مشرکین کے ظروف کا حکم |

## ظلم:

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| ۳۳۹۵۳۳۷ | ۲۳ | ظلم و ایذائے مسلم کا بیان |
|---------|----|---------------------------|

## ظہار:

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| ۵۸۳     | ۱۲ | بیوی کو بہن کہنا                |
| ۶۰۸     | ۱۲ | تو ہماری بہن ہو چکی کا حکم      |
| ۲۹۰۵۲۶۷ | ۱۳ | ظہار کا مکمل بیان               |
| ۳۱۲     | ۱۷ | عورت کا ماں بیٹی کہنا ظہار نہیں |

## ظہر:

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| ۳۲۷ | ۳ | ظہر کی سنتیں     |
| ۱۵۳ | ۵ | ظہر کا مستحب وقت |
| ۳۲۳ | ۵ | سنن ظہر          |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|



عاق :

|    |    |                                   |
|----|----|-----------------------------------|
| ۸۵ | ۲۶ | عاق کرنے سے ترکہ سے محروم نہ ہوگا |
|----|----|-----------------------------------|

عاریہ :

|            |    |   |
|------------|----|---|
| ۱۵۹        | ۱۲ | شوہر کے دیئے زیور میں تملیک نہ ہو تو حکم        |
| ۲۰۸        | ۱۲ | عاریہ اشیاء ہلاک ہوں تو حکم                     |
| ۲۲۸        | ۱۲ | عاریت امانت ہے                                  |
| ۲۲۷        | ۱۶ | ایک مسجد کی چیز دوسری مسجد کو عاریہ دینا منع ہے |
| ۱۷۸        | ۱۸ | عاریت چیز خرچ کی یا تلف کی تو تاوان ہے          |
| ۱۱۱        | ۱۹ | عاریت کا حکم                                    |
| ۱۷۳ تا ۱۷۲ | ۱۹ | باب العاریہ                                     |
| ۲۹۹        | ۲۵ | مرتنہ نے عاریہ مکان لیا تو اس کا حکم            |
| ۶۳۳        | ۲۵ | زیور عاریہ لینے والا مرجائے تو حکم              |

عبث :

دیکھئے لہو و لعب :

عناق / عتق :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۳۲ | ۳  | ام ولد مالک کے مرتے ہی آزاد                   |
| ۵۰۰ | ۱۰ | غلام و کنیز کے لئے کن احکام میں اطاعت ہوتی ہے |
| ۷۷۶ | ۱۰ | مکاتب، مدبر اور ام الولد کی تعریفات           |
| ۶۳۱ | ۱۲ | غلام کو آقا کا اختیار کہ خود کو آزاد کرے      |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ               |
|------|-----|---------------------------|
| ۲۳۵  | ۱۳  | ہذا حر و هذا و هذا کا حکم |

عدت:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۲۶۶     | ۱۱ | دورانِ عدت نکاح کا حکم                              |
| ۲۶۹     | ۱۱ | عورت پر عدت روزِ طلاق سے ہے                         |
| ۲۵۵     | ۱۱ | عدت میں نکاح  |
| ۲۶۵     | ۱۲ | کافر کی عدت   |
| ۳۰۸     | ۱۲ | عدت و وفات  |
| ۳۲۸     | ۱۲ | عدت حاملہ   |
| ۳۰۸     | ۱۲ | عدت مطلقہ حائضہ                                     |
| ۳۰۸     | ۱۲ | عدت مطلقہ صغیرہ                                     |
| ۳۰۸     | ۱۲ | عدت آنسہ مطلقہ                                      |
| ۳۰۸     | ۱۲ | عدت مطلقہ حاملہ                                     |
| ۶۵۱     | ۱۲ | عدت ذات الحیض                                       |
| ۲۶۵     | ۱۲ | کافر کے لئے عدت نہیں                                |
| ۶۱۸     | ۱۲ | ذات الحیض کی عدت ہر صورت میں تین حیض                |
| ۳۲۳۶۲۹۱ | ۱۳ | باب العدة   |
| ۲۸۳     | ۲۳ | عدت کے ختم ہونے کے بعد بیوہ کے لئے نٹھ پہننے کا حکم |

عرس:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۴۱۹ | ۹ | عرس کرانا جائز  |
| ۴۲۵ | ۹ | عرس کا حکم  |
| ۵۸۸ | ۹ | بزرگانِ دین کے عرس کے بارے میں شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ کا فتویٰ |

| صفحہ | ردیف | عنوان مسئلہ                                       |
|------|------|---|
| ۱۱۳  | ۲۳   | عرس میں ڈھول کے ساتھ قوالی کا حکم                 |
| ۲۸۹  | ۲۶   | عرس میں معمولات نذر و نیاز کے جاری رکھنے کی تفصیل |
| ۲۱۲  | ۲۹   | عرس کے جواز پر گفتگو                              |
| ۹۲   | ۲۹   | عرسوں پر بعض خرافات جاہلوں کی ایجادات ہیں         |

## عرف:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۷۷ | ۱۱ | کیا عرف قانون شرع پر مرعج ہے                    |
| ۱۳۲ | ۱۲ | عرف کی قانون شرع پر ترجیح کا حکم                |
| ۲۲۹ | ۱۲ | عرف غالب محترم ہوتا ہے                          |
| ۱۵۱ | ۱۳ | عرف ہی یمین کی بناء ہے                          |
| ۳۲۳ | ۱۳ | مہر مجکل میں عرف کا اعتبار ہے                   |
| ۵۵۰ | ۱۴ | عرف سے مصالحہ بدل جاتے ہیں                      |
| ۹۱  | ۱۶ | عرف اعظم دلائل شرعیہ سے ہے                      |
| ۲۲۹ | ۱۶ | تختواہوں کی مقدار کا مدار عرف پر ہے             |
| ۸۲  | ۱۷ | احکام عرف میں خلاف کے احتمالات عقلیہ محترم نہیں |
| ۳۳۹ | ۱۹ | معاملات میں مدار عرف پر ہے                      |
| ۵۹۹ | ۱۹ | عرف حجت تام ہے                                  |
| ۵۹۷ | ۱۹ | عرف کی چار اقسام                                |
| ۳۵۳ | ۲۰ | عرفی اجازت کی مختلف صورتیں                      |
| ۳۶۶ | ۲۲ | تعظیم و توہین کا مدار عرف پر ہے                 |
| ۱۳۹ | ۲۵ | دلہن کا چڑھاوا شادی میں عرف و رواج پر موقوف ہے  |
| ۳۳۸ | ۲۶ | عرف یہ ہے کہ جہیز کی مالک عورت ہے               |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

عرفہ:

|    |   |             |
|----|---|-------------|
| ۶۱ | ۲ | عرفہ کا غسل |
|----|---|-------------|

عروض و قوافی:

|       |    |                      |
|-------|----|----------------------|
| ۵۷۷۳۷ | ۲۹ | عروض و قوافی کا بیان |
|-------|----|----------------------|

عشر:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۳  | ۱۰ | عشر کا ثبوت                                 |
| ۲۰۳ | ۱۰ | عشر، غلے میں                                |
| ۲۱۳ | ۱۰ | تفصیلی احکام کہ ہندوستان کی زمینیں عشری ہیں |
| ۲۱۶ | ۱۰ | عشر کس پر ہے                                |

عقائد:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۷۱۵ | ۱ | مسلمان کہلانے والے دس مرتد فرقوں کا بیان    |
| ۲۲۲ | ۳ | جہنم میں روشنی نہیں                         |
| ۲۰۳ | ۳ | حیات انبیاء کا بیان                         |
| ۲۷  | ۲ | سرکار کا مسلمانوں کی جانوں پر اختیار        |
| ۶۷  | ۵ | کتاب اللہ کا حفظ خاصہ انبیاء تھا            |
| ۸۳  | ۵ | ایمان کے بعد پہلی شرط نماز                  |
| ۹۷  | ۵ | شیخ عبداللہ کے خواب پر فتویٰ کے رد کی تصدیق |
| ۱۰۱ | ۵ | خلافت خلفاء راشدین کا منکر کا فر نہیں ہے    |
| ۱۰۲ | ۵ | تارک نماز کا حکم                            |
| ۱۰۶ | ۵ | تارک نماز کے اسلام پر دلائل                 |
| ۱۱۰ | ۵ | ایک وقت کی نماز قصد اقصا کرنے والا فاسق ہے  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۲۵۶  | ۵   | سرکار ﷺ دین میں خطا سے مصوم ہیں   |
| ۵۸۱  | ۵   | مسئلہ افضلیت باب عقائد سے ہے  |
| ۵۹۶  | ۵   | وہابیہ کے ایک گید پر آگاہی  |
| ۶۰۳  | ۵   | لطیفہ جلیلہ کہ جان وہابیت پر لاکھ من کا پہاڑ                                |
| ۲۲۱  | ۶   | سرکار ﷺ کا نام سن کر روو پڑھنا واجب ہے                                      |
| ۳۲۲  | ۶   | تجوید سے انکار کفر ہے   |
| ۳۷۹  | ۶   | ہمارے بلاد کے غیر مقلدین کا حکم   |
| ۵۲۷  | ۶   | صلح کلی کارو  |
| ۵۷۳  | ۶   | دیوبندیوں کے پیچھے نماز باطل ہے   |
| ۶۲۵  | ۶   | بد مذہبوں سے میل جول فسق ہے   |
| ۶۵۶  | ۶   | غیر مقلدین کے چند عقائد   |
| ۶۸۰  | ۶   | غیر مقلدین قاسق معطن ہیں  |
| ۷۲۰  | ۶   | بد مذہبوں سے محبت زہر قاتل ہے   |
| ۵۰۳  | ۷   | اہل سنت سب مسائل میں حق پر ہیں  |
| ۵۸۲  | ۷   | جن باتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں وہ ممنوع نہیں                          |
| ۵۸۳  | ۷   | محبوبان خدا سے تو سل  |
| ۵۹۳  | ۷   | محبوبان خدا کی تعظیم  |
| ۵۹۷  | ۷   | تواضع لغیر اللہ ممنوع کی وضاحت  |
| ۶۰۰  | ۷   | حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا رنگ سرکار کا ذکر سن کے بدل جانا               |
| ۶۰۱  | ۷   | سرکار ﷺ کی بارگاہ میں حاضری کے آداب   |
| ۶۰۲  | ۷   | بوقت تو سل منہ محبوبان خدا کی طرف ہو  |
| ۶۰۵  | ۷   | حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی امام عظیم علیہ الرحمہ کے مزار پر حاضری تو سل |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۲۰۶  | ۷   | سوال حاجت سے پہلے دو رکعت کی تقدیم کا حکم       |
| ۲۰۷  | ۷   | محبوبانِ خدا کی طرف جانے کا حکم                 |
| ۷۴   | ۸   | ختم نبوت کا انکار کفر ہے                        |
| ۱۶۳  | ۸   | نماز، روزہ چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا        |
| ۳۲۰  | ۸   | میلا دکا اجتماع بدعت حسنہ ہے                    |
| ۳۶۶  | ۸   | قادیانیوں کی نماز باطل ہے                       |
| ۳۸۵  | ۸   | مسلمانوں کو بلا وجہ مشرک کہنا حرام ہے           |
| ۶۲۰  | ۸   | بہت سی بدعات جائز ہیں                           |
| ۱۱۸  | ۹   | سرکار کی رداء، ناخن مبارک وغیرہ کی تعظیم فرض ہے |
| ۱۳۴  | ۹   | وجود شے کی چار صورتیں                           |
| ۱۷۰  | ۹   | عیسائی کی نماز جنازہ پڑھنے والے کا حکم          |
| ۱۷۲  | ۹   | راضی کی نماز جنازہ حرام                         |
| ۲۷۰  | ۹   | سرکار ﷺ اپنی قبر میں پہلے دن کی طرح ہیں         |
| ۲۹۴  | ۹   | سرکار ﷺ مالک شفاعت ہیں                          |
| ۳۳۱  | ۹   | محبوبانِ خدا کو قبور میں روزی دی جاتی ہے        |
| ۳۳۱  | ۹   | مسلمان کی عزت مردہ زندہ حالت میں برابر ہے       |
| ۳۹۱  | ۹   | اہل اللہ کی تعظیم ایمان کی دلیل ہے              |
| ۵۱۷  | ۹   | حضور ﷺ کا ادب آج بھی ظاہری حیات کی طرح ہے       |
| ۵۲۱  | ۹   | روح اور قبور کی تعظیم میں فرق نہیں              |
| ۶۸۴  | ۹   | کفار اور مرتد کو ایصالِ ثواب حرام ہے            |
| ۶۵۲  | ۹   | مسلمانوں اور شہیدوں کی روئیں کہاں ہیں           |
| ۶۵۸  | ۹   | عذاب و ثواب روح و جسم دونوں کو ہے               |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۶۸۰  | ۹   | ساعت اہل قبور مجال نہیں                              |
| ۶۸۳  | ۹   | ہر قسط بات شرک نہیں                                  |
| ۶۹۱  | ۹   | غیر خدا کو نافع و ضار ماننا کب شرک ہے                |
| ۶۹۶  | ۹   | جو بات زعمہ کے ساتھ شرک نہیں، اموات کے ساتھ بھی نہیں |
| ۷۱۰  | ۹   | مردہ اہل خانہ کے احوال کو جانتا ہے                   |
| ۷۲۳  | ۹   | ساعت موتی کی چھ حد ہیں                               |
| ۷۶۰  | ۹   | اموات کی قوت سامعہ کا بیان                           |
| ۷۹۱  | ۹   | یا شیخ عبدالقادر جیلانی کہنا جائز ہے                 |
| ۸۱۳  | ۹   | اولیاء مشکل کشا ہوتے ہیں                             |
| ۸۵۰  | ۹   | اہل سنت کے نزدیک جسم شرط حیات نہیں                   |
| ۸۷۳  | ۹   | اموات کی باہم ملاقات و گفتگو کا ثبوت                 |
| ۸۸۱  | ۹   | روح میت نہیں   |
| ۸۸۹  | ۹   | روح کی تعریف   |
| ۸۹۳  | ۹   | کیا کافر مجاہد سے سوال قبر ہوگا                      |
| ۹۰۹  | ۹   | روح مردہ نہیں  |
| ۹۱۷  | ۹   | اہل سنت کے نزدیک تلقین امر شرعی ہے                   |
| ۹۳۳  | ۹   | غیب پر رحماً بالغیب ضلالت ہے                         |
| ۹۴۰  | ۹   | عقائد میں چار چیزوں کا اتباع ہے                      |
| ۹۴۲  | ۹   | جب تک ضروریات دین میں سے کسی کا انکار نہ ہو کفر نہیں |
| ۱۰۵  | ۱۰  | سرکار ﷺ کی ایک نگاہ لطف کا مرتبہ                     |
| ۱۹۳  | ۱۰  | یزید پر لعن کا حکم                                   |
| ۲۰۱  | ۱۰  | شان امیر معاویہ رضی اللہ عنہ                         |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                                       |
|----------|-----|---|
| ۶۸۳      | ۱۰  | ہجرت کا صحیح مفہوم                                |
| ۷۶۳      | ۱۰  | انبیاء کو موت صرف ایک لمحہ کے لئے آتی ہے          |
| ۷۷۶      | ۱۰  | ایمان کے سوا عبادات کا کفار پر حکم                |
| ۸۰۷      | ۱۰  | نبی زندہ ہوتے ہیں                                 |
| ۳۳۵      | ۱۱  | عقائد روافض                                       |
| ۳۷۷      | ۱۱  | عقائد کفریہ                                       |
| ۱۵۳      | ۱۱  | قبل نکاح کفر کیا ہے تو بہ نکاح ہوا تو حکم         |
| ۱۷۱      | ۱۱  | رضا بالکفر بھی کفر ہے                             |
| ۲۰۷      | ۱۱  | تعظیماً جمع کا صیغہ خدا کے لئے بولنا جائز         |
| ۲۲۰      | ۱۱  | وہابیہ کی تعظیم کرنے کی سزا                       |
| ۲۳۱      | ۱۱  | ارتکاب حرام سے کافر نہ ہوگا                       |
| ۲۶۶      | ۱۱  | دوران عدت نکاح کو حلال جاننے والا کافر            |
| ۲۸۱      | ۱۱  | غیر مقلدین کا رد                                  |
| ۳۲۸      | ۱۱  | روافض کے عقائد کفریہ                              |
| ۳۳۵      | ۱۱  | رافضیوں کی اقسام                                  |
| ۳۷۴      | ۱۱  | غیر مقلد سے نکاح کا حکم اگرچہ عقائد کفریہ نہ رکھے |
| ۳۷۷      | ۱۱  | عقائد کفریہ کی مثالیں                             |
| ۳۸۰، ۳۷۹ | ۱۱  | جو مسلمان کو کافر سمجھے خود کافر ہے               |
| ۳۸۲      | ۱۱  | احتیاط کہ جو مانع تکفیر وہ مانع نکاح              |
| ۳۹۱      | ۱۱  | بد مذہب کی محبت                                   |
| ۳۹۶      | ۱۱  | بد مذہب کی تعظیم کی وعید                          |
| ۴۰۰      | ۱۱  | بد مذہب کسے کہتے ہیں                              |



| صفحہ                         | جلد    | عنوان مسئلہ  |
|------------------------------|--------|--|
| ۴۱۶                          | ۱۱     | حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کافرا کا فرعون ہے   |
| ۷۳۰، ۷۱۶، ۶۹۱، ۵۰۸، ۴۸۰، ۴۷۹ | جلد ۱۱ | فرقہ ظاہریہ کے احکام                                   |
| ۶۸۵                          | ۲۳     | اہلسنت وجماعت کے عقائد                                 |
| ۶۸۵                          | ۲۳     | شیعوں کے عقائد   |
| ۹۱                           | ۲۹     | عقائد کے متعلق سوالات و جوابات                         |
| ۲۰۳                          | ۲۹     | سرکارِ محمدیؐ کو عالم الغیب و حاضر و ناظر ماننے کا حکم |
| ۴۰۸۵۳۳۹                      | ۲۹     | اہل سنت کے دس بچے عقائد کا بیان                        |
| ۴۸۲۵۴۱۱                      | ۲۹     | رسالہ خالص الاعتقاد                                    |
| ۱۹۳                          | ۳۰     | حضور ﷺ نور ہیں   |
| ۳۵۹                          | ۳۰     | حضور ﷺ مشکل کشا حاجت روا ہیں                           |
| ۶۵۷                          | ۳۰     | حضور ﷺ نور ہیں   |
| ۷۳۷، ۷۱۵، ۶۹۵                | ۳۰     | حضور ﷺ کا سایہ زندہ تھا                                |

## حقیقہ:

|         |    |                |
|---------|----|----------------|
| ۵۹۷۵۵۸۱ | ۲۰ | حقیقہ کا بیان  |
| ۴۵۲     | ۲۴ | حقیقہ کس دن ہو |

## علاج:

|      |   |                               |
|------|---|-------------------------------|
| ۱۰۴۲ | ۱ | دفع و سواس کا علاج            |
| ۱۱۱۳ | ۱ | آسیب زدہ بچوں کا علاج         |
| ۶۶   | ۲ | گناہوں کا علاج                |
| ۶۰۰  | ۳ | پچھو کی خاک سے علاج ناجائز ہے |
| ۵۴۲  | ۴ | (ٹھڑ سے) علاج کا حکم          |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۵۲۲     | ۵   | علاج درد گردہ  |
| ۸۸      | ۷   | علاج کثرت نیند                                       |
| ۳۳۹     | ۱۳  | علاج عروبت   |
| ۳۲۶     | ۱۴  | علاج وسوسہ   |
| ۳۲۷     | ۲۳  | حرام چیز سے علاج کا حکم                              |
| ۳۰۹۵۱۷۷ | ۲۴  | بیماریاں اور علاج معالجہ                             |
| ۳۸۸     | ۲۵  | شوہر نے از خود زوجہ کے علاج کیلئے مال خرچ کیا تو حکم |
| ۲۱۳     | ۲۵  | نشہ آور شے سے علاج کا حکم                            |
| ۲۰۵     | ۲۵  | دوا میں شراب کا استعمال جائز نہیں                    |
| ۳۱۳     | ۲۹  | استعمال دوا سنت ہے                                   |

## علم / علماء / تعلیم

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۱۰۹۴    | ۱  | تعلیم کی نیت سے آیت کا کوئی کلمہ جنبی یا حائضہ نہ پڑھے |
| ۶۰۱     | ۱  | اختلاف علماء سے بچنا مستحب ہے مگر.....                 |
| ۱۲۸     | ۲۱ | علماء کی توہین کی وعید کی احادیث                       |
| ۲۵۳     | ۲۱ | علماء نائب رسول ﷺ ہیں                                  |
| ۳۸۰     | ۲۳ | علماء کی نقدی کی صورت میں خدمت                         |
| ۷۲۰۵۶۲۳ | ۲۳ | علم و تعلیم کے تفصیلی مسائل                            |
| ۳۶۶     | ۲۳ | سرکار ﷺ کا علم غیب اور صحابی کا عقیدہ                  |
| ۱۷۱     | ۲۳ | علماء انبیاء علیہم السلام کے ورثاء ہیں                 |
| ۲۱۶     | ۲۵ | علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ ہے                       |
| ۵۰۲     | ۲۶ | زمانے کے لحاظ سے کتب دیدیہ کی ترتیب                    |

| صفحہ  | جلد | عنوان مسئلہ  |
|-------|-----|--|
| ۲۳    | ۲۷  | کتاب کس دن شروع کی جائے                                |
| ۱۳۰   | ۲۷  | اہل علم کو اپنا علم کب ظاہر کرنا چاہیے                 |
| ۲۵۳   | ۲۸  | بادشاہوں کے افعال پر علمائے حق کی خاموشی بوجہ دفعِ قتل |
| ۶۳۷۵۹ | ۲۹  | علم و تعلیم سے متعلق 5 سوالات اور جوابات               |
| ۲۷۰   | ۲۹  | علم کے اسباب تین ہیں                                   |

عمامة:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۰۳ | ۶  | عمامة باندھ کر نماز پڑھنے کی فضیلت            |
| ۲۰۸ | ۶  | عمامة کی فضیلت میں 200 احادیث                 |
| ۶۳۱ | ۶  | مقتدی صاحب العمامہ اور امام ثوبی میں ہوتو حکم |
| ۳۹۳ | ۷  | امام صاحب العمامہ، مقتدی بلا عمامہ تو حکم     |
| ۶۰۳ | ۱۰ | کلاہ پوس کے پیچھے عمامہ بند کی نماز کا حکم    |
| ۳۱۳ | ۱۲ | عمامة کا شملہ سنت مگر.....                    |
| ۱۸۲ | ۲۲ | عمامة کا شملہ کہاں تک مستون                   |
| ۱۸۶ | ۲۲ | عمامة کی سنت مقدار                            |
| ۱۹۸ | ۲۲ | عمامة باندھنے کا سنت طریقہ                    |
| ۱۹۹ | ۲۲ | دو شملے سنت ہیں                               |
| ۶۰۳ | ۲۲ | عمامة کے شملہ کا حکم                          |
| ۱۸۲ | ۲۲ | شملہ کی اقسام                                 |

عمرہ:

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| ۱۲۲ | ۲۳ | دوسرے کی طرف سے عمرے کا حکم |
|-----|----|-----------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

عملیات: دیکھئے ورد:  
عنین:

|     |    |                                       |
|-----|----|---------------------------------------|
| ۱۹۵ | ۱۱ | عنین کے نکاح کا حکم                   |
| ۱۹۶ | ۱۱ | عنین اور اس کی زوجہ میں تفریق کی صورت |
| ۶۱۱ | ۱۱ | عنین سے تفریق                         |
| ۲۸۷ | ۱۲ | تفصیل مسئلہ عنین                      |
| ۲۹۵ | ۱۲ | نامرد کا نکاح صحیح                    |
| ۲۹۷ | ۱۲ | مسئلہ تفریق عنین کی تفصیل             |
| ۵۰۸ | ۱۲ | مسئلہ عنین دیگر                       |
| ۵۰۸ | ۱۲ | ثبوت نامردی کے بعد سال بھر کی مدت     |
| ۳۳۸ | ۱۳ | عنین کی زن کا حکم                     |

عورت:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۲۷۰ | ۱ | عورت کے بدن پر مہندی کا جرم ہو تو وضو         |
| ۱۲۹ | ۱ | عورت کے لئے جمعہ، عید اور وعظ میں جانے کا حکم |
| ۲۶۶ | ۲ | عورت کی طہارت سے بچے پانی کا حکم مرد کے لئے   |
| ۵۲۲ | ۳ | عورت کا کفن اس کے شوہر پر واجب ہے             |
| ۳۵۱ | ۴ | عورت بحالت حیض مراقبہ کر سکتی ہے              |
| ۳۵۳ | ۴ | عورت کے پیٹ دوران پر فراغت کا حکم             |
| ۳۵۶ | ۴ | عورت نفاس سے آٹھ دن میں فارغ ہو تو حکم        |
| ۳۳۸ | ۵ | عورت نفاس سے آٹھ دن میں فارغ ہو تو حکم        |
| ۲۹  | ۶ | مرد کے اعضاء عورت کی تفصیل                    |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۱۴۴  | ۶   | نماز میں عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں                       |
| ۵۸۴  | ۶   | عورت کا تانہ وقت کس پر ہے                                  |
| ۶۰۴  | ۶   | بد زبان عورت کو طلاق واجب نہیں                             |
| ۶۰۹  | ۶   | عورت کے افعال بد کے سبب مرد پر الزام نہیں جبکہ منع کرتا ہو |
| ۲۰۷  | ۷   | عورتیں قہر دے سکتی ہیں یا نہیں                             |
| ۲۳۱  | ۷   | مسجد کی چھت عورتوں کے لئے مخصوص ہو تو حکم                  |
| ۲۹۸  | ۷   | عورتوں کا بوڑا باندھ کر نماز پڑھنا                         |
| ۱۲۰  | ۹   | ورد زہ میں عورت کا علاج قرآن سے                            |
| ۱۳۸  | ۹   | عورت کے جنازے کو مرد کندھا دے سکتا ہے                      |
| ۱۳۹  | ۹   | مردہ عورت کو شوہر ہاتھ نہیں لگا سکتا                       |
| ۵۳۶  | ۹   | عورتوں کی حاضری حشرات پر منع ہے                            |
| ۵۴۱  | ۹   | عورتوں کی قبر پر حاضری کی ممانعت پر رسالہ                  |
| ۹۰۵  | ۹   | مردہ عورت کو نکلی منع ہے                                   |
| ۱۳۲  | ۱۰  | صاحب نصاب عورت کی زکوٰۃ کس پر                              |
| ۱۴۳  | ۱۰  | عورتوں کا مہر مانع زکوٰۃ نہیں                              |
| ۱۵۳  | ۱۰  | عورت اگر تین سال تک زیورات کی زکوٰۃ نہ دے تو حکم           |
| ۱۶۸  | ۱۰  | عورت کے شوہر کو قرض دینے کا حکم                            |
| ۱۶۹  | ۱۰  | عورت پر مہر کی زکوٰۃ کب ہے                                 |
| ۲۸۱  | ۱۰  | روزہ کی حالت میں عورت کا اپنی شرمگاہ میں دو اڈالنے کا حکم  |
| ۲۹۴  | ۱۰  | عورت مجرد ایجاب سے کسی کی زوجہ نہیں بنتی                   |
| ۵۵۱  | ۱۰  | روزہ کی حالت میں عورت کی شرمگاہ دیکھنا مکروہ ہے            |
| ۱۱۲  | ۱۱  | مجلس نکاح میں باپردہ عورت کی طرف اشارہ کافی ہے             |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۱۱۷      | ۱۱  | عورت قابل جماع نہ ہو تو نکاح کا حکم                |
| ۱۷۰      | ۱۱  | عورت کے پردے میں رہنے سے مجلس نہیں بدلتی           |
| ۲۱۶      | ۱۱  | صرف عورتوں کی شہادت سے نکاح نہیں                   |
| ۲۹۹      | ۱۱  | عورتوں پر تنگی کرنا منع ہے                         |
| ۳۱۳      | ۱۱  | عورت بے اذن شوہر گھر سے نکلے تو حکم                |
| ۳۹۳      | ۱۱  | شوہر عورت پر حاکم                                  |
| ۶۲۹      | ۱۱  | عورتوں کے کچھ حقوق                                 |
| ۲۶۳      | ۱۲  | عورت کفر کرے تو حکم                                |
| ۲۷۰      | ۱۲  | عورت پر تنگی منع ہے                                |
| ۲۹۶      | ۱۲  | عورتیں میزبھی پسلی سے                              |
| ۲۹۵      | ۱۲  | عورتوں کی عادت کی چند احادیث                       |
| ۲۹۳      | ۱۳  | عورت کے آثارِ بلوغ                                 |
| ۴۱۹      | ۱۳  | عورت اپنے والدین کی طرف بے اذن زوج جاسکتی ہے       |
| ۴۴۶      | ۱۳  | عورتوں کے حقوق                                     |
| ۴۵۴      | ۱۳  | عورت والدین کی زیارت کو کب جائے                    |
| ۴۷۴      | ۱۳  | عورت کا شوہر زندہ طلاق نہیں ہوئی نکاح حرام اور زنا |
| ۴۷۸      | ۱۳  | عورت والدین کی زیارت کو کب جائے                    |
| ۴۸۷      | ۱۳  | عورت کو نماز، روزہ سے روکنے کا حکم                 |
| ۵۵۱      | ۱۴  | عورتوں کے لئے حضور جماعت                           |
| ۳۱۰      | ۱۶  | ایک عورت بلی کو قید کرنے کی وجہ سے جہنم میں گئی    |
| ۱۶۵، ۱۴۰ | ۱۸  | صرف عورتوں کی گواہی نکاح میں ناکافی                |
| ۲۳۳      | ۱۸  | تہا عورتوں کی گواہی سے طلاق ثابت نہ ہوگی           |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۶۱۳  | ۱۸  | عورت کو بے پردہ قصداً یکنافسق ہے                   |
| ۶۵۷  | ۱۸  | عورتوں کو طلاق سخت ناگزیر ہے                       |
| ۲۲۳  | ۲۰  | کتابی عورت کا بھی ذبیحہ طلال ہے                    |
| ۲۵۱  | ۲۰  | عورت کے ذبیحہ کی تفصیل                             |
| ۶۰۰  | ۲۱  | عورت کے رحم کی تفصیل                               |
| ۶۰۱  | ۲۱  | مردانہ وضع بنانے والی عورت پر لعنت                 |
| ۶۲۳  | ۲۱  | عورتوں کی مزارات پر حاضری                          |
| ۲۲۳  | ۲۱  | عورت مرتدہ ہو جائے تو نکاح سے خارج نہیں ہوتی       |
| ۱۱۵  | ۲۲  | عورتوں کے لئے کالج کی چیزوں کا حکم                 |
| ۱۲۶  | ۲۲  | عورتوں کے لئے سونے چاندی کے زیور کا حکم            |
| ۱۲۷  | ۲۲  | عورت کا زیور پہن کر نماز پڑھنا                     |
| ۱۲۸  | ۲۲  | عورت کا بے زیور نماز پڑھنا                         |
| ۱۳۰  | ۲۲  | عورت کے لئے ناک کا پھول پہننے کی تفصیل             |
| ۱۵۳  | ۲۲  | عورت کے لئے لوہا، تانبا، پتھر کے چھلے کا حکم       |
| ۲۰۷  | ۲۲  | عورت کب بغیر اذن شوہر عارف کامل سے بیعت کر سکتی ہے |
| ۲۱۲  | ۲۲  | عورت کی فطرت                                       |
| ۲۱۷  | ۲۲  | عورت جو شوہر کو ناراض کرے، کے لئے وعید             |
| ۲۲۸  | ۲۲  | عورتوں کا غیر محرموں کے ساتھ سفر کرنا              |
| ۲۵۰  | ۲۲  | غیر محرم سے عورت کو پردہ واجب ہے                   |
| ۲۰۹  | ۲۲  | عورتوں کے لئے سلام و جواب کے الفاظ                 |
| ۲۳۸  | ۲۲  | عورت کا شوہر پر اور شوہر کا عورت پر حق             |
| ۶۰۲  | ۲۲  | عورتوں کے ختنہ کا حکم                              |



| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۶۵۷      | ۲۲  | سرمنڈوانا عورت کے حق میں منع ہے                          |
| ۶۵۷      | ۲۲  | عورت کے لئے احرام سے نکلنے میں قصر ہے                    |
| ۶۸۸      | ۲۲  | عورت کو سر کے بال تراشنا حرام                            |
| ۲۲۳      | ۲۲  | عورت کو اذان دینا جائز نہیں ہے                           |
| ۲۳۲      | ۲۲  | عورت کو اس کا شوہر بعد وفات دیکھ سکتا ہے                 |
| ۲۳۵      | ۲۲  | عورت اپنے مردہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے                    |
| ۲۳۹      | ۲۲  | عورت کے لئے مسجد میں جانے کی شرائط                       |
| ۲۳۵، ۲۳۰ | ۲۲  | عورتوں کے بل کر میلاد شریف پڑھنے کی شرائط                |
| ۲۳۹      | ۲۲  | عورتوں کا بلا پردہ پیر کے پاس جانے کا حکم                |
| ۱۰۶      | ۲۳  | عورت کا بلا اذن شوہر حج کے لئے جانے کا حکم               |
| ۱۱۱      | ۲۳  | عورتوں کی مزارات پر حاضری منع ہے سوائے حضور ﷺ کے مزار کے |
| ۳۹۸      | ۲۳  | عورتوں کو کالج کی بوتلوں سے تشبیہ دینے کی وجہ            |
| ۱۹۴      | ۲۳  | عورتوں کا آپس میں مشروط ہنسی مذاق جائز                   |
| ۵۲۳      | ۲۳  | عورت کو اپنے سر کے بال کترانا حرام ہے                    |
| ۶۵۶      | ۲۴  | ایک عورت بلی کو قید کرنے کے سبب جہنم میں گئی             |
| ۱۶۹      | ۲۶  | عورت کی تجھیز و تکفین شوہر کے ذمہ ہے                     |
| ۱۰۱      | ۲۷  | عورتوں میں غلبہ شہوت لیکن حیا کا پردہ                    |
| ۷۲       | ۳۰  | عورتوں کی مزارات پر حاضری                                |

عہد:

|     |    |                         |
|-----|----|-------------------------|
| ۶۱۲ | ۲۱ | خلاف عہد معیوب ہے       |
| ۶۹  | ۲۵ | وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## عیادت:

|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| عیادت مریض کے لئے تیمم تو ہے | ۳ | ۵۵۵ (۶۷) |
| عیادت مریض کے لئے تیمم تو ہے | ۳ | ۵۶۳، ۵۵۸ |

## عید گاہ:

|  |    |     |
|--|----|-----|
| ایک عید گاہ میں دو بار عید کی نماز     | ۸  | ۵۷۵ |
| خراجی زمین میں عید کا حکم              | ۸  | ۵۷۶ |
| عید گاہ کے لئے عمارت ضروری نہیں        | ۸  | ۵۸۰ |
| عید گاہ میں عید کی نماز سنت ہے         | ۸  | ۵۸۷ |
| ایک شہر کے لئے دو عید گاہ کا حکم       | ۸  | ۵۹۰ |
| عید گاہ کے احکام                       | ۸  | ۵۹۷ |
| دیہات میں عید گاہ کے لئے وقف جائز نہیں | ۱۶ | ۳۳۲ |

## عیدین:

|  |    |          |
|--|----|----------|
| عیدین کا غسل                                 | ۲  | ۶۱       |
| عیدین کی امامت                               | ۳  | ۳۶۲      |
| عیدین کی نماز                                | ۳  | ۳۵۹      |
| باوجود نہار کے نماز عیدین میں جہریوں         | ۷  | ۶۱۵      |
| باب العیدین                                  | ۸  | ۵۹۹، ۵۰۹ |
| نماز عید کے فوت کا خدشہ ہو تو تیمم کرے       | ۹  | ۳۳۳      |
| ہلال عید کی گواہی                            | ۱۰ | ۳۷۲      |
| عید کا چاند 30 رمضان کے دن کو نظر آئے تو حکم | ۱۰ | ۳۸۸      |
| عید الاضحیٰ کی روایت کا سوال                 | ۱۰ | ۳۳۳      |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|------|-----|--|
| ۴۱۴  | ۲۲  | عیدین کے بعد مصافحہ کا حکم                 |
| ۶۸۸  | ۲۳  | عیدین کے خطبہ کے ساتھ اردو میں ترجمہ پڑھنا |

عیسیٰ علیہ السلام:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۱۰۹ | ۲۹ | حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے والد کے متعلقہ موالات |
| ۵۴۷ | ۲۹ | حیات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال اور جواب       |



غبن:

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| ۲۹۷ | ۳ | غبن یسرو فاحش |
|-----|---|---------------|

غراب:

|        |    |                                   |
|--------|----|-----------------------------------|
| ۲۳۷۶۳۱ | ۲۷ | غراب (کوا) کی جلت پر گنگوہی کا رد |
|--------|----|-----------------------------------|

غروب:

|     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| ۱۴۰ | ۵ | غروب شمس کی تحقیق |
|-----|---|-------------------|

غسل:

|          |   |   |
|----------|---|---|
| ۸۹۸      | ۱ | غسل میں کان کی بالی کا حکم              |
| ۱۱۱۸۶۲۷۳ | ۱ | باب الغسل                               |
| ۴۵       | ۲ | میت کو نہلا کر غسل کرنا مستحب ہے        |
| ۹۵       | ۲ | بے غسل سینہ سے بھی مصحف نہ لگائے        |
| ۹۵       | ۲ | بے غسل اپنے بدن کی چادر سے مصحف نہ پکڑے |
| ۳۱۴      | ۲ | ہندو اسلام لائے تو غسل کرے              |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۲۵۲      | ۲   | زم زم سے غسل کا حکم                                |
| ۲۵۲      | ۲   | جب کے بچے پانی سے غسل کا حکم                       |
| ۳۰۹      | ۲   | عارضہ فیل پاؤں میں غسل کا حکم                      |
| ۲۹۵      | ۲   | غسل کی حاجت ہو تو پانی مسجد میں ہے تو کیا کرے      |
| ۵۱۳      | ۲   | سرد ہونا نقصان کرے تو غسل کرے لیکن سر کا مسح کر لے |
| ۵۶۱      | ۲   | غسل کا تیمم بیت وضو جائز                           |
| ۱۹۱      | ۲   | غسل میں ناخن بھر جگر رہ جائے تو حکم                |
| ۲۰۳، ۱۹۹ | ۲   | نہانے میں جگر رہ گئی اور پانی نہ رہا تو حکم        |
| ۲۶۲      | ۲   | غسل جنابت کا تیمم                                  |
| ۵۵۸      | ۲   | ناپاکی کا غسل تہیند میں ہو تو تہیند کا حکم         |
| ۳۲۳      | ۲   | چونا دانتوں سے چھڑائے بغیر غسل ہو گا یا نہیں       |
| ۱۹۶      | ۲   | ہر انزال میں پیشاب کے بعد نہانے                    |
| ۲۵۲      | ۲   | حیض، احتلام، جماع اور انزال جمع ہو تو ایک غسل کافی |
| ۳۲۵      | ۲   | کافر اسلام لائے تو غسل کرے                         |
| ۳۲۶      | ۲   | غسل خانہ میں ننگے نہانے کا حکم                     |
| ۲۵۲      | ۲   | غسل میت  |
| ۹۹۵، ۹۱  | ۹   | غسل میت کا بیان                                    |
| ۵۱۸      | ۹   | میت کو بیری کے پتوں سے ابلے پانی کا غسل            |
| ۲۵۷      | ۱۳  | غسل نذر سے لازم نہیں ہوتا                          |
| ۲۳۵      | ۲۲  | مرد اپنی مردہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا             |
| ۲۳۵      | ۲۲  | عورت اپنے مردہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے              |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## غصب:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۲۶     | ۲  | دوست کے مال پر تصرف کا حکم                 |
| ۵۳۱     | ۳  | تابالغ کی شے دوسری میں شامل ہو جائے تو حکم |
| ۵۴۰     | ۳  | مشلی اور قیمی کا معنی                      |
| ۹۱      | ۸  | مسجد پر ظلمنا قبضہ ہوا تو حکم              |
| ۳۷۹     | ۹  | بلا اجازت دوسرے کی اراضی میں دفن کا حکم    |
| ۳۸۲     | ۹  | منصوب زمین میں دفن                         |
| ۲۲۱     | ۱۲ | غاصب اگر منصوبہ شے کو ہبہ کر دے تو         |
| ۴۰۸     | ۱۶ | مسجد کی زمین غصب کرنا ظلم ہے               |
| ۵۶۹     | ۱۶ | مسجد کی رقم غصب کرنے والا غاصب ہے          |
| ۱۱۷     | ۱۷ | غصب کی ایک صورت اور اس کا حکم              |
| ۱۰۴     | ۱۷ | مروجہ کچھریوں کا نیلام غصب ہے              |
| ۶۹۴۵۶۳۳ | ۱۹ | باب الغصب                                  |
| ۱۸۹     | ۲۰ | دیہات مملوکہ کی زمین پر جبراً قبضہ ظلم     |
| ۲۹۰     | ۲۰ | غصب کے جانور کا حکم                        |
| ۴۴۶     | ۲۰ | غیر جانور اپنے تصرف میں رکھنا ظلم ہے       |
| ۳۷۱     | ۲۶ | بیوہ کا کل جائیداد پر قبضہ ظلم ہے          |
| ۳۷۳     | ۲۶ | غصب کے مال کے نفع کا شرعی حکم              |

## غیب کا علم:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۳۳ | ۲۷ | غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب ﷺ کو ہے |
| ۲۳۵ | ۲۹ | علم غیب سے متعلق آیت کا سوال                        |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                           |
|---------|-----|---------------------------------------|
| ۲۶۷     | ۲۹  | ایمان بالغیب کے متعلق ایک طویل سوال   |
| ۲۸۳     | ۲۹  | سرکار کے علم کی وسعت                  |
| ۳۲۲     | ۲۹  | غیب کا معنی اور انبیاء کے غیب کا ثبوت |
| ۵۲۸۵۳۳۳ | ۲۹  | مسئلہ علم غیب کا مکمل بیان            |
| ۲۵۰     | ۲۹  | آیت لا اعلم الغیب کی 3 تفسیریں        |
| ۳۳۰     | ۳۰  | مسئلہ علم غیب کا اجمالی بیان          |
| ۵۶۸     | ۳۰  | علم غیب کا ثبوت قرآن سے               |
| ۳۳۰     | ۳۰  | علم غیب کے مگر اس آیت سے سبق لیں      |

غیبت:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۷۲۰      | ۱  | غیبت کی برائی                             |
| ۳۱۹      | ۲  | غیبت حرام ہے                              |
| ۱۶۲      | ۲۱ | غیبت زنا سے بدتر ہے                       |
| ۱۶۳      | ۲۱ | غیبت زنا سے بدتر کب ہے                    |
| ۹۶       | ۲۳ | کون سی غیبت ممنوع اور کون سی غیر ممنوع ہے |
| ۳۶۲، ۳۵۸ | ۲۳ | غیبت زنا سے بدتر                          |

غیر مسلم:

|         |    |                              |
|---------|----|------------------------------|
| ۵۳۳۵۳۱۲ | ۱۳ | غیر مسلموں سے تعلقات کی حدود |
|---------|----|------------------------------|

﴿ ف ﴾

فاتحہ:

|         |   |                            |
|---------|---|----------------------------|
| ۶۲۸۵۳۲۱ | ۹ | فاتحہ و ایصال ثواب کا بیان |
|---------|---|----------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## فسق / فاسق :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۴۲۵ | ۳  | حج میں فاسق کی اقتداء کا حکم                        |
| ۴۷۶ | ۵  | فاسق کی اذان کا حکم                                 |
| ۴۲۴ | ۵  | فاسق مؤذن کی اذان کا حکم                            |
| ۴۲۳ | ۲  | جو وظیفہ پڑھے نماز نہ پڑھے فاسق ہے                  |
| ۴۷۹ | ۲  | فاسق کو امامت سے معزول کرنا واجب                    |
| ۵۲۳ | ۲  | بے نمازی فاسق ہے                                    |
| ۵۲۲ | ۲  | فاسق معلن کی امامت مکروہ                            |
| ۵۲۳ | ۲  | ڈاڑھی ترشوانا اور قصد ابلا عذر نماز قضا کرنا فسق ہے |
| ۵۲۶ | ۲  | سودی دستاویز لکھنے والا فاسق ہے                     |
| ۵۵۱ | ۲  | رشوت لینے والا فاسق ہے                              |
| ۵۵۷ | ۲  | فسق کی ایک صورت                                     |
| ۵۵۹ | ۲  | لوطی فاسق ہے  |
| ۵۹۳ | ۲  | شطنج کھیلنا فسق ہے                                  |
| ۶۰۱ | ۲  | فاسق وقاجر کی تعریف اور حکم                         |
| ۶۰۳ | ۲  | ڈاڑھی ترشوانے والے فاسق                             |
| ۶۰۶ | ۲  | افیونی اور روزہ بلا عذر چھوڑنے والا فاسق            |
| ۶۱۳ | ۲  | فسق کی ایک صورت                                     |
| ۶۳۳ | ۲  | زانی فاسق ہے  |
| ۳۹۳ | ۷  | بلا عذر شرعی مسجد میں نماز نہ پڑھنے والا فاسق ہے    |
| ۱۰۹ | ۱۱ | ناج اور باجے دیکھنے سننے والا فاسق ہے               |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|------|-----|--|
| ۲۳۹  | ۱۱  | فاسق معطن کی امامت کا حکم                  |
| ۳۹۶  | ۱۱  | فاسق شرعاً واجب الاحلیۃ ہے                 |
| ۴۱۷  | ۱۱  | فاسق معطن سے ابتداءً بالسلام مکروہ         |
| ۴۳۳  | ۱۱  | فاسق معطن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے    |
| ۵۳۳  | ۱۱  | فاسق صالح کا اور قاصد صالح کا کفو نہیں ہے  |
| ۶۵۸  | ۱۱  | فاسق غیر معطن بھی بنت صلحاء کا کفو نہیں ہے |
| ۶۹۸  | ۱۱  | فاسق اعتقادی فاسق عملی سے بدتر ہے          |
| ۳۱۶  | ۱۳  | فاسق معطن کی اذان                          |
| ۶۵۲  | ۱۳  | فاسق معطن کی امامت                         |
| ۳۷۷  | ۱۳  | فاسق کی ایک قسم                            |
| ۱۰۱  | ۱۵  | فاسق کو سید کہا جاتا ہے                    |
| ۲۶۰  | ۱۵  | فاسق کو سردار بنا جاتا ہے                  |
| ۴۴۶  | ۱۵  | فاسق کی امامت مکروہ تحریمی                 |
| ۳۰۹  | ۱۶  | دوسرے کا کبوتر پکڑنے والا فاسق ہے          |
| ۳۶۰  | ۱۶  | فاسق نکاح پڑھائے تو حکم                    |
| ۳۶۱  | ۱۶  | فاسق کی امامت منع ہے                       |
| ۵۵۸  | ۱۶  | تارک جماعت فاسق ہے                         |
| ۶۰۰  | ۱۶  | فاسق کی تعظیم کا حکم                       |
| ۶۱۰  | ۱۶  | فاسق کی اہانت واجب ہے                      |
| ۱۲۹  | ۱۸  | فاسق شرعاً گواہ نہیں                       |
| ۲۲۳  | ۱۸  | فاسق کی شہادت مقبول نہ ہونے کا مطلب        |
| ۴۶۹  | ۱۸  | فاسق حکم کا موافق شرع فیصلہ مانا جائے گا   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۵۱۳  | ۱۸  | فاسق قاضی بن سکتا ہے                                |
| ۵۵۵  | ۱۸  | فاسق کی اقتداء جمعہ میں جائز جبکہ جمعہ ایک جگہ ہو   |
| ۶۲۲  | ۱۸  | فاسق معین کی امامت                                  |
| ۷۲۳  | ۱۸  | فاسق معین کی گواہی کا حکم                           |
| ۵۲۹  | ۱۹  | جو حافظ اجرت پر قرآن پڑھنے کا پیشہ کرے فاسق معین ہے |
| ۲۵۱  | ۲۰  | فاسق کا بیچہ  |
| ۲۵۳  | ۲۰  | فاسق کا بیچہ  |
| ۳۰۷  | ۲۰  | فاسق معین کی امامت                                  |
| ۲۵۳  | ۲۱  | فاسق کی مدح سرائی پر وعید                           |
| ۶۰۳  | ۲۱  | فاسق کی بیعت ناجائز                                 |
| ۱۴۹  | ۲۱  | فاسق کی گواہی توبہ کے بعد                           |
| ۲۱۱  | ۲۲  | فاسقوں کیساتھ کھانے پینے کا اثر                     |
| ۶۰۵  | ۲۲  | چند فاسق معین                                       |
| ۶۰۵  | ۲۲  | فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے                       |
| ۱۰۰  | ۲۳  | فاسقوں کے گھر دعوت کا حکم                           |
| ۹۸   | ۲۳  | فاسق کی امامت                                       |
| ۲۹۹  | ۲۳  | فاسق کی امامت                                       |
| ۷۲۶  | ۲۳  | فاسق کو امام بنانے والے گناہ گار                    |
| ۱۳۹  | ۲۳  | فاسق کو پیر بنانا حرام                              |
| ۱۳۲  | ۲۳  | فاسق معین کی امامت                                  |
| ۲۲۳  | ۲۳  | فاسق کو امام بنانے والوں کا گناہ                    |
| ۲۲۵  | ۲۵  | فاسقوں کے لئے وصیت مکروہ ہے                         |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                          |
|------|-----|--------------------------------------|
| ۳۶۲  | ۲۶  | ناسق کو وراثت سے محروم کرنے کی اجازت |
| ۵۱   | ۲۸  | ناسق معطن کی امامت مکروہ تحریمی      |

فتویٰ :

دیکھئے القاء :

فحش گوئی :

|     |    |                           |
|-----|----|---------------------------|
| ۲۱۳ | ۲۲ | فحش گوئی جہاں ہے          |
| ۲۱۵ | ۲۲ | فحش گوئی کرنے والے کا حکم |

فدیہ :

|        |    |  |
|--------|----|--|
| ۵۲۸۵۲۱ | ۱۰ | باب الفدیہ   |
| ۵۲۰    | ۱۰ | نمازوں کا فدیہ                                       |
| ۵۲۸    | ۱۰ | فدیہ کی مقدار تولوں میں                              |
| ۲۲۱    | ۱۱ | فدیہ روزے کا   |
| ۲۲۲    | ۱۱ | جو روزے نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے تو کیا کرے |
| ۳۷۲    | ۱۳ | فدیہ بلا عذر شرعی منع                                |

فرض :

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۲۳۰ | ۱ | فرض کی اقسام اور تعریضیں               |
| ۲۶۳ | ۱ | وضو کے فرائض                           |
| ۲۱۳ | ۱ | کتنی داڑھی دھونا فرض ہے                |
| ۵۱۹ | ۱ | فرائض غسل                              |
| ۱۸۰ | ۱ | فرض کی اقسام اور تعریضیں               |
| ۹۰۷ | ۱ | فرض سے حرام تک احکام شرعیہ کی ۱۱ قسمیں |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۹۵۰  | ۱   | فرض ایمان کی تکمیل ہے                               |
| ۵۳۶  | ۳   | فرض عین فرض کفایہ سے قوی ہے                         |
| ۳۸   | ۳   | کوئی چیز حضور ﷺ جب بھی طلب فرمائیں دینا فرض ہے      |
| ۳۲۶  | ۵   | فرائض نماز کی فرضیت میں برابری کا سوال              |
| ۱۵۸  | ۶   | صرف تکبیر تحریمہ کی قدرت پر تکبیر تحریمہ بھی فرض ہے |
| ۱۹۳  | ۶   | نماز میں قرآن پڑھنا فرض تصور کافی نہیں              |
| ۶۳۱  | ۶   | فرض واجب وغیرہ کے احکام                             |
| ۳۱۱  | ۸   | حج کے دونوں خطبے فرض ہیں یا ایک سنت ایک فرض         |
| ۱۱۸  | ۹   | سرکار ﷺ کے تبرکات کی تعظیم فرض ہے                   |
| ۷۸۹  | ۱۰  | حج کے فرض   |
| ۲۰۵  | ۱۱  | جان کارکھنا ہر فرض سے اہم                           |
| ۹۹   | ۱۵  | سرکار ﷺ کا نام ادب سے لینا فرض ہے                   |
| ۲۰۸  | ۱۵  | غیر مقلدوں کے ہاں سورہ فاتحہ نماز میں فرض ہے        |
| ۱۱۳  | ۱۶  | بیع فاسد کا فسخ فرض ہے                              |
| ۳۳۰  | ۲۲  | سادات کی تعظیم فرض ہے                               |
| ۱۱۲  | ۲۳  | فاسق کی نماز جنازہ فرض ہے                           |
| ۶۱۱  | ۲۳  | زوجہ کافن شوہر پر فرض ہے                            |

فرائض :

دیکھئے میراث :

فضائل و مناقب :

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۱۳۵ | ۱ | امام اعظم علیہ الرحمہ کی فضیلت میں امام اعش کا فرمان |
|-----|---|--|

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                                      |
|----------|-----|--|
| ۱۳۷      | ۱   | امام اعظم علیہ الرحمہ کے فضائل                   |
| ۵۸۲      | ۱   | سرکار ﷺ کے فضائل و شریعت طیب و طاہر ہیں          |
| ۱۷۳      | ۱   | ہمارے امام اعظم علیہ الرحمہ تابعین میں سے ہیں    |
| ۶۳       | ۲   | امام اعظم علیہ الرحمہ کے فضائل                   |
| ۶۵، ۶۳   | ۲   | امام اعظم و ابو یوسف رحمہما اللہ تعالیٰ کے فضائل |
| ۹۱       | ۲   | حضور ﷺ کے وضو کا پانی طاہر مطہر ہے               |
| ۲۷۷      | ۲   | سرکار ﷺ کی انگلیوں کا پانی ہر پانی سے افضل ہے    |
| ۲۰۸      | ۳   | ہر نعمت سرکار ﷺ سے پائے جاتی ہیں                 |
| ۲۲۳      | ۳   | کاشانہ نبوت ﷺ کی حالت                            |
| ۲۳۵      | ۳   | کوثر افضل یا زمزم                                |
| ۲۳۷      | ۳   | ربیع الاول میں ولادت کی حکمت                     |
| ۲۳۸      | ۳   | افضلیت کوثر کے دلائل                             |
| ۵۱۵      | ۴   | حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے فضائل         |
| ۳۳۶، ۳۱۱ | ۵   | فضائل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ         |
| ۵۲۲      | ۵   | فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ               |
| ۵۲       | ۵   | پانچوں نمازوں کے فضائل توہرات میں                |
| ۳۹۷      | ۵   | مردہ سنت زندہ کرنے کے فضائل                      |
| ۳۹۳      | ۵   | امام سیوطی علیہ الرحمہ کی فضیلت                  |
| ۵۲۸      | ۵   | سرکار ﷺ کے فضائل                                 |
| ۵۶۵      | ۵   | خوشبو سونگہ کر درود پڑھنا مستحب ہے               |
| ۱۸۳      | ۶   | درود پاک کے فضائل                                |
| ۲۰۳      | ۶   | عمامہ باندھ کر نماز پڑھنے کے فضائل               |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|------|-----|--|
| ۲۰۸  | ۶   | عمامہ کے فضائل                             |
| ۶۹   | ۷   | سورۃ اخلاص کا ثواب                         |
| ۸۳   | ۷   | تہجد کی نیت سے سونے والے کا حکم            |
| ۸۵   | ۷   | تہجد صالحین کی عادت ہے                     |
| ۲۰۰  | ۷   | تہجد سنت ہے                                |
| ۵۷۲  | ۷   | شیخ وجیہ الدین علوی علیہ الرحمہ کے فضائل   |
| ۶۳۳  | ۷   | نماز غوثیہ کے فضائل                        |
| ۶۳۷  | ۷   | نماز کی فضیلت                              |
| ۶۰۸  | ۸   | فضائل حسین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما    |
| ۶۰۹  | ۸   | حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے فضائل |
| ۶۱۰  | ۸   | حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے فضائل           |
| ۶۱۰  | ۸   | حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل             |
| ۶۱۲  | ۸   | حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل    |
| ۶۱۲  | ۸   | حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل       |
| ۶۱۲  | ۸   | حضرت بتول زہراء رضی اللہ عنہا کے فضائل     |
| ۵۲۲  | ۸   | حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل   |
| ۱۳۲  | ۹   | فضائل اصحاب کہف رضی اللہ عنہم              |
| ۱۳۳  | ۹   | امام علی رضی اللہ عنہ                      |
| ۲۲۵  | ۹   | فضائل عمر فاروق رضی اللہ عنہ               |
| ۲۹۹  | ۹   | فضائل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ         |
| ۳۱۳  | ۹   | فضائل امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ           |
| ۳۶۷  | ۹   | فضیلت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ |

| صفحہ      | جلد | عنوان مسئلہ                                  |
|-----------|-----|--|
| ۳۶۹       | ۹   | فضائل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا               |
| ۵۱۲       | ۹   | امام تقی الدین سبکی علیہ الرحمۃ کے فضائل     |
| ۵۲۱       | ۹   | حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ            |
| ۵۲۳       | ۹   | حضرت مریم بنت عمران و حضرت آسیہ علیہا السلام |
| ۶۹۳       | ۹   | حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ                  |
| ۸۲۹       | ۹   | جبریل امین علیہ السلام                       |
| ۸۴        | ۱۰  | حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ             |
| ۲۰۰ ، ۱۹۹ | ۱۰  | امام اعظم علیہ الرحمۃ                        |
| ۲۰۰       | ۱۰  | امام عامر رضی اللہ عنہ                       |
| ۸۱۱       | ۱۰  | حسین کریمین کے فضائل                         |
| ۱۰۵       | ۱۰  | خدمات مساوات کے فضائل                        |
| ۷۳۰       | ۱۱  | حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل         |
| ۱۱۳       | ۱۱  | امام خصاص علیہ الرحمہ                        |
| ۲۷۳       | ۱۱  | سرکار ﷺ کے فضائل                             |
| ۳۲۶       | ۱۱  | حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا      |
| ۳۲۶       | ۱۱  | حضرت شیخین رضی اللہ عنہما                    |
| ۷۱۳       | ۱۱  | عالم دین کے فضائل                            |
| ۷۱۳       | ۱۱  | دین دار عالم کے فضائل                        |
| ۳۰۳       | ۱۲  | سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے فضائل           |
| ۳۰۳       | ۱۲  | زوجہ مطہرہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ      |
| ۳۱۰       | ۱۲  | حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ عنہا       |
| ۶۰۱       | ۱۳  | شیخ بقاء بن بلوط علیہ الرحمہ کے فضائل        |



| صفحہ     | ظہ | عنوان مسئلہ  |
|----------|----|--|
| ۶۰۳۵ ۶۰۰ | ۱۳ | حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کے فضائل                  |
| ۴۴۱      | ۱۴ | امام عطاء بن ابی رباح کے فضائل                     |
| ۱۴۳      | ۱۵ | سرکار ﷺ کو علم غیب عطا ہی ہے                       |
| ۱۶۸      | ۱۵ | سرکار ﷺ شاہد ہیں                                   |
| ۶۱۵      | ۱۵ | اوصاف حضرت مسیح علیہ السلام                        |
| ۶۳۸      | ۱۵ | خصائص سرکار ﷺ                                      |
| ۳۵۱      | ۱۷ | اللہ پاک ہے پاک کو قبول فرماتا ہے                  |
| ۴۶۹      | ۱۷ | سب سے افضل کسب کون سا ہے                           |
| ۳۴۱      | ۲۱ | فضائل سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ                |
| ۲۵۵      | ۲۲ | فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ          |
| ۲۶۱      | ۲۲ | فضیلت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما                  |
| ۲۶۳      | ۲۲ | فضیلت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ                      |
| ۲۶۵      | ۲۲ | فضیلت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ                 |
| ۲۶۶      | ۲۲ | فضیلت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ                 |
| ۲۷۰      | ۲۲ | فضائل امام قاضی خان علیہ الرحمۃ                    |
| ۲۹۳      | ۲۲ | فضائل امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ           |
| ۲۹۶      | ۲۲ | فضائل امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ                    |
| ۳۲۳      | ۲۲ | فضائل امام الائمۃ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ |
| ۶۳۲      | ۲۲ | سرکار ﷺ کا حلیہ مبارک                              |
| ۴۳۸      | ۲۲ | اونٹ نے سرکار ﷺ کو سجدہ کیا                        |
| ۴۴۲      | ۲۲ | سرکار ﷺ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے               |
| ۴۴۵      | ۲۲ | سرکار ﷺ کے لئے دودرختوں نے مل کر پردہ بنایا        |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                                   |
|------|-----|---|
| ۴۴۶  | ۲۲  | سرکار ﷺ کے بلانے پر درخت زمین پر اتر آیا      |
| ۴۵۴  | ۲۲  | سرکار ﷺ کے مرض وصال کے احوال                  |
| ۶۱۳  | ۲۲  | سرکار ﷺ کے خصوصی فضائل                        |
| ۵۵۷  | ۲۲  | شیخ ابوطالب کی علیہ الرحمہ کے فضائل           |
| ۴۴۳  | ۲۳  | فضائل اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم            |
| ۶۴۳  | ۲۳  | قاری قرآن کے فضائل                            |
| ۶۶۱  | ۲۳  | محمد بن ابراہیم علیہ الرحمہ کے فضائل          |
| ۱۸۵  | ۲۴  | صدقہ کے فضائل                                 |
| ۴۷۱  | ۲۴  | اولیاء کے فضائل                               |
| ۴۷۳  | ۲۴  | صحابہ کے فضائل                                |
| ۴۷۳  | ۲۴  | اہل بدر کے فضائل                              |
| ۴۷۳  | ۲۴  | حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل          |
| ۴۶۶  | ۲۴  | حاجی کے فضائل                                 |
| ۴۴۱  | ۲۴  | حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ کے القابات          |
| ۴۵۱  | ۲۴  | امام ابو جعفر طحاوی علیہ الرحمہ کے فضائل      |
| ۴۹۴  | ۲۴  | حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل |
| ۵۸۸  | ۲۶  | حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب  |
| ۵۵۹  | ۲۶  | سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ کے فضائل           |
| ۵۸۸  | ۲۶  | حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل  |
| ۷۶   | ۲۷  | امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے فضائل            |
| ۷۷   | ۲۷  | امام اعظم علیہ الرحمہ کے فضائل                |
| ۲۰۰  | ۲۷  | مولانا دوسی احمد صوری علیہ الرحمہ کی عظمت     |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۲۳۵      | ۲۷  | حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما صحابہ بعد از خلفاء ہیں  |
| ۲۳۵      | ۲۷  | حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب سیر رسول                 |
| ۲۵۸      | ۲۸  | حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کے فضائل                            |
| ۳۹۹۵ ۳۶۷ | ۲۸  | سیدنا امام احمد رفاعی علیہ الرحمہ کی عظمت کا بیان            |
| ۳۳۱۵۳۶۷  | ۲۸  | سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ کی عظمت کا باب                    |
| ۲۲۰      | ۲۸  | افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ                   |
| ۲۲۱      | ۲۸  | حضرت بلال، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما کے فضائل              |
| ۲۲۳      | ۲۸  | حارثہ بن نعمان، نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے فضائل      |
| ۳۶۱      | ۲۸  | خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل                  |
| ۳۶۲      | ۲۸  | فضائل سیدنا غوث اعظم علیہ الرحمہ                             |
| ۳۶۶۵۳۳۳  | ۲۸  | حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل                               |
| ۲۵۶      | ۲۸  | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مناقب                         |
| ۳۶۳      | ۲۸  | حضرت فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کا مقام و مرتبہ           |
| ۶۸۳۵۳۹۱  | ۲۸  | افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں مستقل رسالہ          |
| ۵۲۶      | ۲۸  | فضیلت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ                                |
| ۶۱۰      | ۲۸  | سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں زندہ ہیں                    |
| ۶۱۰      | ۲۸  | خضر علیہ السلام نبی ہیں                                      |
| ۲۸۵      | ۲۸  | میر عبدالواحد بلگرامی علیہ الرحمہ کے فضائل                   |
| ۵۰۶      | ۲۸  | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال کو آزاد کرنا |
| ۵۰۹      | ۲۸  | صحابہ کی کثیر تعداد کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آزاد فرمایا |
| ۲۲۷      | ۲۹  | صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل                     |

| صفحہ   | جلد    | عنوان مسئلہ                             |
|--|--------|---|
| ۵۰۶، ۳۹۰، ۳۵۸، ۲۵۵، ۲۰۱، ۱۱۳، ۹۸<br>۵۸۰، ۵۷۵، ۵۳۲، ۵۲۹، ۵۲۲، ۵۱۳ | جلد ۲۹ | سرکار ﷺ کے خصوصی فضائل                  |
| ۷۷۰، ۵۱۲۶  | ۳۰     | سرکار ﷺ کے فضائل و خصائص کا تفصیلی بیان |
| ۱۲۹  | ۳۰     | حضور ﷺ سب رسولوں سے افضل                |
| ۱۹۳  | ۳۰     | حضور ﷺ سراپا نور ہیں                    |
| ۳۰۷  | ۳۰     | حضور ﷺ پر ایمان لانے کا مطلب            |
| ۳۵۹  | ۳۰     | حضور ﷺ مشکل کشا، حاجت روا ہیں           |
| ۵۰۰  | ۳۰     | حضور ﷺ مالک احکام شرع ہیں               |
| ۶۵۷  | ۳۰     | حضور ﷺ نور ہیں                          |
| ۷۱۵، ۶۹۵   | ۳۰     | حضور ﷺ کا سایہ نہ تھا                   |
| ۷۳۷  | ۳۰     | حضور ﷺ کا سایہ نہ تھا                   |

## فضولی:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۹۵ | ۹  | فضولی کا تصرف مالک کے اذن پر موقوف ہے  |
| ۱۱۳ | ۱۱ | فضولی کون ہے                           |
| ۱۳۵ | ۱۱ | نکاح فضولی موقوف                       |
| ۱۶۱ | ۱۱ | عقد فضولی محض فضولی نہیں ہے            |
| ۱۶۶ | ۱۱ | عقد فضولی کا حکم                       |
| ۱۶۹ | ۱۱ | اگر کفو میں فضولی نکاح کرے تو حکم      |
| ۱۷۳ | ۱۱ | فضولی کو اجازت دہندہ نہ ہو تو عقد باطل |
| ۵۲۲ | ۱۱ | نکاح فضولی کا حکم                      |
| ۵۲۶ | ۱۱ | نکاح فضولی موقوف                       |

| صفحہ                   | جلد    | عنوان مسئلہ               |
|------------------------|--------|---------------------------|
| ۵۳۵                    | ۱۱     | نکاح فضولی کا حکم         |
| ۵۹۳                    | ۱۱     | عقد فضولی باطل کب ہوگا    |
| ۲۵۵                    | ۱۲     | فضولی کے شراء کا انعقاد   |
| ۶۲۳                    | ۱۲     | فضولی کی طلاق کا حکم      |
| ۲۲۳                    | ۱۳     | فضولی کا نکاح             |
| ۳۰۷                    | ۱۳     | فضولی کا نکاح             |
| ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۲، ۱۰۰، ۹۹ | جلد ۱۷ | فضولی کی بیع              |
| ۲۱۶، ۱۹۳               | ۱۷     | فضولی کی بیع کا مکمل بیان |
| ۱۵۹                    | ۱۸     | فضولی کی بیع کا حکم       |
| ۶۰۹، ۳۲۰               | ۱۸     | نکاح فضولی جائز مگر.....  |

## فطرانہ :

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| ۲۵۲ | ۱۰ | صدقہ فطر کی مقدار اور تفصیل |
| ۲۹۱ | ۱۰ | صدقہ فطر کا بیان            |
| ۲۹۳ | ۱۰ | عورت کا فطرہ شوہر پر نہیں   |
| ۲۹۵ | ۱۰ | صدقہ فطر کی مقدار           |
| ۲۹۶ | ۱۰ | عورت کا فطرہ کس پر          |
| ۲۹۷ | ۱۰ | فطرہ کی احتیاطی مقدار       |
| ۳۶۶ | ۲۰ | صدقہ فطر کا نصاب            |
| ۵۳۲ | ۲۰ | صدقہ فطر میں تملیک ضروری ہے |
| ۱۰۶ | ۲۳ | فطرانہ مسجد میں دینے کا حکم |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

فلسفہ :

|                    |        |  |
|--------------------|--------|--|
| ۸۵۱                | ۹      | جماد من حیث ہو جماد سے سوال                              |
| ۸۵۵                | ۹      | اوراک باہر، تین امور پر موقوف ہے                         |
| ۹۳۰                | ۹      | حیات اوراک کے لئے شرط ہے                                 |
| ۹۳۳                | ۹      | فلس کا آن واحد میں کی طرف متوجہ ہونا جائز                |
| ۳۶۶                | ۱۳     | اعراض مجدد ہیں   |
| ۵۵۴                | ۱۳     | قانون فطرت   |
| ۵۰۷                | ۱۵     | تسلل کب محال ہے  |
| ۶۳۳                | ۲۳     | فلاسفہ کے نظریات   |
| ۳۵۱۵۳۱۲            | ۲۳     | اہل حضرت علیہ الرحمہ کے فلسفہ اور سائنس پر دقیق مہیا رہے |
| ۶۳۶                | ۲۳     | فلسفہ کی کتب کو درس نظامی میں شامل کرنے کی وجہ           |
| ۳۳۲                | ۲۳     | فلسفہ کو فقہ پر ترجیح دینے کا حکم                        |
| ۶۰۰                | ۲۶     | زمین و آسمان کی تخلیق کے مراحل                           |
| ۱۰۲ ۵ ۹۳           | ۲۷     | چند فلسفی تحقیقات  |
| ۱۸۸۵ ۱۰۵           | ۲۷     | فلسفیانہ نظریات کی کتاب کا زور دار رد                    |
| ۵۷۱۵۳۸۳            | ۲۷     | فلسفہ قدیمہ کے نظریات کے رد پر رسالہ                     |
| ۳۵۰،۲۷۰،۲۰۰،۱۵۵،۷۷ | جلد ۲۹ | چند سائنسی اور فلسفی ضوابط                               |
| ۷۵۸،۷۳۷،۶۹۳،۶۸۲    | ۳۰     | چند فلسفی ضابطے  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

فقیر:

|     |    |                           |
|-----|----|---------------------------|
| ۲۰۰ | ۱۹ | فقیروں کی تعریف اور تفصیل |
|-----|----|---------------------------|

فونوگراف (ٹیپ ریکارڈ) :

|         |    |                                     |
|---------|----|-------------------------------------|
| ۳۶۸۵۳۱۱ | ۲۳ | فونوگراف (ٹیپ ریکارڈ) کی شرعی حیثیت |
|---------|----|-------------------------------------|

## ﴿ ق ﴾

قادیانی:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۰۸     | ۱۱ | قادیانی مرتد ہیں                             |
| ۲۶۱     | ۱۲ | مرد قادیانی عورت مسلمان کا حکم               |
| ۲۷۹     | ۱۲ | قادیانی اور ان کے عقائد                      |
| ۳۲۱     | ۱۲ | قادیانیوں کو رشتہ دینا                       |
| ۳۸۵     | ۱۲ | قادیانی کافر                                 |
| ۶۵۳     | ۱۲ | قادیانی سے مقاطعہ کو ناحق جاننا کفر ہے       |
| ۷۳۹۵۵۷۱ | ۱۵ | قادیانیوں کے رد کا مکمل بیان                 |
| ۲۷۹     | ۲۱ | قادیانی مرتد اور اس کو نبی ماننے والے کا حکم |
| ۵۹۵     | ۲۳ | قادیانی مرتد ہیں                             |
| ۳۲۷     | ۲۳ | قادیانی سے مسجد کے لئے پیسے نہ لیں           |

قاضی/قضا:

|     |    |                                   |
|-----|----|-----------------------------------|
| ۵۶۷ | ۸  | قاضی کی تعریف اور شرائط           |
| ۱۷۳ | ۹  | قاسمی نکاح خوان شرعی قاضی نہیں ہے |
| ۳۱۳ | ۱۰ | تَب الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي     |



| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                                       |
|------------|-----|---|
| ۱۲۷        | ۱۱  | حکم قاضی رافع خلاف ہے                             |
| ۲۹۶        | ۱۱  | قاضی شرط نکاح نہیں                                |
| ۲۹۷        | ۱۱  | قاضی نکاح کے شرعاً کچھ اختیارات نہیں              |
| ۴۴۴        | ۱۱  | قاضی شرع کون ہے                                   |
| ۴۸۵        | ۱۱  | قاضی مجتہد کا حکم                                 |
| ۵۶۳        | ۱۱  | انگریزی پکھری شرعی دارالقضا نہیں                  |
| ۶۳۶        | ۱۱  | عدم کفایت کے سبب قاضی صرف قاضی کے ہاں ہے          |
| ۶۴۷        | ۱۱  | جہاں قاضی نہ ہو مسلمان کیا کریں                   |
| ۶۶۷        | ۱۱  | اختیار قاضی کا مسئلہ                              |
| ۴۶۲        | ۱۲  | فاسق عہدہ قضا کا مستحق نہیں                       |
| ۵۰۶        | ۱۲  | قاضی شرع نہ ہو تو حاکم شرعی کون ہے                |
| ۴۴۲        | ۱۳  | قاضی ظاہر پر فیصلہ کرے                            |
| ۴۷۶        | ۱۳  | قاضی خفی کا اپنے مسلک کے خلاف حکم نافذ نہیں       |
| ۴۴۳        | ۱۳  | ذمیوں کے لئے کافر قاضی جائز                       |
| ۲۰۱        | ۱۷  | ایک قاضی کے غلط فیصلہ کو دوسرا قاضی رد کر سکتا ہے |
| ۳۱۸        | ۱۷  | احکام قضا دار الحرب اور دار البغاة نافذ نہیں      |
| ۷۳۷ تا ۱۳۹ | ۱۸  | کتاب القضاة                                       |
| ۱۳۶        | ۲۰  | طلب مواہبت کی تین صورتیں                          |
| ۱۷۶        | ۲۰  | قاضی کو ولایت عامہ حاصل ہے                        |
| ۶۱۰        | ۲۳  | عہدہ قضا قبول کرنے کی صورتیں                      |
| ۳۶۳، ۳۶۱   | ۲۴  | فاسق قاضی شہر کا سوال و جواب                      |
| ۲۴۸        | ۲۵  | قاضی کو نا تمام عقد جبراً تمام کرنے کا حق نہیں    |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## قبر / قبرستان :

|         |   |  |
|---------|---|--|
| ۷۲۱     | ۴ | قبر پر قرآن پڑھنے کا حکم   |
| ۳۳۹     | ۵ | قبر پر نماز پڑھنے کا حکم   |
| ۶۰۷     | ۷ | صالحین کی حیات میں اور وفات کے بعد ان کی قبور کی طرف چلنا یکساں ہے |
| ۱۱۳     | ۸ | قبروں کو برابر کر کے مسجد میں شامل کرنا حرام                       |
| ۱۲۳     | ۸ | قبریں پاٹ کر مسجد بنانے کا حکم                                     |
| ۱۳۳     | ۹ | قبر میں شجرہ رکھنے کا حکم  |
| ۱۶۳     | ۹ | قبر پر اذان جائز   |
| ۲۳۵     | ۹ | قبر کے پاس دعا کھڑے ہو کر جائز                                     |
| ۲۶۵     | ۹ | قبر میں شجرہ رکھنا منع نہیں  |
| ۲۶۷     | ۹ | منہدم قبرستان میں جنازہ پڑھنا                                      |
| ۳۷۱     | ۹ | قبر میں میت لٹانے کی صورت  |
| ۳۷۲     | ۹ | قبر کتنی اونچی ہو  |
| ۳۷۳     | ۹ | قبر کھودنے کے آلات   |
| ۳۷۷     | ۹ | جمعہ تک قبر پر بیٹھنے کا حکم                                       |
| ۳۸۰     | ۹ | دو امی پٹہ والی زمین پر قبر کا حکم                                 |
| ۳۸۲     | ۹ | قبر کی گہرائی کی مقدار   |
| ۳۸۵     | ۹ | خالی قبرستان چھوڑ کر بھرے میں دفن کرنا                             |
| ۴۰۳     | ۹ | قبر کھل جائے تو حکم  |
| ۶۵۹۵۵۲۲ | ۹ | زیارت قبور کا بیان   |
| ۵۲۲۵۴۰۳ | ۹ | قبر و مقابر کے احکام   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                     |
|------|-----|---------------------------------|
| ۷۶۰  | ۹   | قبروں پر پھول ڈالنا ثواب ہے     |
| ۹۳۵  | ۹   | قبر کا بھیا تک ماحول            |
| ۲۲۸  | ۱۶  | مرمتِ قبر کے لئے وقف صحیح نہیں  |
| ۲۲۳  | ۱۶  | قبر کے قرب میں نماز             |
| ۵۰۳  | ۱۶  | قبروں پر نماز ناجائز            |
| ۵۰۸  | ۱۶  | قبرستان سے نیاراستہ نکالنا منع  |
| ۶۲۳  | ۲۱  | قبور کی زیارت                   |
| ۲۳۲  | ۲۱  | قبر کی بلندی کی حد شرع          |
| ۲۳۹  | ۲۲  | قبرستان میں عورتوں کی حاضری     |
| ۲۸۲  | ۲۲  | بوسہ قبر کا حکم                 |
| ۲۸۲  | ۲۲  | طواف قبر کا حکم                 |
| ۳۹۹  | ۲۲  | طواف قبر سے متعلقہ خلاصہ کلام   |
| ۳۷۹  | ۲۲  | قبر کے سامنے نماز منع           |
| ۱۱۱  | ۲۳  | قبور پر عورتوں کی حاضری         |
| ۳۷۳  | ۲۳  | قبر پر اذان کا حکم              |
| ۳۲۳  | ۲۵  | قبر کا نشان لگانا محمود         |
| ۳۲۳  | ۲۵  | قبر کے گرد حفاظتی تعمیر کا حکم  |
| ۲۰۵  | ۲۹  | قبر کی زیارت بوسہ و طواف کا حکم |
| ۲۷۳  | ۲۹  | قبر میں سوال روح سے ہے          |
| ۷۲   | ۳۰  | قبور پر عورتوں کی حاضری         |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## قبلہ / کعبہ :

|       |    |   |
|-------|----|---|
| ۵۵۲   | ۳  | تحریر اصالتہ قبلہ ہے                                  |
| ۵۵    | ۶  | تمام بلاد کے قبلہ کا خاص تخمینہ ممکن نہیں             |
| ۱۲۷۶۳ | ۶  | سمت قبلہ کے بیان میں رسالہ                            |
| ۱۹۰   | ۶  | سلام کے بعد امام کا قبلہ رو بیٹھنا مکروہ ہے           |
| ۲۰۴   | ۶  | قبلہ رو بعد سلام امام کا بیٹھنا مکروہ ہے              |
| ۶۰۵   | ۷  | روضہ اقدس کی حاضری میں منہ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو    |
| ۳۵۶   | ۸  | بعد سلام امام کا قبلہ رو بیٹھنا مکروہ ہے              |
| ۳۱۶   | ۱۲ | تعمیر کعبہ میں کی گئی تبدیلیوں کو برقرار رکھنے کی وجہ |
| ۴۹۸   | ۱۶ | قبلہ کی دیوار میں حد نظر تک نقش و نگار منع            |
| ۱۶۳   | ۲۱ | اہل قبلہ کون ہیں                                      |
| ۵۲۳   | ۲۲ | کعبہ نماز کا قبلہ ہے                                  |
| ۵۲۸   | ۲۲ | کعبہ کس چیز کا نام ہے                                 |
| ۳۵۰   | ۲۳ | کچھ آداب قبلہ کا ذکر                                  |
| ۳۸۵   | ۲۳ | قبلہ کی طرف پاؤں کرنا                                 |
| ۵۴۱   | ۲۴ | جہت قبلہ میں صلیب ہو تو حکم                           |

## قتل:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۵۴۸ | ۲  | کفار میں ذمی شامل ہو تو سب کا قتل منع ہوگا |
| ۶۶۷ | ۳  | جن کے قتل کی اجازت ان کا مسئلہ منع ہے      |
| ۴۹۵ | ۱۰ | قتل کی دھمکی پر کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا  |
| ۳۸۱ | ۱۵ | قرآن کو مخلوق کہنے والے کو قتل کریں گے     |

| صفحہ | پہ | عنوان مسئلہ                  |
|------|----|------------------------------|
| ۵۳۰  | ۲۹ | ایک نمازی کو قتل کرنے کا حکم |
| ۵۳۱  | ۲۹ | چور کو قتل کا حکم            |

قدر و قضا:

دیکھئے تقدیر:

قذف:

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| ۱۸۴ | ۲۱ | حد قذف کا بیان                   |
| ۳۲۲ | ۲۳ | محدود فی القذف کی شہادت مردود ہے |

قرآن کریم:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| ۸۹۷      | ۱ | حروف بجا منزل من اللہ ہیں  |
| ۱۰۷۷     | ۱ | بعض آیات قرآنی کا لیت دعا جیسی حائض کو پڑھنا                       |
| ۹۵       | ۲ | قرآن کریم کو مس کرنا   |
| ۹۹       | ۲ | محل دھلے ہاتھ سے مس کرنا منع ہے                                    |
| ۳۰۵      | ۳ | خوف فوت جنازہ تیمم سے مس صحیف کا حکم                               |
| ۲۸۰      | ۳ | تخلیم نے مسجد سے نکلنے کا تیمم کیا تو قرآن کریم کی تلاوت اس سے منع |
| ۵۵۷، ۵۵۵ | ۳ | بے وضو اگر قرآن کریم کو مس کرنا چاہے تو تیمم کر لی                 |
| ۲۵۳      | ۳ | قرآن کی تجوید کتنی سیکھنا فرض عین ہے                               |
| ۳۶۶      | ۴ | صرف تصور میں قرآن پڑھنے کا حکم                                     |
| ۶۰۰      | ۴ | عند بعض حروف جہی بھی قرآن ہیں                                      |
| ۶۱۰      | ۴ | قرآن کو چھوئی تطہیر پر لکھنا                                       |
| ۷۲۱      | ۴ | اجرت پر قرآن پڑھنا   |
| ۶۷       | ۵ | اس امت پر قرآن کریم کا حفظ آسان                                    |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۱۸۳      | ۶   | مقتدی کو قرآن کریم پڑھنا منع                                     |
| ۲۳۹      | ۶   | قرآن کریم کو ترتیب سے پڑھنا                                      |
| ۳۲۳      | ۶   | حضر میں مقدار قرأت کیا ہے  |
| ۳۲۹      | ۶   | قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا فرض ہے                                |
| ۳۳۸      | ۶   | ایک جگہ چند آدمیوں کا بلند آواز سے قرآن پڑھنا منع ہے             |
| ۳۳۳      | ۶   | حروف کی تصحیح تک قرآن کریم کی تجوید سیکھنا فرض عین ہے            |
| ۳۳۷      | ۶   | قرآن الٹا پڑھنا حرام ہے  |
| ۶۲۷      | ۶   | قرآن خوانی کی اجرت حرام  |
| ۲۵۸      | ۷   | تراویح میں ختم قرآن کا حکم                                       |
| ۲۵۹      | ۷   | تراویح میں قرآن کریم کی آخری سورتیں پڑھنا                        |
| ۳۶۹      | ۷   | تراویح ختم قرآن میں المفلحون کے بعد آیات کے پڑھنے کا حکم         |
| ۱۶۳      | ۸   | کفارے میں قرآن کریم ہدیہ کرنے کا حکم                             |
| ۱۷۵      | ۸   | کفارے میں قرآن دینا  |
| ۵۱۸      | ۸   | ہر ختم قرآن پر ایک دعا مقبول ہے                                  |
| ۱۲۰      | ۹   | درد زہ میں قرآن کریم لکھ کر عورت کو پلانا                        |
| ۵۰۸      | ۹   | قرآن کریم کے اعراب کس نے لگوائے                                  |
| ۳۳۵      | ۱۰  | تابالغ حافظ نوافل میں قرآن کریم سنائے اور روزہ نہ رکھ سکے تو حکم |
| ۳۵۱      | ۱۰  | رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی فضیلت                            |
| ۳۲۰      | ۱۱  | جو قرآن کریم کو ناقص مانے، اس کا حکم                             |
| ۶۹۱      | ۱۱  | قرآن کریم میں ایک نقطے کی کمی کا قائل کافر ہے                    |
| ۵۷۵، ۳۹۸ | ۱۳  | قرآن کریم کی قسم   |
| ۵۹۵      | ۱۳  | قرآن کی تعلیم پر اجرت جائز                                       |

| صفحہ    | ردیف | موضوع مسئلہ                                     |
|---------|------|---|
| ۲۶۱،۲۵۹ | ۱۳   | قرآن مجید میں نقص و زیادت کے قائل کا حکم        |
| ۲۹۳     | ۱۶   | قرآن کریم پر سونا چڑھانا مستحسن ہے              |
| ۵۲۳     | ۱۸   | قرآن مجید غلط تعبیر سے برا ہے                   |
| ۴۳۵،۴۲۰ | ۱۹   | قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت کا حکم               |
| ۵۲۱،۴۹۵ | ۱۹   | قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت کا حکم               |
| ۵۶۳     | ۲۲   | قرآن کریم کو چھونا مستحب ہے                     |
| ۶۱۸     | ۲۲   | قرآن کریم میں ہر شے کا روشن بیان                |
| ۳۳۸     | ۲۳   | قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو جلانے کا حکم       |
| ۴۱۱     | ۲۳   | قرآن کریم کو فوٹو گراف پر بھرنے اور سننے کا حکم |
| ۴۵۳     | ۲۳   | قرآن مجید نجاست کی جگہ پڑھنا منع ہے             |
| ۴۵۳     | ۲۳   | میت کے غسل سے پہلے تلاوت قرآن کا حکم            |
| ۵۲۷     | ۲۳   | قرآن پاک اجرت پر پڑھوانا حرام                   |
| ۶۲۵     | ۲۳   | قرآن کریم کو بھول جانے کی سخت وعیدیں            |
| ۶۷۸     | ۲۳   | قرآن کریم کی ترجمے کی ایک صورت                  |
| ۵۴۱     | ۲۴   | نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کا حکم              |
| ۴۰۳     | ۲۵   | قرآن مجید کی جھوٹی قسم کھانا                    |
| ۳۹۹     | ۲۶   | قرآن پر اعراب کس نے لگائے                       |
| ۴۳۹     | ۲۶   | جمع قرآن اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ           |
| ۴۴۰     | ۲۶   | قرآنی صحیفے کس کس کے پاس رہے                    |
| ۱۹۹     | ۲۹   | قرآن کریم کی آیات متشابہات پر اعتراضات و جوابات |
|         |      |   |
|         |      |   |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

## قرأت :

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| ۱۱۱۸۴۱۰۷۷ | ۱  | جسبی کی قرأت کی تحقیق                                    |
| ۲۵۳       | ۳  | اتنی قرأت کہ حروف ممتاز ہوں، فرض عین                     |
| ۱۸۲       | ۶  | قرأت   |
| ۳۷۳۵۲۳۹   | ۶  | باب القراءة  |
| ۲۳۰       | ۶  | قرأت خلف الامام کی بحث                                   |
| ۲۲۳       | ۶  | چند آیات کی قرأت کا سوال                                 |
| ۲۷۲       | ۶  | ضاد کے مخرج کا بیان                                      |
| ۵۱۷       | ۷  | شہداء مبر معونہ کو قراء کہنے کی وجہ                      |
| ۶۱۵       | ۷  | فرض کی پچھلی رکعتوں میں قرأت معاف ہونے کی وجہ            |
| ۶۶۷       | ۷  | بسمہ جزو قرآن یا جزو سورت                                |
| ۶۸۵       | ۷  | نماز میں بسمہ کی قرأت بلند آواز سے                       |
| ۶۸۷       | ۷  | بسمہ کے جہر و اخفاء کا مسئلہ                             |
| ۳۹۳       | ۸  | نماز جمعہ میں قرأت کی مقدار                              |
| ۶۲۱       | ۸  | سورة والضحي تا سورة الناس تکبیر کا حکم                   |
| ۱۹۲       | ۸  | فاتحہ کے بعد بسم اللہ ترتیل سے پڑھی تو حکم               |
| ۱۹۶       | ۸  | فاتحہ کے بعد سورة پڑھے بغیر رکوع میں چلا جائے تو حکم     |
| ۵۷۱       | ۹  | قرآن کریم کی قرأت دوران نماز دیکھ کر پڑھنے کا حکم        |
| ۵۹۸       | ۱۰ | تراویح میں ختم قرآن سنت نہ کہ واجب                       |
| ۶۰۰       | ۱۰ | نماز میں فرض ابتدائی آیت کی قرأت ہے اگرچہ پورا قرآن پڑھے |
| ۳۱۵       | ۱۲ | قرأت عشرة منزل من اللہ ہیں                               |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|---------|-----|--|
| ۳۱۵     | ۱۲  | غیر معروف قرأت نماز میں نہ پڑھی جائے       |
| ۳۵۸     | ۲۳  | اگر بلا قصد قرأت انداز موسیقی پر ہو تو حکم |
| ۹۳ ، ۹۳ | ۳۰  | قرأت کے کچھ ضابطے                          |

### قربانی :

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۱۳۰      | ۱۰ | حج کے لئے رقمی رقم پر قربانی زکوٰۃ واجب ہیں |
| ۲۹۰      | ۱۰ | سرمانڈ میں قربانی یا زکوٰۃ دینے کا حکم      |
| ۶۶۹      | ۱۰ | احرام کی قربانیاں                           |
| ۶۷۰      | ۱۰ | احرام کی قربانی کے لئے حرم شرط ہے           |
| ۳۲۳      | ۱۳ | قربانی کے انکار کا حکم                      |
| ۵۷۵، ۵۶۸ | ۱۳ | قربانی کا شیوت                              |
| ۷۰۸      | ۱۳ | قربانی کے گوشت میں اختیار                   |
| ۷۰۸      | ۱۳ | قربانی کا گوشت کافر کو منع                  |
| ۷۱۰، ۵۲۵ | ۱۳ | قربانی گائے کی                              |
| ۲۵۳      | ۲۰ | قربانی کے گوشت کی تقسیم                     |
| ۵۷۹، ۳۵۳ | ۲۰ | باب الاضحیۃ                                 |
| ۲۲۸      | ۲۱ | گائے کی قربانی شعائر اسلام سے ہے            |
| ۲۷۵      | ۲۵ | قربانی کی کھال کا مصرف ہر نیک کام ہے        |

### قرض / مقروض :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۱۶۶ | ۱۰ | قرض کے روپوں کی زکوٰۃ                   |
| ۱۶۷ | ۱۰ | قرض پر زکوٰۃ کا حکم                     |
| ۱۶۸ | ۱۰ | شوہر مقروض کی وجہ سے عورت مقروض نہ ہوگی |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                               |
|---------|-----|---|
| ۱۸۵     | ۱۰  | قرض کی ایک صورت                           |
| ۲۵۰     | ۱۰  | مقروض کی زکوٰۃ                            |
| ۵۳۵     | ۱۰  | لاکھوں روپے قرض میں ہوں تو ایک قول کا حکم |
| ۲۳۱     | ۱۲  | بٹی کا قرض باپ پر جہیز دیا تو حکم         |
| ۱۳۹     | ۱۲  | مدیون کو مہلت دینے کا اجر                 |
| ۳۶۷     | ۱۳  | قرضہ کے سبب نفقہ میں تنگی نہیں            |
| ۳۳۹     | ۱۳  | اسقاط دین پیش از وجوب                     |
| ۱۶۶     | ۱۷  | قرض کی بیع                                |
| ۱۶۷     | ۱۷  | قرض مردہ کی تعریف                         |
| ۲۸۷۵۲۶۹ | ۱۷  | باب القرض                                 |
|         |     | مزید دیکھئے : دین                         |

قسم :

|         |    |           |
|---------|----|-----------|
| ۲۸۷۵۲۷۳ | ۱۲ | باب القسم |
|---------|----|-----------|

قسم (مبین) :

|          |   |   |
|----------|---|---|
| ۶۸۱      | ۲ | نماز نہ پڑھنے کی قسم کھائی تو حکم                       |
| ۱۳۷      | ۳ | چار عورتیں اور ایاز اند غلام اگر ایک کو طلاق کہا تو حکم |
| ۱۸۳      | ۳ | قسم کھائی پانی پینے کی زعفران پیا تو حکم                |
| ۱۱۵، ۱۱۳ | ۴ | قسم اور وعدہ کا اجتماع                                  |
| ۲۰۰      | ۴ | قسم کا کفارہ طعام سے نہ دے سکے تو حکم                   |
| ۲۲۹      | ۴ | نکیر پھوٹنے سے وضو نہ کرنے کی قسم اور حکم               |
| ۶۰       | ۸ | گھرنہ جانے کی قسم کھائی، صحن میں گیا تو حکم             |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۸۳۸     | ۹   | قسم کی ایک صورت اور حکم                                      |
| ۸۴۱     | ۹   | گوشت کے زندگانے کی قسم کھانی، مچھلی کھانے سے حادثہ نہ ہوگا   |
| ۸۸۴     | ۹   | قسم کے مسائل کی دو قسمیں                                     |
| ۵۳۵     | ۱۰  | لاکھوں کا مالک مگر قرض میں دیے تو پیسے نہ ہونے کی قسم کا حکم |
| ۱۹۹     | ۱۱  | قسم کے بعد غیر کو بہتر جانے تو حکم                           |
| ۶۷۷     | ۱۱  | ولی کی جھوٹی قسم کا حکم                                      |
| ۳۷۳     | ۱۲  | طلاق کی مدعیہ عورت کی قسم کا حکم                             |
| ۶۰۶     | ۱۲  | عدم نیت میں شوہر کی قسم معتبر ہے                             |
| ۱۴۸     | ۱۳  | بیمین فور سے متعلقہ مسائل                                    |
| ۱۵۱     | ۱۳  | بیمین کی بناء عرف پر   |
| ۵۷۹۵۳۹۵ | ۱۳  | کتاب الایمان   |
| ۵۲۰     | ۱۴  | کفار کی قسمیں کچھ نہیں                                       |
| ۶۲۰     | ۱۶  | ان شاء اللہ کا استعمال قسم وعدہ میں                          |
| ۱۱۷     | ۱۹  | مقرر اگر اقرار سے پھر جائے تو قاضی پر قسم لینے کی تفصیل      |
| ۳۳۷     | ۲۱  | قسم کی ایک صورت  |
| ۶۳۷     | ۲۳  | کب قسم توڑے اور کفارہ دے                                     |
| ۳۵۵     | ۲۴  | اگر کسی امر کا وعدہ حلف مستحکم سے کرے تو اس کے خلاف کا حکم   |
| ۳۰۳     | ۲۵  | باب القسم  |
| ۶۵۲     | ۲۵  | مدعی کا حلف غیر معتبر ہے                                     |

قسمت:

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| ۵۳۹ | ۲ | ملکیات مشترکہ کا مسئلہ |
|-----|---|------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|



کافر / کفر:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۵۳     | ۲  | کافر تہتم کر کے مسلمان ہو تو حکم                                 |
| ۳۳      | ۲  | نماز میں تمیم کو کافر کا پانی دینا                               |
| ۲۸۱     | ۲  | احکام دینی میں کافر کی خبر نامعتبر ہے                            |
| ۲۸۷     | ۲  | کفار کے کھانے کا حکم   |
| ۲۹۰     | ۲  | کفار کے کپڑے کا حکم  |
| ۳۲۷     | ۲  | کافر کے جھوٹے کا حکم   |
| ۷۲۸     | ۲  | کافر کی نوکری کا حکم   |
| ۳۹۰     | ۹  | کافر مرے تو اس کے رشتے دار کیا کریں                              |
| ۶۲۷     | ۹  | کافر کے لئے ایصال ثواب جائز نہیں                                 |
| ۶۵۲     | ۹  | کافر کی روح کہاں ہوگی  |
| ۸۹۳     | ۹  | کیا کافر مجاہر سے سوال قبر ہوگا                                  |
| ۳۲۸     | ۱۰ | ایک حدیث سے کفار کو صدقہ دینے کے استدلال کا جواب                 |
| ۱۷۱     | ۱۱ | رضا بالکفر بھی کفر ہے  |
| ۳۷۹     | ۱۱ | کلمہ گو کو کافر کہنے کی سزا                                      |
| ۳۲۰     | ۱۱ | قرآن کو ناقص ماننے والا کافر ہے                                  |
| ۶۹۱     | ۱۱ | غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا کفر ہے                               |
| ۲۶۵۵۲۶۱ | ۱۲ | کافر کے نکاح کا حکم  |
| ۳۱۸     | ۱۲ | لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو جو کافر کہے خود کفر سے نزدیک تر ہے |
| ۲۰۳     | ۱۲ | مسلمان کے لئے چاہے کہ کافر ہو جائے اس پہلے وہ خود کافر ہو گیا    |
| ۳۲۷     | ۱۳ | کفار کی تعریف و احکام  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                  |
|------|-----|--|
| ۲۱۲  | ۱۲  | کافر و مرتد میں فرق                          |
| ۲۲۷  | ۱۲  | کافر ذمی کے لئے وصیت جائز حربی کے لئے ناجائز |
| ۲۳۱  | ۱۵  | کفر لزومی اور التزامی کا فرق                 |
| ۶۰۹  | ۱۶  | راضی کافر ہے                                 |
| ۲۲۲  | ۱۷  | کافر کو دھوکا دینا منع ہے                    |
| ۲۲۹  | ۱۷  | کافر حربی سے عتود قاسدہ کا حکم               |
| ۲۲۸  | ۱۷  | ہندوستان کے کفار ذمی مستامن نہیں             |
| ۲۲۸  | ۱۷  | مستامن ذمی کی تعریف                          |
| ۱۷۹  | ۱۸  | کافروں سے دینی کاموں میں مدد لینا منع ہے     |
| ۱۲۵  | ۲۱  | کافر سے دوستی حرام                           |
| ۲۲۸  | ۲۱  | کافر کے لئے دعائے مغفرت کا حکم               |
| ۲۳۱  | ۲۱  | کفار سے معاملات کی تفصیل                     |
| ۲۷۰  | ۲۱  | کافر کے جنازے کو کندھا دینے کا حکم           |
| ۲۸۸  | ۲۱  | کافروں سے میل جول کی مذمت کامیان             |
| ۶۶۸  | ۲۱  | کافر کی اقسام اربعہ اور احکام                |
| ۱۹۹  | ۲۱  | کافر کیلئے فرض نماز توڑنا کب واجب ہے         |
| ۳۷۸  | ۲۲  | کافر کو سلام کرنا حرام ہے                    |
| ۶۳۳  | ۲۲  | کفار کی مخالفت کی احادیث                     |
| ۵۳   | ۲۵  | کافر اہل ثواب نہیں                           |
| ۶۲   | ۲۵  | کافر کا مال بدعہدی سے کھانا گناہ ہے          |
| ۳۲۶  | ۲۶  | کافر کافر کا وارث نہیں                       |
| ۳۵۳  | ۲۸  | کفر اجنبی معاصی ہے                           |
| ۶۲۲  | ۲۹  | کافر بیعت نہیں کر سکتا                       |
| ۳۳۵  | ۳۰  | جو کافر کو کافر نہ کہے خود کافر ہے           |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

کتا:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۸۱ | ۳  | مردہ کتا کنویں سے نکلنے کا حکم                     |
| ۳۹۹ | ۴  | کتے کے نجس لعین ہونے کی تحقیق                      |
| ۴۳۱ | ۴  | کتا نجس لعین نہیں ہے                               |
| ۵۵۸ | ۴  | جن کڑاہیوں کو کتے چائیں ان حلوائیوں کے دودھ کا حکم |
| ۵۶۸ | ۴  | کھانے کے پاس کتا ہو تو حکم                         |
| ۳۲۲ | ۴  | کتا کنویں میں گر جائے تو حکم                       |
| ۳۰۴ | ۲۰ | کتے کے زخمی کئے ہوئے جانور کے ذبح کا حکم           |
| ۳۰۴ | ۲۰ | شکاری کتے کے شکار کردہ جانور کی تفصیل              |
| ۲۵۸ | ۲۱ | کتا جائے نماز پر چلا جائے تو حکم                   |

کھجور:

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ۶۸۷ | ۳ | کھجور حیوانیت کا حامل ہے |
|-----|---|--------------------------|

کرامت:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۴۱۰ | ۵  | حضرت زید سے کرامت کا ظہور                 |
| ۵۴۹ | ۲۱ | کرامت کی دو قسمیں ہیں                     |
| ۳۸۳ | ۲۱ | کرامات غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ          |
| ۳۸۹ | ۲۱ | کرامات غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ          |
| ۳۹۱ | ۲۱ | کرامات غوث اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ          |
| ۱۵۶ | ۲۳ | کرامات اولیاء کی برکتیں                   |
| ۴۰۳ | ۲۸ | شب معراج کرامات غوثیہ پر سوالات کے جوابات |
| ۶۲۹ | ۲۹ | غوث پاک کی کشتی ترانے کی کرامت            |

کربلا:

|     |    |                     |
|-----|----|---------------------|
| ۵۴۱ | ۱۴ | کربلا و احوال کربلا |
|-----|----|---------------------|



| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                                 |
|------|-----|---|
| ۷۴۰  | ۲۳  | واقعات کربلا کے بیان کو صحیح کرنے کی وجوہ   |
| ۵۰۱  | ۲۳  | میدان کربلا میں حضرت قاسم کی شادی ثابت نہیں |

کسب:

|         |    |                     |
|---------|----|---------------------|
| ۲۵۴     | ۲۰ | قصاب کا کسب جائز    |
| ۲۵۸     | ۲۱ | تصویر کے کسب کا حکم |
| ۶۲۰۵۵۰۷ | ۲۳ | کسب کے مشترک مسائل  |

کشتی:

|     |   |                            |
|-----|---|----------------------------|
| ۲۵۴ | ۳ | کشتی میں نماز کا حکم       |
| ۱۱۳ | ۵ | کشتی میں نماز پڑھنے کا حکم |

کفارہ:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۱۶۵     | ۸  | قضا نماز کے کفارہ کا کون مستحق ہے                |
| ۱۶۶     | ۸  | میت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا طریقہ            |
| ۱۷۵     | ۸  | کفارہ میں قرآن شریف دینے کا مسئلہ                |
| ۵۱۳۵۲۰  | ۱۰ | باب القضاء والکفارة                              |
| ۵۹۵     | ۱۰ | کفارہ صوم کی شرائط                               |
| ۲۸۱     | ۱۳ | کفارہ تمہار کی تفصیل                             |
| ۵۰۷     | ۱۳ | کفارہ قسم  |
| ۶۱۱۵۶۰۹ | ۱۳ | باب الکفارة                                      |
| ۳۰۷     | ۱۳ | کفارہ کس گناہ کا ہے                              |
| ۴۶۱     | ۱۶ | مسجد کی رقم اپنے صرفہ میں لایا تو کفارہ کی تدبیر |

کفالتہ / کفالت:

|     |    |                          |
|-----|----|--------------------------|
| ۲۶۶ | ۱۰ | ماں کی کفالت لڑکے پر ہے  |
| ۲۶۶ | ۱۰ | بہن کی کفالت بھائی پر ہے |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|------|-----|---|
| ۲۳۹  | ۱۳  | کفالہ بشرط براءتہ اصل حوالہ ہے          |
| ۲۲۳  | ۱۳  | وجوب نفقہ بطور کفالہ                    |
| ۱۱۴  | ۱۶  | جائداد کا قرضہ میں مکفول کرنا ناجائز ہے |

کفن:

|        |    |                                     |
|--------|----|-------------------------------------|
| ۱۳۳۷۹۹ | ۹  | کفن میت                             |
| ۱۰۶    | ۱۰ | مال زکوٰۃ سے کفن میت ناجائز         |
| ۶۱۱    | ۲۳ | ہر مسلمان کا کفن دفن کا حکم         |
| ۲۲۷    | ۲۵ | کفن دفن کا خرچ ترکہ سے منہا ہوگا    |
| ۵۹۱    | ۲۵ | مردہ کا کفن دفن مقدم ہے             |
| ۵۲۵    | ۲۹ | سب مسلمان قبروں سے کفن میں اٹھیں گے |

کفو / کفایۃ :

|        |    |                                      |
|--------|----|--------------------------------------|
| ۷۰۹    | ۳  | کفو کا معنی                          |
| ۱۶۹    | ۱۱ | کفویا ہے                             |
| ۲۱۴    | ۱۱ | بالغہ کا کفو میں نکاح کا حکم         |
| ۲۸۰    | ۱۱ | بالغہ کا غیر کفو میں نکاح کا حکم     |
| ۳۸۳    | ۱۱ | کوئی بد مذہب سنی کی بیٹی کا کفو نہیں |
| ۷۳۳۷۸۸ | ۱۱ | باب الکفایۃ                          |
| ۳۹۹    | ۱۲ | کفو کا معنی                          |
| ۴۰۸    | ۱۲ | غیر کفو میں عورت کا نکاح             |
| ۳۱۶    | ۱۳ | غیر کفو میں نکاح کب جائز             |
| ۳۵۷    | ۱۸ | مرد و عورت ایک دوسرے کے کفو ہیں      |
| ۲۲۹    | ۲۳ | کفو میں شادی                         |
| ۶۵۵    | ۲۵ | غیر کفو میں نکاح کا حکم              |

| صفحہ | رد | عنوان مسئلہ |
|------|----|-------------|
|------|----|-------------|

کتواں :

|            |    |  |
|------------|----|--|
| ۲۵۴        | ۲  | کتویں میں بے وضو گھسا تو کتنے ذول ثلثیں                      |
| ۲۵۵        | ۲  | بئر کا معنی  |
| ۲۵۶        | ۲  | صہرچ، حوض بئر کے معانی کی تحقیق                              |
| ۲۸۵        | ۲  | کتویں کا دور کتنا ہو   |
| ۲۷۲        | ۲  | عورتوں بچوں کے پانی بھرنے سے کتواں ناپاک نہیں ہوتا           |
| ۲۷۵        | ۲  | بچے کے نہالے کا کھڑا کتویں میں گرے تو حکم                    |
| ۲۷۶        | ۲  | استمہالی جوتا کتویں میں گرے تو حکم                           |
| ۲۵۰        | ۳  | کتویں کے پانی کا رنگ، بو، مزہ خود بدلے تو حرج نہیں           |
| ۷۲۰ تا ۲۸۵ | ۳  | کتویں کے مسائل باب المیاء کے ضمن میں                         |
| ۳۳۹        | ۴  | کتویں سے جو چھو ہا کلا آدمی کھال گلی ہے مگر پھٹا نہیں تو حکم |
| ۳۴۱        | ۴  | کتواں حوض جتنا ہو اور گہری اس میں سرگئی پھٹ گئی تو حکم       |
| ۱۱۰        | ۸  | مسجد کے کتویں سے تمام لوگوں کا پانی بھرنا                    |
| ۲۸۸        | ۲۵ | کتویں میں قیمہ نابالغ اپنا پانی ڈال دے تو حکم                |


کنایات:

|            |    |                                       |
|------------|----|---------------------------------------|
| ۱۲۸        | ۱۱ | کنایات محتاج نیت                      |
| ۶۳۶ تا ۵۱۳ | ۱۲ | باب الکلتیۃ                           |
| ۱۱۹        | ۱۳ | کنایات تین طرح کے ہیں                 |
| ۲۹۰        | ۱۳ | اپنا ٹھکانہ دوسری جگہ کر لے کنا یہ ہے |
| ۳۷۰        | ۱۳ | میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کنا یہ ہے   |

کتواں :

دیکھئے غراب

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|



گالی :

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۱۲۶ | ۲۱ | عالم کو گالی دینے والے کا حکم        |
| ۱۲۷ | ۲۱ | جاہل مسلمان کو گالی دینے والے کا حکم |
| ۱۲۹ | ۲۱ | عالم کو گالی دینے والے کا حکم        |
| ۱۷۶ | ۲۱ | سرکار کو گالی دینے والے کا حکم       |

گرد :

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| ۳۲۹ | ۳ | گرد آلود ہاتھ چہرے پر پھیرنا منع ہے |
|-----|---|-------------------------------------|

گرہن :

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ۳۲۶ | ۳ | سورج گرہن                |
| ۳۳۲ | ۳ | سورج گرہن کی نماز        |
| ۳۳۵ | ۳ | سورج گرہن کی نماز کا حکم |

گزر :

|     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| ۲۶۰ | ۲ | گزر شرعی کی مقدار وہ درودہ حوض میں |
|-----|---|------------------------------------|

گناہ :

|     |    |                                 |
|-----|----|---------------------------------|
| ۸۲۸ | ۱  | وضو سے گناہ دھلنے کی مثالیں     |
| ۶۶  | ۲  | گناہوں کا علاج                  |
| ۶۲۵ | ۱۳ | گناہ کی اقسام                   |
| ۳۹۸ | ۱۶ | جیسا گناہ ویسی توبہ             |
| ۱۱۳ | ۱۶ | بیع فاسد کو فسخ نہ کرنا گناہ ہے |
| ۲۵۸ | ۲۲ | جیسا گناہ ویسی توبہ             |
| ۳۲۲ | ۲۳ | جیسا گناہ ویسی توبہ             |


| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

گوشت:

|     |    |                         |
|-----|----|-------------------------|
| ۵۶۵ | ۲  | گوشت کے خون کا حکم      |
| ۶۸۶ | ۲  | گوشت کی قسم کا حکم      |
| ۵۹۷ | ۱۳ | منت شری کے گوشت کا حکم  |
| ۵۵۴ | ۱۳ | گوشت کی فضیلت کی احادیث |

گاؤکشی:

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| ۵۴۵ | ۱۳ | گاؤکشی کی مفصل تحقیق        |
| ۷۱۰ | ۱۳ | گاؤکشی سے متعلق سوال و جواب |



لباس:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۹۶      | ۲  | لباس پہننا بھولہ بدن کے ہے                       |
| ۲۷۲     | ۱۳ | لباس نصاریٰ کا حکم                               |
| ۶۳۲     | ۲۱ | مشروکوں کے تیار کردہ ملبوسات کا حکم              |
| ۱۹۹۷۱۵۵ | ۲۲ | لباس کا بیان                                     |
| ۱۰۱     | ۲۳ | جس لباس کا پہننا ناجائز اس میں نماز مکروہ تحریمی |
| ۷۵۶     | ۲۳ | محرم میں سیاہ کپڑوں کا حکم                       |

لکھیہ:

دیکھئے ڈاڑھی:

لعان:

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| ۳۷۲ | ۱۳ | لعان کی شرط                      |
| ۳۷۲ | ۱۳ | لعان کا سقوط                     |
| ۵۳۲ | ۱۸ | متلاعنین کب تک نکاح نہیں کر سکتے |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

لغت :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۲۰ | ۱  | اذعان کا معنی                          |
| ۲۲۱ | ۱  | اعتقاد کا معنی                         |
| ۲۲۲ | ۱  | ضروریات دین کا معنی                    |
| ۵۰۳ | ۷  | لفظ زعم کا محاورہ عرب میں معنی         |
| ۵۰۰ | ۸  | بین یدی کے معنی کی تفصیلی مدلل وضاحت   |
| ۲۲۵ | ۹  | قیام کے دو معنی                        |
| ۲۵۵ | ۹  | لفظ ”عن“ کا استعمال اور حکم            |
| ۵۱۵ | ۹  | اوتارا اور چڑھاوا کے معنی میں فرق      |
| ۱۹۵ | ۱۰ | کان یفعل تکرار میں نص نہیں ہے          |
| ۲۳۶ | ۱۰ | افطرت کا معنی میں نے افطار کیا ہے      |
| ۲۳۱ | ۱۰ | لفظ عند کی لغوی بے مثال تحقیق          |
| ۱۸۲ | ۱۱ | ہماری زبان میں صیغہ ماضی کا استعمال    |
| ۳۸۶ | ۱۱ | جواز کا اطلاق کبھی نفاذ پر بھی ہوتا ہے |
| ۳۸۷ | ۱۱ | جواز بمعنی لزوم بھی استعمال ہوتا ہے    |
| ۳۹۳ | ۱۱ | قلب کی وجہ تسمیہ                       |
| ۲۳۳ | ۱۱ | السبب کا معنی                          |
| ۵۶۳ | ۱۲ | فارغ خطی کا معنی و تشریح               |
| ۵۷۳ | ۱۲ | لفظ وطن کا مفہوم                       |
| ۶۳۲ | ۱۲ | لفظ ”سرکار“ کا معنی                    |
| ۱۸۷ | ۱۵ | ایمان کا ترجمہ اردو میں                |
| ۳۰۷ | ۱۵ | رام کے معنی                            |
| ۵۷۹ | ۱۷ | مصوب و تصویب کا معنی                   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                  |
|------|-----|--|
| ۵۷۹  | ۱۷  | دیں کے لیں کے وعدہ ہے عقلمند                 |
| ۴۴۶  | ۱۸  | بہرہ کے لفظ کی تحقیق                         |
| ۴۶۴  | ۱۸  | لفظ چہرہ کس کا اطلاق                         |
| ۴۱۶  | ۱۹  | لفظ ترا اور تراست کا فرق                     |
| ۴۲۵  | ۲۰  | لفظ بیم صرف الوکے لئے موضوع نہیں             |
| ۴۱۵  | ۲۰  | مصرفہ اور نگرہ میں معین وغیر معین کا قاعدہ   |
| ۴۴۱  | ۲۰  | ضمان کی تعریضات                              |
| ۴۴۷  | ۲۰  | ضمان اور میں ایک نوع ہے                      |
| ۵۶۱  | ۲۰  | خطام کے معنی اور اطلاقات                     |
| ۴۴۶  | ۲۰  | دنبہ اور بھیڑ ایک نوع ہیں                    |
| ۴۵۴  | ۲۱  | بہاتما کے معنی                               |
| ۴۴۷  | ۲۱  | لفظ شہنشاہ کے استعمال اور مخ و جواز پر تحقیق |
| ۴۴۸  | ۲۱  | قاضی القضاۃ کا معنی                          |
| ۴۵۲  | ۲۱  | قاضی القضاۃ اور قاضی القضاۃ میں فرق          |
| ۴۴۹  | ۲۱  | امیر الامراء خان خاناں اور بگام بگ کا معنی   |
| ۴۷۸  | ۲۱  | روضہ کا معنی                                 |
| ۵۲۴  | ۲۱  | طریق، طریقہ اور طریقت کا معنی                |
| ۱۱۷  | ۲۲  | زر کے لغوی معنی کی تحقیق                     |
| ۱۱۸  | ۲۲  | لفظ علاقہ کے معنی کی تحقیق                   |
| ۱۱۹  | ۲۲  | زر الطیلسان کا لغوی معنی                     |
| ۱۲۳  | ۲۲  | حلی کا لغوی معنی                             |
| ۱۹۶  | ۲۲  | معصوم معصوم کا معنی                          |
| ۵۹۶  | ۲۲  | ڈاڑھی کولجیہ کہنے کی وجہ                     |
| ۱۹۹  | ۲۳  | شیخ کے معانی                                 |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                    |
|------|-----|--------------------------------|
| ۲۵۵  | ۲۳  | شیخ کے معانی اور اطلاقات       |
| ۲۱۴  | ۲۳  | قرع اور قلع کا معنی            |
| ۲۳۳  | ۲۳  | طرب کا معنی                    |
| ۲۲۸  | ۲۳  | صداکس کو کہتے ہیں              |
| ۲۷۲  | ۲۳  | تبراء کا معنی                  |
| ۵۰۲  | ۲۳  | کتھم کا معنی                   |
| ۵۰۲  | ۲۳  | وسمہ کا معنی                   |
| ۵۱۸  | ۲۳  | طمی کا معنی                    |
| ۵۲۶  | ۲۳  | حروف کی اقسام                  |
| ۱۷۱  | ۲۳  | معنی وعظ                       |
| ۶۲۷  | ۲۳  | سومنات کا معنی                 |
| ۶۹۵  | ۲۳  | ایہام کی تعریف                 |
| ۷۰۱  | ۲۳  | عبداور بندہ میں فرق نہیں       |
| ۷۰۲  | ۲۳  | مالکیت کے معنی کی تحقیق        |
| ۱۸۰  | ۲۶  | آق اور عاق کے معنی             |
| ۳۳۳  | ۲۶  | خلف کا معنی                    |
| ۲۵۹  | ۲۶  | عالین کا معنی                  |
| ۲۶۳  | ۲۶  | دون کے معانی                   |
| ۲۸۹  | ۲۶  | رجفہ کی معنوی تحقیق            |
| ۵۳۶  | ۲۶  | قرن کا معنی                    |
| ۶۰۱  | ۲۶  | موت کا معنی                    |
| ۹۰   | ۲۷  | امیر اور میر میں کوئی فرق نہیں |
| ۲۰۵  | ۲۷  | زوال کا معنی                   |
| ۲۱۲  | ۲۷  | امساک کا معنی                  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                   |
|------|-----|-------------------------------|
| ۷۹   | ۲۸  | حیثی اور ری بالتشیع میں فرق   |
| ۲۰۶  | ۲۸  | عند کے معنی کی تحقیق          |
| ۲۰۸  | ۲۸  | عند اور لدی کا فرق            |
| ۲۱۳  | ۲۸  | عند کے استعمال کے مواقع       |
| ۲۲۳  | ۲۸  | علی کی بحث                    |
| ۳۲۳  | ۲۸  | معنی قرب اور اس کی مثالیں     |
| ۳۲۳  | ۲۸  | قرب کی اقسام                  |
| ۵۶۳  | ۲۸  | افعل التفضیل کا معنی          |
| ۳۰۶  | ۲۸  | وسط اور وسط کی بحث            |
| ۶۸   | ۲۹  | برس کا عربی میں نام اور معنی  |
| ۸۵   | ۲۹  | کلیل و عقل کا معنی            |
| ۳۳۲  | ۲۹  | نہی کا معنی                   |
| ۵۷   | ۲۹  | کرنا کر لینا کر دینا میں فرق  |
| ۱۶۶  | ۲۹  | مقام و نزل کے معانی           |
| ۸۹   | ۳۰  | نظین اور نعل کے معانی کا بیان |
| ۶۸۵  | ۳۰  | نور کے دو معنی ہیں            |

لقمہ :

|            |   |   |
|------------|---|---|
| ۲۸۶        | ۷ | لقمہ دینے کے کچھ اصول                                 |
| ۲۱۲        | ۷ | ہر نماز میں لقمہ دینا جائز ہے                         |
| ۲۱۳ تا ۲۱۲ | ۸ | امام کے قعدہ اولیٰ میں زیادہ دیر لگانے پر لقمہ کا حکم |
| ۲۱۲        | ۸ | لقمہ دینے کے بعض الفاظ                                |
| ۲۱۹        | ۸ | امام تراویح میں قنوت بھول جائے تو احکام               |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

لگان :

|     |    |                                 |
|-----|----|---------------------------------|
| ۱۸۹ | ۲۰ | لگان پر اضافہ کی ایک صورت       |
| ۱۹۰ | ۲۰ | لگان کی شرح خود بڑھ جائے تو حکم |
| ۱۹۷ | ۲۰ | شرکاء کے حصہ کا لگان کب واجب    |

لہو و لعب :

|        |    |                                     |
|--------|----|-------------------------------------|
| ۲۹۰    | ۱  | عبث کا معنی اور حکم                 |
| ۲۹۷    | ۱  | عبث کی ۱۲ تعریفیں اور تحقیق         |
| ۱۶۲۷۷۵ | ۲۳ | لہو و لعب کی مختلف صورتیں اور اقسام |



مباح :

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۵۱۴      | ۲  | بچے کو چیز بہہ ہوئی تو والدین کو کھانا مباح ہے |
| ۴۶۴      | ۳  | پانی پر قدرت کے لئے مباح کرنا کافی ہے          |
| ۶۴۱      | ۶  | مباح کے احکام                                  |
| ۶۴۲      | ۸  | خلاف اولیٰ مباح ہے                             |
| ۳۱۲، ۳۰۷ | ۱۲ | مباح   |

مباحلہ :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۱۸۹ | ۲۱ | مباحلہ کیا ہے، کب اور کس سے کس طرح ہوگا |
|-----|----|---|

متارکہ :

|     |    |                                    |
|-----|----|------------------------------------|
| ۳۶۵ | ۱۱ | حرمت مصاہرہ کے بعد متارکہ ضروری ہے |
| ۴۲۲ | ۱۱ | متارکہ اور فسخ میں کوئی فرق نہیں   |
| ۴۲۴ | ۱۱ | ناکح متارکہ نہ کرے تو حکم          |
| ۴۲۹ | ۱۱ | متارکہ و فسخ میں فرق کی تحقیق      |
| ۱۶۰ | ۱۲ | متارکہ فسخ ہے                      |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                  |
|------|-----|------------------------------|
| ۲۵۷  | ۱۳  | متارکہ محرمات سے نکاح کے بعد |
| ۲۵۷  | ۱۳  | بصورت متارکہ عدت             |
| ۲۳۵  | ۲۱  | حرمیت مصاہرت پر متارکہ لازم  |

حد:

|     |    |                                 |
|-----|----|---------------------------------|
| ۱۹۲ | ۱۱ | نکاح حد کی صورت                 |
| ۲۳۶ | ۱۱ | حد حرام ہونے کا قرآن سے ثبوت    |
| ۲۳۹ | ۱۱ | حد کرنے والا حقیقی رہا یا نہیں  |
| ۳۳۹ | ۱۱ | حرمیت حد کا بیان قرآن و حدیث سے |
| ۲۸۲ | ۱۱ | حد زناہ مگر حد نافذ نہیں ہوگی   |
| ۳۲۳ | ۱۲ | حد کا بیان                      |
| ۳۶۸ | ۱۲ | حد کا بیان                      |

مجتہد:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۱۹ | ۴  | ایک مجتہد دوسرے مجتہد کو اپنی تقلید پر مجبور نہ کرے |
| ۳۸۲ | ۱۲ | مجتہد صدیوں سے منقود ہے                             |
| ۳۳۵ | ۲۹ | اجتہاد کی خطا کی دو قسمیں                           |

مجدد:

|    |    |  |
|----|----|--|
| ۴۱ | ۲۷ | مجدد مائید                                   |
| ۸۲ | ۲۷ | مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ کے کلام سے استدلال |

مجلس / مجالس / محافل :

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۲۳۵      | ۸  | ایجاب و قبول کے مرتبطہ کے لئے مجلس واحد شرط ہے |
| ۳۲۷      | ۸  | مجلس تبدیل ہونے کی بعض صورتوں کا بیان          |
| ۱۷۰      | ۱۱ | عورت کے پردے میں ہونے سے مجلس نہیں بدلتی       |
| ۱۷۱      | ۱۱ | اگر مجلس نہ بدلے تو فوری قبول ضروری نہیں       |
| ۶۳۳، ۶۳۸ | ۱۲ | مجلس واحد کا ایک مسئلہ                         |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                     |
|---------|-----|---------------------------------|
| ۶۱۲     | ۲۲  | مجلس بدکا اثر                   |
| ۲۱۳     | ۲۲  | مجلس بد اور صالح کے اثر پر حدیث |
| ۱۱۸     | ۲۳  | مجلس میں تلاوت صحابہ کی سنت     |
| ۷۶۷۷۷۲۱ | ۲۳  | مجالس و محافل کا بیان           |
| ۵۵۳۷۲۹۵ | ۲۶  | میلا دا اور گیارہویں شریف       |

مجنون: دیکھئے جنون:

محافل: دیکھئے مجلس:

محراب:

|     |   |                                |
|-----|---|--------------------------------|
| ۳۸۳ | ۶ | محراب اور در کا بیان           |
| ۱۲۸ | ۷ | محراب میں جماعت ثانیہ مکروہ ہے |

محرمات:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۵۲۰۷۳۱۱ | ۱۱ | محرمات کا بیان                                   |
| ۲۰۱     | ۱۲ | ایک بہن کی عدت میں دوسری بہن سے نکاح             |
| ۲۰۸     | ۱۲ | کسی عورت کے رکھنے کے بعد اس کی بیٹی رکھی تو حرام |
| ۲۵۷     | ۱۳ | محرمات سے نکاح کا حکم                            |
| ۱۷۱     | ۲۶ | داماد محرم اور بیٹے کی طرح ہے                    |

مداینات: دیکھئے دین:

مدرسہ:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۸۸ | ۲  | مدارس کا پانی وقف ہے                              |
| ۱۱۶ | ۸  | مسجدوں میں مدرسے قائم کرنے کی شرائط               |
| ۲۵۶ | ۹  | قبرستان میں بغیر قبر کی جگہ پر مدرسہ بنانے کا حکم |
| ۲۸۰ | ۱۶ | مدرسہ میں مسجد کا پیسہ لگانا حرام                 |
| ۲۲۲ | ۱۶ | مدرسہ بنانا بدعت مستحسنہ ہے                       |
| ۲۸۸ | ۲۰ | مدرسہ میں قربانی کی کھال کا حکم                   |

| صفحہ     | جلد | موضوع مسئلہ                                   |
|----------|-----|---|
| ۲۳۹، ۲۳۷ | ۲۱  | دینی مدرسہ میں باگری حکومت کی آمد لینے کا حکم |

مذی :

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۵۶۳ | ۲ | نرنے اپنی مذی جی سے پانی میں ڈالنا حکم |
| ۲۳۳ | ۳ | مسی یا غیر مذی کے نہیں نقلی            |

مرد:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۹۶۳ | ۱  | مسلمان کہلانے والے ۱۰ مرد فرقوں کا بیان                  |
| ۹۶۷ | ۱  | مردوں کا حال جاننے والی کتابوں کا پتہ                    |
| ۲۵۷ | ۳  | غیر اللہ کی عبادت کی نیت سے تعظیم کرنے پر مرد ہو جائے گا |
| ۱۵۳ | ۱۱ | نکاح کے بعد مرد ہو گیا تو اولاد کا حرام سے ہونا ظاہر     |
| ۱۷۳ | ۱۱ | مرد سے نکاح پر ہونے کا حکم                               |
| ۲۱۸ | ۱۱ | مرد کو مکمل بنانا جائز                                   |
| ۲۱۹ | ۱۱ | مرد کی گواہی مستحکم نہیں                                 |
| ۲۲۲ | ۱۱ | مرد کا ارتداد صحیح نکاح فی الحال ہے                      |
| ۳۶۷ | ۱۱ | مرد اور مردہ کا حکم شرعی کیا ہے                          |
| ۵۰۸ | ۱۱ | مرد کا نکاح جہاں میں کسی سے نہیں ہو سکتا                 |
| ۲۶۳ | ۱۲ | مردہ اور مرد کا نکاح                                     |
| ۲۰۳ | ۱۲ | عورت مردہ ہو کر مسلمان ہو تو حکم                         |
| ۳۱۵ | ۱۳ | نکاح مرد و مردہ کسی سے نہیں                              |
| ۱۲۹ | ۱۳ | مردہ کا حکم  |
| ۲۹۸ | ۱۳ | مردین کے احکام   |
| ۳۰۰ | ۱۳ | توبہ مرد کی تفصیل  |
| ۳۲۰ | ۱۳ | مرد سے سلام کلام کا حکم                                  |
| ۳۲۸ | ۱۳ | مرد کی اقسام   |
| ۲۰۲ | ۱۳ | مردین کے احکام   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                       |
|------|-----|-----------------------------------|
| ۴۱۲  | ۱۴  | مرد اور کافر کا فرق               |
| ۵۹۳  | ۱۴  | مرد سے قطع تعلق فرض               |
| ۶۳۵  | ۱۴  | مرد کے احکام                      |
| ۶۸۲  | ۱۴  | ارتداد سے فسخ نکاح                |
| ۴۲۱  | ۱۴  | مردہ عورت سے سلوک                 |
| ۲۶۲  | ۱۵  | مرد سے میل جول حرام               |
| ۲۷۸  | ۱۵  | مردین کے احکام کی تفصیل           |
| ۴۰۴  | ۱۶  | مرد کی بنائی مسجد کا حکم          |
| ۴۰۴  | ۱۶  | مرد کے کسب کی اقسام اور حکم       |
| ۵۰۶  | ۱۶  | مرد کی بنائی مسجد کا حکم          |
| ۵۲۳  | ۱۶  | مردہ کا مسجد میں کوئی حق نہیں     |
| ۶۱۵  | ۱۶  | مرد کے لئے مہلت 3 دن ہے           |
| ۳۲۹  | ۱۷  | مرد سے عقود فاسدہ کا حکم          |
| ۳۳۸  | ۱۷  | ہر مرد بدترین کافر ہے             |
| ۱۵۷  | ۲۱  | مرد کے لئے مسلمان پر کوئی حق نہیں |
| ۲۳۱  | ۲۱  | مردہ کے احکام                     |
| ۲۳۲  | ۲۱  | مردہ شوہر کا ترکہ نہ پائے گی      |
| ۳۱۸  | ۲۶  | مرد کسی کا وارث نہیں              |

مردہ : دیکھئے موت :

مرشد :

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۲۸۰ | ۲ | نامحرم عورت کا اپنے مرشد کا جھوٹا پانی پینے کا حکم |
|     |   | مزید دیکھئے : پیر                                  |

مرض / مریض / مرض الموت :

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۲۵۳ | ۳ | مریض جو قیام پر قادر نہ ہو تو اس کا حکم |
|-----|---|---|



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۲۲۷  | ۱۹  | مرض الموت کی تعمیر                                    |
| ۲۳۹  | ۱۹  | مرض الموت کا بہہ                                      |
| ۲۴۰  | ۱۹  | مرض الموت کے بہا حکم                                  |
| ۳۲۶  | ۱۹  | بہہ مرض موت میں                                       |
| ۳۸۳  | ۱۹  | مرض الموت کا بہہ                                      |
| ۲۳۳  | ۲۱  | عورت مرض الموت میں مرتدہ ہو تو حکم                    |
| ۲۳۳  | ۲۲  | مرد و اکثر سے اجنبی مرینہ عورت کو ملاحظہ کرانے کا حکم |
| ۳۱۷  | ۲۵  | مرض الموت کی تعریف                                    |
| ۲۵۳  | ۲۵  | مرض الموت میں بہہ کے احکام                            |
| ۲۵۷  | ۲۵  | مرض الموت کی تعریف                                    |

مرید :

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| ۲۷۰     | ۱۹ | مرید کے کس قول سے حج بیعت ہوگی |
| ۳۶۸     | ۲۳ | مرید کے حج پر حقوق             |
| ۶۰۳۵۵۵۵ | ۲۶ | مریدی کے آداب                  |

حزرات :

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۵۱ | ۵  | حزرات کے ساتھ مسجد                             |
| ۳۰۲ | ۷  | حزرا کا دروازہ بند ہو تو اس کی طرف نماز کا حکم |
| ۳۸۵ | ۹  | حزرات پر روشنی                                 |
| ۳۹۳ | ۹  | حزرات پر عمارتیں                               |
| ۳۳۱ | ۱۱ | حزرات پر قبہ                                   |
| ۲۳۸ | ۱۶ | حزرات اولیاء کی حفاظت کے لئے وقف حج            |
| ۶۳۳ | ۲۱ | حزرات پر مردوں کی حاضری کا حکم                 |
| ۳۹۵ | ۲۲ | حزرات اولیاء کا مقام                           |
| ۱۱۱ | ۲۳ | حزرات پر عورتوں کی حاضری                       |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|------|-----|---|
| ۴۰۲  | ۲۳  | مزارات پر چادر چڑھانے کا حکم                    |
| ۴۰۷  | ۲۳  | مزارات پر شیرینی تقسیم کرنا جائز                |
| ۴۳۲  | ۲۶  | مزارات حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کہاں ہیں |
| ۴۳۳  | ۲۹  | مزارات کی مٹی منہ پر ملنے کا حکم                |
| ۴۳۳  | ۲۹  | مزارات پر حاضری کا حکم                          |
| ۵۳۳  | ۲۹  | مزارات پر مرادیں مانگنے کا حکم                  |

## مزارعت :

|         |    |                           |
|---------|----|---------------------------|
| ۱۰۹     | ۱۲ | مزارعت جائز ہے            |
| ۲۱۰۵۱۷۹ | ۲۰ | کتاب المزارعة             |
| ۲۷۶     | ۲۵ | کاشتکار کھیت کا مالک نہیں |

## مزامیر:

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| ۶۰۸ ، ۵۹۶ | ۶  | مزامیر حرام ہیں                                  |
| ۶۳۳       | ۱۳ | مزامیر حرام ہیں                                  |
| ۱۵۳       | ۱۵ | مزامیر حرام ہیں                                  |
| ۱۵۵       | ۱۶ | مزامیر معصیت ہے                                  |
| ۶۰۳       | ۲۱ | مزامیر جائز نہیں                                 |
| ۴۰۷       | ۲۲ | مزامیر جائز نہیں                                 |
| ۷۹        | ۲۳ | مزامیر کی نسبت کبرائے سلسلہ چشتیہ کی طرف باطل ہے |
| ۱۳۸       | ۲۳ | مزامیر کی حرمت پر دلائل                          |
| ۵۵۷       | ۲۳ | مزامیر و گانا سننے کا حکم                        |

مسافر : دیکھئے سفر :

## مسابوق:

|     |   |                             |
|-----|---|-----------------------------|
| ۱۹۳ | ۶ | مسابوق شہادتین کا تکرار کرے |
| ۱۹۳ | ۶ | مسابوق التحیات کو کیسے پڑھے |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|---------|-----|--|
| ۳۹۰     | ۶   | مسیوق کی اقتدائج نہیں                      |
| ۵۲      | ۷   | مسیوق فوت شدہ نماز کو جہر سے پڑھے یا آہستہ |
| ۲۲۳۶۲۲۳ | ۷   | فصل المسوق                                 |
| ۱۹۱     | ۸   | مسیوق بجدہ سوکا سلام نہ کرے                |

مستحب :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۲۸۲ | ۱  | وضو میں کتنی ڈاڑھی دھونا مستحب اور کتنی فرض ہے    |
| ۹۵۰ | ۱  | مستحب سنت کی تکمیل ہے                             |
| ۵۹۵ | ۲  | ولہن کو لانے کے بعد ایک مستحب عمل                 |
| ۲۲۹ | ۳  | نماز کے مستحب وقت میں تیمم منع ہے                 |
| ۳۷  | ۴  | پانی کی تلاش کب واجب کب مستحب ہے                  |
| ۱۵۳ | ۵  | تاخیر مستحب کا معنی کیا ہے                        |
| ۳۳۶ | ۵  | بعد فجر تا اشراق ذکر مستحب ہے                     |
| ۳۳۹ | ۵  | ظہر کا مستحب وقت                                  |
| ۵۶۵ | ۵  | مستحب   |
| ۶۳  | ۶  | ترک مستحب کا حکم                                  |
| ۱۸۲ | ۶  | امام مقتدی کو اللہم اغفر لی کہنا مستحب ہے         |
| ۳۳۵ | ۶  | سورۃ کے اخیر کو تکبیر رکوع سے ملانا کہاں مستحب ہے |
| ۶۴۱ | ۶  | مستحب کے احکام                                    |
| ۹۱  | ۷  | مستحب واجب کے برابر نہیں ہے                       |
| ۶۳۹ | ۹  | میت کے لئے سات دن صدقہ مستحب ہے                   |
| ۳۳۱ | ۱۲ | بے نمازی عورت کو طلاق مستحب ہے                    |
| ۷۴  | ۱۵ | اولیاء سے طلب دعا مستحب ہے                        |

مستعمل :

|        |   |                             |
|--------|---|-----------------------------|
| ۱۴۸۵۳۳ | ۲ | مستعمل پانی اور اس کے فوائد |
|--------|---|-----------------------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۲۵۰  | ۲   | حوض کے مستعمل پانی کو قابل وضو بنانے کے دو طریقے    |
| ۳۹۲  | ۲   | ٹھہرے پانی کو بہا کر وضو کیا تو پانی مستعمل نہ ہوگا |
| ۴۱۷  | ۲   | برف جسے پانی کے مستعمل ہونے کی صورت                 |
| ۵۴۱  | ۲   | پانی میں ماءِ مستعمل کی دھار پہنچے تو حکم           |
| ۷۱۷  | ۳   | تیمم سے مٹی مستعمل نہیں ہوتی                        |
| ۳۳۵  | ۴   | ماءِ مستعمل ناپاک نہیں ہے                           |
| ۶۰۶  | ۲۲  | مستعمل پانی مکروہ ہے                                |

مسجد :

|      |   |   |
|------|---|---|
| ۱۶۶  | ۱ | ایک مسجد کی چیزیں دوسری مسجد میں دینے کی شرط      |
| ۱۰۷۱ | ۱ | حالت ناپاک کی میں مسجد میں جانا                   |
| ۸۲۶  | ۱ | مسجد میں سواک کا حکم                              |
| ۸۳۸  | ۱ | منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں جانا منع              |
| ۴۷   | ۲ | وضو غسل کا پانی مسجد میں ڈالنا حرام ہے            |
| ۵۳   | ۲ | مسجد کا فرش بیت ثواب دھوئے تو پانی کا حکم         |
| ۴۷۹  | ۳ | غیر معتکف کو مسجد میں سونا منع                    |
| ۴۸۰  | ۳ | ناپاک کی حالت میں مسجد سے گزرنا حرام              |
| ۴۸۵  | ۳ | تیمم کر کے مسجد سے گزرے                           |
| ۴۸۶  | ۳ | مسجد میں وضو، غسل کرنا حرام سوائے تین صورتوں کے   |
| ۴۸۷  | ۳ | مسجد میں برتن میں وضو کرنے کا حکم                 |
| ۷۳۹  | ۳ | ہاتھ منہ پونچھ کر مسجد میں جھاڑنا حرام ہے         |
| ۷۴۰  | ۳ | مسجد کے چراغ سے کتب بینی کی اجازت کب ہے           |
| ۱۵۶  | ۴ | مسجد محلہ کے احکام                                |
| ۳۲۳  | ۴ | دوپہر کا ڈھلنا مسجد کی کون سی دیوار سے دیکھا جائے |
| ۳۶۳  | ۵ | مسجد کے اندر اذان دینے کا حکم                     |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۳۷۰      | ۵   | اذان مسجد کے کس طرف ہو                                 |
| ۳۷۲      | ۵   | طلب بارش کے لئے مسجد میں اذان کا حکم                   |
| ۳۰۵      | ۵   | سرکار کے زمانہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازہ کی تعداد   |
| ۳۰۹      | ۵   | اذان ثانی جمعہ مسجد کے منارہ پر                        |
| ۵۷۲      | ۶   | مسجد کے لئے وقف شدہ جائے نمازوں پر نماز کا حکم         |
| ۳۷       | ۷   | مسجد میں امام کس جگہ کھڑا ہو                           |
| ۱۱۱      | ۷   | مسجد طریق کا حکم                                       |
| ۱۲۵      | ۷   | مسجد محلہ کے احکام                                     |
| ۱۷۲      | ۷   | امام وسط میں کھڑا ہو                                   |
| ۱۹۲      | ۷   | جذامی کو مسجد سے روکا جائے یا نہیں                     |
| ۲۳۱      | ۷   | مسجد کا پچلا حصہ مردوں کے لئے، اوپر والا عورتوں کے لئے |
| ۳۶۲      | ۷   | مسجد کے گن اور اس کے اندر دونوں جگہ جماعت درست ہے      |
| ۳۹۳      | ۷   | مسجد کے حجرہ میں نماز جائز                             |
| ۳۵۰      | ۷   | مسجد میں نماز پڑھے بغیر جانا مکروہ                     |
| ۱۷۷۵۷    | ۸   | باب احکام المسجد                                       |
| ۵۰۲      | ۸   | مسجد میں وضو   |
| ۵۸۷      | ۸   | مسجد میں عید   |
| ۲۵۹      | ۹   | مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں                          |
| ۲۶۳، ۲۶۲ | ۹   | مسجد میں نماز جنازہ ممنوع                              |
| ۲۶۵      | ۹   | مسجد میں نماز جنازہ ممنوع ہے                           |
| ۲۶۶      | ۹   | مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جنازے کی وجہ               |
| ۳۸۰      | ۹   | دو امی پشہ والی زمین پر مسجد بنانا                     |
| ۳۳۹      | ۹   | مسجد کی چھت پر وہلی کا حکم                             |
| ۳۹۲      | ۹   | مسجد کی آرائش تعظیماً جائز                             |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|---------|-----|---|
| ۵۰۴     | ۹   | اصالت مسجد کی بناء فرائض کے لئے ہے              |
| ۱۰۶     | ۱۰  | مسجد میں زکوٰۃ خرچ کرنے کا حیلہ                 |
| ۱۰۸     | ۱۰  | مسجد میں زکوٰۃ خرچ کرنے کا بے خلش طریقہ         |
| ۲۵۶     | ۱۰  | مسجد کے لئے زکوٰۃ خرچ کرنے کی صورت              |
| ۲۶۷     | ۱۰  | مسجد میں زکوٰۃ                                  |
| ۳۰۴     | ۱۰  | مسجدوں میں چندہ کرنے کا حکم                     |
| ۸۴۷     | ۱۰  | ہمیشہ مسجد میں بیٹھنے میں نیت اعتکاف کرے        |
| ۲۸۷     | ۱۳  | مسجد خیر الاماکن                                |
| ۲۸۸     | ۱۳  | مسجد سے تعاون ٹھکرانے والے کا حکم               |
| ۵۸۲     | ۱۳  | ویران مسجد کی آباد کاری ضروری                   |
| ۵۹۰     | ۱۴  | جو مسجد میں ایذا دے اسے نکالا جائے              |
| ۵۴۱     | ۱۴  | مساجد میں مشرک لے جانے کا رد                    |
| ۲۷۱     | ۱۵  | مسجد میں مشرک کو تعظیمنا لے جانا                |
| ۲۷۲     | ۱۵  | مسجد میں گم شدہ چیز کی تلاش                     |
| ۶۳۰۵۲۵۵ | ۱۶  | کتاب المساجد                                    |
| ۱۲۳     | ۱۶  | مسجد کے لئے ہندوؤں کا وقف باطل                  |
| ۱۳۷     | ۱۶  | مسجد کی رقم زمین عمارت میں ناجائز تصرف کا حکم   |
| ۱۵۷     | ۱۶  | مسجد کی آمدن مدرسہ میں لگانے کا حکم             |
| ۱۵۹     | ۱۶  | مسجد میں زائد تعمیر کے لئے شرط                  |
| ۲۳۲     | ۱۶  | مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے                   |
| ۲۳۸     | ۱۶  | مسجد میں فرشی عکھے کا حکم                       |
| ۲۳۹     | ۱۶  | مسجد میں نجس چیز لے جانا حرام ہے                |
| ۲۵۲     | ۱۷  | مسجد میں بیاج کی آمدنی لگانا منع ہے             |
| ۲۵۳     | ۱۷  | مسجد کی رقم سے پرائیسری نوٹوں کی خریداری کا حکم |

| صفحہ        | جلد | موضوع مسئلہ  |
|-------------|-----|--|
| ۶۰۰         | ۱۸  | مسجد کی دیوار کے جزو حصہ پر بھی تصرف باطل            |
| ۶۵۱         | ۱۹  | حرام مال سے مسجد میں کوئی شے دی تو حکم               |
| ۱۷۲         | ۲۰  | مسجد مقروض ہے اور اس کی دیگر ضروریات کے متعلق انتظام |
| ۱۷۳         | ۲۰  | مسجد کے نقصان پر متولی پریشان کی ایک صورت            |
| ۲۸۸         | ۲۰  | مسجد میں قربانی کی کھال کا حکم                       |
| ۳۳۳         | ۲۰  | بدبو کی حالت میں مسجد میں جانا منع ہے                |
| ۵۰۲         | ۲۰  | چرم قربانی کا کھال کر قیمت مسجد میں دینا جائز        |
| ۲۷۳         | ۲۱  | مسجد میں مشرکین کا مجمع توہین مسجد ہے                |
| ۲۷۳         | ۲۱  | کافر کی زمین پر مسجد کا حکم                          |
| ۲۵۸         | ۲۱  | مسجد میں مشرکوں سے لکچرہ کرنا حرام                   |
| ۱۳۰         | ۲۲  | مسجد میں امام کے لئے پاؤں دبوانے کا حکم              |
| ۲۷۹         | ۲۲  | مسجد البیت اور اس کے احکام                           |
| ۲۳۹         | ۲۲  | مسجد میں عورت کے جانے کی شرائط                       |
| ۱۰۶         | ۲۳  | زکوٰۃ، فطرانہ مسجد میں دینے کا حکم                   |
| ۳۷۲         | ۲۳  | کچھ احکام مسجد کا بیان                               |
| ۳۸۰         | ۲۳  | مسجد میں چند مانگنے کی جائز صورتیں                   |
| ۳۸۳         | ۲۳  | مسجد میں جوتے رکھنا                                  |
| ۳۹۶         | ۲۳  | مسجد بنانا خیر کثیر ہے                               |
| ۲۰۶         | ۲۳  | مسجد کا محن بھی مسجد ہے                              |
| ۳۲۷         | ۲۴  | مسجد کے لئے قادیانی سے پیسے نہ لیں                   |
| ۶۲۸         | ۲۵  | دو معین مسجدوں کے لئے وصیت کا حکم                    |
| ۳۹۶         | ۲۶  | ترکہ کمال مسجد میں لگانے کا حکم                      |
| ۱۱۲ (حاشیہ) | ۲۸  | دیواریں اور کونہ بیرون مسجد ہیں                      |
| ۱۳۶         | ۲۸  | مسجد کے اطلاقات کا بیان                              |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                       |
|------|-----|-----------------------------------|
| ۱۶۹  | ۲۸  | مسجد میں گمشدہ چیز کی تلاش کا حکم |

مسح :

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| ۱۱۱۵۱۰۱ | ۲  | مسح کے مسائل                         |
| ۳۰۸     | ۳  | عارضہ فیل پاء کے سبب تیمم کرے یا مسح |
| ۳۷۳     | ۳  | تیمم میں تکرار مسح کا حکم            |
| ۵۰۹     | ۳  | وضو میں سر کا مسح مضر ہو تو احکام    |
| ۳۳۵     | ۴  | سوتی موزوں پر مسح کا حکم             |
| ۳۳۷     | ۴  | بوٹ پر مسح کا حکم                    |
| ۲۵۲     | ۱۴ | موزوں پر مسح کے جواز کے منکر کا حکم  |
| ۵۲۷     | ۳۰ | موزے پر مسح کی مدت                   |

مسواک :

|          |    |                                |
|----------|----|--------------------------------|
| ۳۰۹      | ۱  | مسواک کی مقدار                 |
| ۸۰۰      | ۱  | مسواک وضو کی سنت ہے یا نماز کی |
| ۸۱۳      | ۱  | مسواک سنت ہے یا مستحب          |
| ۸۲۶      | ۱  | مسجد میں مسواک کا حکم          |
| ۵۹۳      | ۲  | مسواک                          |
| ۳۷۱      | ۴  | مسواک                          |
| ۵۵۱، ۵۱۰ | ۱۰ | مسواک                          |
| ۶۳۰      | ۲۱ | سینگ کی مسواک کا حکم           |
| ۶۳۱      | ۲۱ | سنت مسواک کو چھوڑنے کا حکم     |
| ۵۵۱      | ۳۰ | مسواک کا حکم                   |

مشت زنی :

|     |    |                   |
|-----|----|-------------------|
| ۲۰۲ | ۲۲ | مشت زنی کا گناہ   |
| ۲۰۳ | ۲۲ | عدم حرمت کی شرائط |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                            |
|------|-----|--|
| ۲۳۴  | ۲۲  | مشیت زنی کرنے والے کے لئے وظیفات شریعہ |

شرک:

|     |    |              |
|-----|----|--------------|
| ۲۵۷ | ۳  | شرک کے احکام |
| ۱۷۲ | ۱۱ | شرک کے احکام |

مصارف:

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| ۵۹۵۷۵۹۴ | ۱۳ | نذر کے مصارف                   |
| ۵۹۵     | ۱۳ | بے القاط نذر، نذر کا حکم       |
| ۵۹۶     | ۱۳ | مال نذر مطا بطعموں کو بھی جائز |

مصافی / معانقہ:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۶۴۰     | ۶  | نماز کے بعد مصافی جائز ہے                  |
| ۵۷۶     | ۸  | نماز کے بعد مصافی کا حکم                   |
| ۶۰۱     | ۸  | معانقہ بعد العید کے جواز کا بیان           |
| ۶۱۷     | ۸  | معانقہ مصافی کے بارے میں رد مختار کی عبارت |
| ۶۲۷     | ۸  | مصافی ہر نماز کے بعد سلام ہے               |
| ۶۲۹     | ۸  | مصافی میں ہاتھ ہلانے سے گناہ جھڑتے ہیں     |
| ۶۳۲     | ۸  | مصافی بعد نماز جائز ہے                     |
| ۶۳۶     | ۸  | مصافی سے ہاتھ نہ کھینچے                    |
| ۲۶۸۷۲۵۱ | ۲۲ | معانقہ کے احکام                            |
| ۳۳۹۷۲۶۹ | ۲۲ | مصافی دونوں ہاتھوں سے مسنون ہے             |
| ۳۳۷     | ۲۲ | نماز فجر کے بعد مصافی کا حکم               |
| ۴۰۸     | ۲۲ | مصافی میں تکرار کا حکم                     |
| ۴۱۶     | ۲۲ | مصافی کے وقت درود پاک پڑھنا                |
| ۴۱۴     | ۲۲ | عیدین کے بعد مصافی کا حکم                  |
| ۴۱۰     | ۲۲ | نمازوں کے بعد مصافی کا حکم                 |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                          |
|------|-----|--------------------------------------|
| ۴۱۸  | ۲۲  | مسجد میں نمازوں کے بعد مصافحہ کا حکم |
| ۵۶۳  | ۲۲  | نماز فجر و عصر کے بعد مصافحہ سنت ہو  |

مصاہرت:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۴۱۸      | ۱۱ | ساس سے زنا کی کوشش کا حکم                     |
| ۴۱۹      | ۱۱ | منکوحہ کی ماں کو شہوت سے چھونے سے منکوحہ حرام |
| ۴۳۶      | ۱۱ | مذاق میں ساس سے زناء کے اقرار کا حکم          |
| ۴۳۸      | ۱۱ | نکاح کے بعد ساس سے زنا کا اقرار اور اس کا حکم |
| ۴۷۱، ۴۵۴ | ۱۱ | زناء سے حرمت مصاہرت کا ثبوت                   |
| ۴۴۵      | ۱۱ | ثبوت حرمت مصاہرت کے لئے مشتہاۃ ہونا ضروری ہے  |
| ۴۴۶      | ۱۱ | دونوں کا مشتہی و مشتہاۃ ہونا حرمت کی شرط ہے   |
| ۴۵۲      | ۱۱ | خسر نے بہو سے زنا کیا تو حکم                  |
| ۵۲۰      | ۱۱ | حرمت مصاہرت کے لئے کم از کم مراہقہ ضروری ہے   |
| ۴۲۲      | ۱۳ | مصاہرت سے نکاح مرتفع نہیں ہوتا                |
| ۴۵۷      | ۱۳ | منکوحہ کی ماں سے زنا                          |
| ۱۹۰، ۱۸۳ | ۱۸ | ساس سے زناء کا اقرار پھر انکار کا حکم         |
| ۴۴۵      | ۲۱ | حرمت مصاہرت پر متارکہ لازم                    |

مضاربتہ:

|          |    |               |
|----------|----|---------------|
| ۱۵۱، ۱۲۹ | ۱۹ | باب المضاربتہ |
|----------|----|---------------|

مطلق:

|         |   |          |
|---------|---|----------|
| ۴۵۱، ۴۷ | ۲ | مطلق ماء |
|---------|---|----------|

معاشرت:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۴۷۱، ۴۶۷ | ۱۲ | باب المعاشرۃ                               |
| ۴۷۷      | ۱۲ | موجودہ کچھریوں کے فیصلوں سے طلاق نہیں ہوتی |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

معائنہ : دیکھئے معارفہ :

محکمف : دیکھئے احکام :

معجزہ :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۵۴ | ۲۱ | کھانے اور سالن میں برکت کا معجزہ                      |
| ۳۷۸ | ۲۱ | صحابی کے دانت میں نوے برس تک تکلیف نہ ہوئی            |
| ۵۶۲ | ۲۲ | سرکار نے بطور معجزہ نوجوان کے دل سے محبت زنا نکال دی  |
| ۳۸۸ | ۲۲ | گجوروں کے بڑھ جانے کا معجزہ                           |
| ۳۷۵ | ۲۲ | سرکار نے سید احمد رقاعی کے لئے اپنا ہاتھ قبر سے نکالا |

معذور:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۳۷۱ | ۴ | یواسیر والے کے احکام                   |
| ۳۷۲ | ۴ | معذور سب کے وضو سے اشراق نہیں پڑھ سکتا |
| ۶۲۸ | ۶ | معذور کی امامت کا حکم                  |
| ۶۹  | ۷ | پاؤں سے معذور شخص کا حکم               |
| ۷۶  | ۷ | پاؤں کے عذر کی حیثیت کیا ہے            |

معراج:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۸۵،۷۵   | ۵  | معراج سے قبل نماز                              |
| ۷۲      | ۱۵ | معراج جسمانی حق ہے                             |
| ۳۹۲     | ۲۶ | شب معراج نماز کی فرضیت                         |
| ۴۰۸،۴۰۵ | ۲۸ | شب معراج کے کچھ احوال                          |
| ۶۳۳     | ۲۹ | معراج جسمانی کی تفصیل                          |
| ۶۳۷     | ۳۰ | حضور کو معراج کی شب دیدار الہی سر کی آنکھوں سے |
| ۶۳۷     | ۳۰ | معراج کہاں تک ہوئی                             |

مفسدات:

|         |   |                  |
|---------|---|------------------|
| ۲۸۹۷۲۵۳ | ۷ | باب مفسدات صلوٰۃ |
|---------|---|------------------|

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ    |
|---------|-----|----------------|
| ۵۱۰۲۳۸۱ | ۱۰  | باب مفدمات صوم |

مفقود:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۳۳۱      | ۱۱ | احناف کے ہاں عورت کتنا عرصہ انتظار کرے  |
| ۳۳۳      | ۱۱ | مسئلہ زن مفقود                          |
| ۳۱۲      | ۱۱ | زن مفقود کا مسئلہ                       |
| ۳۳۸      | ۱۱ | مسئلہ زن مفقود الخمر                    |
| ۵۰۹      | ۱۲ | مفقود الخمر کی بیوی کے انتظار کی مدت    |
| ۵۰۹      | ۱۲ | مدت انتظار میں دیگر ائمہ کا مذہب        |
| ۵۸۹      | ۱۲ | مفقود الخمر کی بیوی کو نکاح ثانی کی شرط |
| ۳۹۳، ۳۷۹ | ۲۵ | مفقود الخمر وارث کے ترکہ کا حکم         |
| ۲۷۹      | ۲۶ | مفقود کی وراثت کا سوال اور جواب         |

مقامات مقدسہ:

|          |   |                         |
|----------|---|-------------------------|
| ۶۰۷      | ۴ | بیت المقدس              |
| ۶۰۷      | ۴ | بغداد شریف              |
| ۲۶۷، ۱۸۲ | ۵ | مدینہ منورہ             |
| ۲۶۸      | ۵ | مدینہ منورہ             |
| ۳۵۱      | ۵ | قبر اسماعیل علیہ السلام |
| ۳۵۳      | ۵ | حجر اسود                |
| ۳۵۱      | ۵ | میزاب                   |
| ۷۱       | ۶ | شام                     |
| ۷۱       | ۶ | کوفہ                    |
| ۷۱       | ۶ | بغداد                   |
| ۷۱       | ۶ | عراق                    |
| ۲۲۵      | ۷ | مکہ معظمہ               |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                            |
|---------|-----|--|
| ۶۲۲     | ۷   | بغداد شریف                             |
| ۶۲۲     | ۷   | مدینہ منورہ                            |
| ۵۰۶     | ۹   | مسجد نبوی شریف                         |
| ۶۲۱     | ۸   | مکہ معظمہ                              |
| ۶۲۱     | ۸   | مدینہ منورہ                            |
| ۶۲۱     | ۸   | جدہ                                    |
| ۲۶۶     | ۹   | مسجد نبوی                              |
| ۲۶۶     | ۹   | مسجد حرام                              |
| ۵۰۸     | ۹   | مدینہ منورہ                            |
| ۵۱۱     | ۹   | مکہ معظمہ                              |
| ۵۱۲     | ۹   | مدینہ منورہ                            |
| ۶۹۲     | ۹   | حجر اسود                               |
| ۸۰۹     | ۱۰  | مدینہ منورہ                            |
| ۸۰۸     | ۱۰  | مکہ معظمہ                              |
| ۸۰۸     | ۱۰  | مسجد نبوی                              |
| ۸۲۷     | ۱۰  | مسجد نبوی کے ستون                      |
| ۷۲۸ (ج) | ۱۰  | موقف                                   |
| ۷۲۸ (ج) | ۱۰  | بلن عرفہ                               |
| ۷۵۵ (ج) | ۱۰  | جذہ المعلیٰ                            |
| ۵۸۳     | ۱۳  | مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کی توہین کفر   |
| ۱۳۸     | ۱۳  | حجر اسود میں شق کیوں                   |
| ۳۹۰     | ۱۳  | مسجد حرام میں کفار کا داخلہ منع        |
| ۲۱۵     | ۱۵  | مکہ مدینہ کے گرد و نواح کے جنگل کا ادب |
| ۳۲۵     | ۱۶  | مسجد نبوی کی تاریخ                     |

| صفحہ   | جلد | عنوان مسئلہ  |
|--------|-----|--|
| ۱۱۹    | ۲۱  | مدینہ منورہ کی وجہ تسمیہ                                   |
| ۲۶۲    | ۲۱  | مسجد اقصیٰ پر قبضے کی صورت میں مسلمانوں کا جلے کرنے کا حکم |
| ۲۹۷    | ۲۱  | مدینہ منورہ سب شہروں سے افضل ہے                            |
| ۲۵۷۲۲۵ | ۲۱  | مقامات مقدسہ کے نقشے بنانا جائز                            |
| ۲۵۶    | ۲۸  | مسجد نبوی کی آرائش پر ولید کے غیر معمولی مصارف             |

مقدار:

|     |   |                                 |
|-----|---|---------------------------------|
| ۷۷۵ | ۱ | وضو غسل میں پانی کی مقدار       |
| ۷۷۵ | ۱ | مشقال، آستار، رطل، صاع کی مقدار |
| ۷۸۲ | ۱ | ظرف فرق کی مقدار کا بیان        |
| ۷۹۶ | ۱ | صدقہ فطر کی مقدار               |
| ۷۹۶ | ۱ | کفارہ روزہ کی مقدار             |
| ۲۶۰ | ۲ | مقدار گز شرعی                   |
| ۲۶۰ | ۲ | مقدار ذراع کرباس                |
| ۲۶۰ | ۲ | مقدار ذراع مساحت                |
| ۲۶۱ | ۳ | مقدار دلو وسط کی                |
| ۳۱۲ | ۳ | مقدار درہم شرعی کی              |
| ۳۶۳ | ۴ | مقدار دینار شرعی                |
| ۳۶۳ | ۴ | مقدار درہم شرعی                 |
| ۳۲۱ | ۵ | مقدار مغرب                      |
| ۵۲۷ | ۶ | مقدار فاصلہ مابین امام و جماعت  |
| ۲۹۳ | ۸ | مقدار قرأت جمعہ                 |
| ۲۵۵ | ۸ | مقدار منزل کوس فرسنگ            |
| ۳۸۲ | ۹ | مقدار گہرائی قبر                |
| ۳۱۲ | ۹ | قیراط احد سے بڑا                |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                         |
|------|-----|-------------------------------------|
| ۸۵   | ۱۰  | مقدار زکوٰۃ سونا و چاندی            |
| ۲۳۹  | ۱۰  | مقدار صاع                           |
| ۲۳۹  | ۱۰  | مقدار جریب                          |
| ۲۵۲  | ۱۰  | مقدار صدقہ قطر                      |
| ۲۹۵  | ۱۰  | مقدار صاع، باعزازہ انگریزی روپیہ    |
| ۲۹۵  | ۱۰  | مقدار گز شری                        |
| ۲۹۸  | ۱۰  | مقدار صاع و وزن                     |
| ۳۰۲  | ۱۰  | مقدار صاع، باعزازہ انگریزی روپیہ    |
| ۵۲۳  | ۱۰  | مقدار فدیہ برائے روزہ نماز          |
| ۵۲۵  | ۱۰  | مقدار صاع                           |
| ۵۲۵  | ۱۰  | مقدار تولہ                          |
| ۵۲۵  | ۱۰  | مقدار ماشہ                          |
| ۵۲۵  | ۱۰  | مقدار رتی                           |
| ۵۲۵  | ۱۰  | مقدار درہم شری                      |
| ۵۲۵  | ۱۰  | مقدار سات شقال                      |
| ۵۲۶  | ۱۰  | مقدار رطل                           |
| ۵۲۶  | ۱۰  | مقدار استار                         |
| ۵۲۶  | ۱۰  | مقدار شقال                          |
| ۵۲۶  | ۱۰  | مقدار قیراط                         |
| ۵۳۸  | ۱۰  | مقدار صاع کی تولوں میں              |
| ۵۹۳  | ۱۰  | صاع کی مقدار انگریزی سیر سے         |
| ۲۲۱  | ۱۱  | مقدار روز و شب در قطب شمالی و جنوبی |
| ۲۳۸  | ۱۱  | مقدار دینار                         |
| ۱۲۳  | ۱۲  | مقدار مہر شری                       |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|------|-----|---|
| ۱۳۶  | ۱۲  | نش کی مقدار                             |
| ۱۳۶  | ۱۲  | مقدار درہم شرعی                         |
| ۱۳۷  | ۱۲  | مقدار دینار شرعی                        |
| ۱۳۷  | ۱۲  | مقدار قیمت دینار                        |
| ۱۳۷  | ۱۲  | مقدار دینار و درہم بحساب سکہ رائج       |
| ۱۳۷  | ۱۲  | مقدار قیمت سونائی تولہ در عہد سرکار ﷺ   |
| ۱۵۴  | ۱۲  | مقدار وزن درہم اقسام ثلاثہ و عہد فاروقی |
| ۱۶۶  | ۱۲  | مقدار دینار سرخ بحساب روپے              |
| ۱۶۶  | ۱۲  | مقدار قیمت دس درہم بحساب روپے           |
| ۱۷۳  | ۱۲  | مقدار قیمت دس درہم بحساب روپے           |
| ۲۰۵  | ۲۲  | سر کے بال بڑھانے کی مقدار               |
| ۲۰۶  | ۲۲  | لبوں کے بالوں کی مقدار                  |
| ۵۷۸  | ۲۳  | درہم کی مقدار                           |

مقید:

|     |   |                        |
|-----|---|------------------------|
| ۲۵۱ | ۲ | مطلق مقید پانی کا بیان |
|-----|---|------------------------|

مقیم / اقامت :

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۷۰۵ | ۳ | محل اقامت میں امام کے حال کا علم ضروری |
|-----|---|--|

مکروہ:

|      |   |  |
|------|---|--|
| ۸۸۸  | ۱ | مکروہ تنزیہی کی تعریف پر بحث                   |
| ۸۹۸  | ۱ | وضو میں پانی زور سے ڈالنا مکروہ                |
| ۸۴۴  | ۱ | صرف پا جاے میں نماز مکروہ                      |
| ۹۱۳  | ۱ | تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کا ترک مکروہ         |
| ۱۰۰۶ | ۱ | نماز میں مکروہ اور غیر مکروہ عمل کا قاعدہ کلیہ |
| ۹۰۱  | ۱ | مکروہ کی اقسام پر تحقیق                        |

| صفحہ     | جلد | سوال مسئلہ  |
|----------|-----|---|
| ۹۸۱      | ۱   | مطلق کراہت سے تحریم مراد ہے                       |
| ۱۲۲      | ۲   | مستعمل پانی پینا مکروہ ہے                         |
| ۳۶۶      | ۲   | عورت سے بچے پانی سے طہارت مرد کو مکروہ ہے         |
| ۳۷۷      | ۲   | غضب النبی والی جگہ سے تیمم مکروہ ہے               |
| ۳۷۷      | ۳   | تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم کرنا مکروہ ہے          |
| ۱۳۸      | ۵   | طلوع سے بیس منٹ تک پھر نماز مکروہ ہے              |
| ۳۲۰      | ۵   | فجر و ظہر کا آخری وقت مکروہ نہیں                  |
| ۳۳۰      | ۵   | تین اوقات میں نماز ناجائز طاوت مکروہ ہے           |
| ۳۳۹      | ۵   | قبر پر نماز مکروہ ہے                              |
| ۳۸۰      | ۵   | اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا امام و مقتدی کو مکروہ |
| ۳۲۶      | ۵   | مسافر کو اقامت کا ترک مکروہ ہے                    |
| ۱۸۲      | ۶   | طویل دعا مکروہ ہے                                 |
| ۱۸۳      | ۶   | آمین بالجبر مکروہ ہے                              |
| ۲۰۴، ۱۹۰ | ۶   | سلام کے بعد امام کا قبلہ رو بیٹھنا مکروہ ہے       |
| ۲۶۶      | ۶   | فرض کی ہر رکعت میں ایک سورت کا تکرار مکروہ ہے     |
| ۲۶۷      | ۶   | دوسری رکعت میں پہلی سے لمبی قرأت مکروہ ہے         |
| ۳۳۲      | ۶   | منہ میں بدبو ہو تو نماز مکروہ ہے                  |
| ۳۷۱      | ۶   | بیچ میں چھوٹی سورت چھوڑنا مکروہ ہے                |
| ۳۹۰      | ۶   | سودخور کے پیچھے نماز مکروہ ہے                     |
| ۴۱۶      | ۶   | اندھے کے پیچھے نماز مکروہ ہے                      |
| ۵۰۹      | ۶   | سنت مؤکدہ چھوڑنے والے کی امامت مکروہ ہے           |
| ۵۲۳      | ۶   | زانی کی امامت مکروہ ہے                            |
| ۶۲۷      | ۶   | داڑھی منڈوانے والوں کی اقتداء میں نماز مکروہ ہے   |
| ۶۳۳      | ۶   | زانی کی امامت مکروہ ہے                            |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                               |
|----------|-----|---|
| ۶۲۲      | ۶   | صرف پانچامہ میں نماز مکروہ ہے             |
| ۳۸       | ۷   | امام کو در میں کھڑا ہونا مکروہ ہے         |
| ۱۲۸      | ۷   | محراب میں جماعت ثانیہ مکروہ ہے            |
| ۳۹۵۵۲۹۱  | ۷   | باب مکروہات الصلوٰۃ                       |
| ۳۵۶      | ۸   | امام کا بعد سلام قبلہ رو بیٹھنا مکروہ ہے  |
| ۳۰۲      | ۸   | مسجد میں اذان ثانی مکروہ ہے               |
| ۲۶۳      | ۹   | مسجد میں جنازہ مکروہ ہے                   |
| ۲۷۸      | ۹   | نماز جنازہ کا تکرار مکروہ ہے              |
| ۳۳۷      | ۹   | کسی کی قبر میں غیر کو دفن کرنا مکروہ ہے   |
| ۳۳۹      | ۹   | مسجد کی چھت پر وٹھی مکروہ ہے              |
| ۱۸۹      | ۱۰  | ثبوت شفعہ کے بعد اسقاط کا حیلہ مکروہ ہے   |
| ۵۵۳، ۵۵۱ | ۱۰  | مکروہات صوم کا بیان                       |
| ۵۵۹      | ۱۰  | مکروہات صوم کا بیان                       |
| ۱۷۶      | ۱۱  | وعدہ پورا نہ کرنا مکروہ ہے                |
| ۱۹۷      | ۱۱  | کسی کی منگیتر کو پیغام نکاح دینا مکروہ ہے |
| ۱۳۳      | ۱۳  | مکروہ تحریمی سے کفر تک کے درجے            |
| ۷۰۸      | ۱۳  | اوجھڑی مکروہ ہے                           |
| ۱۲۲      | ۱۶  | جنازہ پر قیمتی چادر مکروہ ہے              |
| ۵۸۱      | ۱۶  | فاسق معطن کی امامت مکروہ تحریمی ہے        |
| ۱۳۰      | ۲۲  | مکروہ چیز پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے      |
| ۵۹۸      | ۲۲  | سفید بال اکھاڑنا مکروہ ہے                 |
| ۶۰۶      | ۲۲  | مستعمل پانی پینا مکروہ ہے                 |
| ۷۲۳      | ۲۳  | راستہ میں نماز پڑھنا مکروہ ہے             |
| ۶۰۳      | ۲۳  | مکروہ پر حرمت کا اطلاق کب صحیح ہے         |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                         |
|------|-----|-------------------------------------|
| ۶۰۴  | ۲۳  | اذان جمعہ کے وقت تجارت مکروہ تحریمی |
| ۶۵۰  | ۲۳  | عبارت میں مطلقاً مکروہ ہو تو مراد   |
| ۱۵۴  | ۲۸  | عبارت میں مطلقاً مکروہ ہو تو مراد   |

مناظرہ:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۴۹۹      | ۷  | جالل وہابی مفتی کی تین جہالتوں کا رد                         |
| ۶۲۰      | ۸  | وہابیہ کے عقائد پر مطلع ہونے والی کتب کے نام                 |
| ۷۰۰      | ۷  | قاری عبدالرحمن پانی پتی کا رد                                |
| ۷۰۲      | ۷  | قرآن میں روافض کے ادعاے تعریف                                |
| ۵۰۲      | ۸  | مصنف نے ایک مؤذن کو عقلی دلیل دے کر سمجھایا                  |
| ۵۵۲      | ۸  | وہابیہ کا مقالہ  |
| ۲۵۲      | ۹  | ایک مسئلہ کا مناظرانہ انداز میں رد                           |
| ۳۶۳      | ۹  | ایک حکایت سے مخالفین کا رد                                   |
| ۱۹۴      | ۱۰ | امام ابو یوسف پر طعنہ کرنے والوں کی مناظرانہ گفتگو           |
| ۵۸۹، ۵۸۴ | ۱۰ | اختلاف مطالع کے معتبرین کا رد                                |
| ۶۰۳      | ۱۰ | ایک فتویٰ پر چھ وجوہ سے رد                                   |
| ۲۸۰      | ۱۴ | صریح کافروں سے فروعات میں بحث نہ کریں                        |
| ۶۹۲      | ۱۴ | تحریری مناظرہ  |
| ۹۷       | ۱۵ | گستاخانہ عبارات پر اعلیٰ حضرت کی جانب سے مناظرہ کی آخری دعوت |
| ۴۱۰      | ۱۵ | ابو عمر بن العلاء اور عمر بن عبید کا مناظرہ                  |
| ۳۹۵      | ۱۶ | الزام کی تین صورتیں بصورت مناظرہ                             |
| ۶۲۳      | ۲۲ | ولید پر مناظرانہ گرفت  |
| ۶۹۰      | ۲۳ | لزوم مناظرہ کی شرائط کا بیان                                 |
| ۳۲۸      | ۲۹ | جنت و دوزخ میں مناظرہ  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

منافق:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۱۱۵ | ۹  | سرکار نے منافق کے سردار کو قیص دی          |
| ۱۲۱ | ۹  | منافق کھوکھ بھر کر آب زم زم کیوں نہیں پیتے |
| ۳۹۷ | ۱۱ | منافق کو سردار کہہ کر نہ پکارو             |
| ۱۷۳ | ۱۵ | نفاق کی دو قسمیں                           |
| ۶۹  | ۲۵ | منافق کی تین نشانیاں                       |

منطق:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۵۹۸ | ۴  | قول فقہاء کہ منطق کے اوراق سے استنباء کی حقیقت |
| ۶۳۱ | ۲۳ | علم منطق کا حکم                                |
| ۴۳۵ | ۲۳ | منطق پڑھنے کی بعض قباحتیں                      |
|     |    | تفصیل ہر جلد میں منطق کے عنوان میں دیکھیں      |

منی:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۴۷۳ | ۱  | منی بے شہوت جدا ہو تو حکم                        |
| ۵۷۰ | ۴  | منی مطلق ناپاک ہے                                |
| ۲۳۲ | ۴  | منی بغیر مذی کے نہیں نکلتی ہے                    |
| ۳۰۰ | ۷  | جب نہ دخول نہ منی نکلے تو غسل نہیں               |
| ۴۸۱ | ۱۰ | روزہ کی حالت میں تلاعب سے مرد کی منی نکلے تو حکم |

منی اسپرینج: دیکھئے صرف:

منی آرڈر:

|     |    |                        |
|-----|----|------------------------|
| ۵۶۳ | ۱۹ | منی آرڈر کی فیس کا حکم |
|-----|----|------------------------|

موالات: دیکھئے ترک موالات:

مردہ/موت/میت:

|    |   |                    |
|----|---|--------------------|
| ۴۵ | ۲ | موت نجاست حقیقہ ہے |
|----|---|--------------------|

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                |
|---------|-----|--|
| ۵۷۰     | ۲   | میت کے سر اور واڑھی کو کس سے دھوئیں        |
| ۴۰۲     | ۳   | میت کو تنم بھی جائز جب پانی نہ ملے         |
| ۵۳۲     | ۳   | مسلمان میت کا غسل، کفن، دفن کس پر ہے       |
| ۴۷۶     | ۵   | میت کے لئے کلہ شریف کے ایصال ثواب کا واقعہ |
| ۱۵۴     | ۸   | میت کی طرف سے قصائے عمری کی صورت           |
| ۱۶۵     | ۸   | میت کے کفارہ کے لئے مال نہ ہو تو کیا کریں  |
| ۱۶۶     | ۸   | میت کی طرف سے کفارہ ادا کرنے کا طریقہ      |
| ۸۱      | ۹   | موت کے قریب وقت میں کیا کرنا چاہیے         |
| ۹۰      | ۹   | موت کے بعد کے احکام                        |
| ۱۳۳۷۹۹  | ۹   | میت کے کفن کے احکام                        |
| ۲۶۵     | ۹   | میت کو تابوت میں دفن کرنا مکروہ ہے         |
| ۳۱۲     | ۹   | میت کو نہلانے کا ثواب                      |
| ۶۶۱     | ۹   | میت کے گمرد موت کا بیان                    |
| ۵۱۸     | ۹   | میت کا غسل                                 |
| ۶۷۳۷۵۸۷ | ۹   | میت کے احکام                               |
| ۹۳۳     | ۹   | موت کے ادنیٰ جھٹکا کی تکلیف                |
| ۹۳۵     | ۹   | ملک الموت کو دیکھنا                        |
| ۱۰۶     | ۱۰  | مال زکوٰۃ سے میت کو کفن دینا ناجائز        |
| ۱۰۴     | ۱۳  | میت صالح اذن نہیں                          |
| ۱۱۰     | ۲۳  | مردہ کے بالوں میں کنگھی کرنا درست نہیں     |
| ۴۵۳     | ۲۳  | میت کو غسل دینے سے پہلے تلاوت قرآن کا حکم  |
| ۱۹۸     | ۲۳  | کتنے میت کا جنازہ اکٹھا ہو سکتا ہے         |
| ۴۷۷     | ۲۳  | میت پر چلا کر رونے کا شرعی حکم             |
| ۵۹۱     | ۲۵  | میت کا کفن دفن کا حکم                      |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ            |
|------|-----|------------------------|
| ۵۹۲  | ۲۵  | میت کو برہنہ رکھنا منع |

موزے / جراب:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۳۱۱ | ۲  | پاؤں دھونا کب افضل اور موزوں پر مسح کب افضل ہے |
| ۲۶۰ | ۲  | شبنم سے ترگھاس سے موزوں کا مسح ہو جائے گا      |
| ۲۹۸ | ۳  | غسل میں موزوں پر مسح جائز نہیں                 |
| ۵۱۳ | ۳  | ایک پاؤں دھونا ایک پر مسح جائز نہیں            |
| ۲۷۰ | ۲  | موزے پہننے کی ایک صورت                         |
| ۳۲۵ | ۲  | سوتی موزوں پر مسح کا حکم                       |
| ۳۲۷ | ۲  | بوٹ پر مسح                                     |
| ۳۰۱ | ۷  | جراب میں نماز جائز ہے                          |
| ۵۲۷ | ۳۰ | موزے پر مسح کی مدت                             |

موچھ / موچھیں:

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۵۷۱ | ۲۲ | موچھیں کم کرنا فطرت سے ہے               |
| ۶۸۰ | ۲۲ | موچھ بڑھ جانے کی مقدار اور حکم          |
| ۶۸۰ | ۲۲ | موچھ بڑھانا کہ منہ میں آئے تو اس کا حکم |

مہر:

|     |    |                                  |
|-----|----|----------------------------------|
| ۱۱۹ | ۴  | مہر کی بخشش کی ایک صورت          |
| ۱۳۳ | ۱۰ | عورت کا مہر مانع زکوٰۃ نہیں ہے   |
| ۱۶۹ | ۱۰ | عورت پر مہر کی زکوٰۃ کب ہے       |
| ۱۱۷ | ۱۱ | خلوت صحیحہ سے پورا مہر لازم      |
| ۱۴۰ | ۱۱ | صحت نکاح کے لئے ذکر مہر شرط نہیں |
| ۱۷۳ | ۱۱ | مہر مثل لازم ہونے کی ایک صورت    |
| ۲۲۸ | ۱۱ | مہر اقل کی مقدار                 |
| ۲۲۸ | ۱۱ | مہر ازواج مطہرات                 |

| صفحہ     | جلد | موضوع مسئلہ  |
|----------|-----|--|
| ۲۵۹      | ۱۱  | ذکر مہر  |
| ۲۸۲      | ۱۱  | مہر کا مسئلہ   |
| ۲۸۳      | ۱۱  | مہر کثیر و مہر قاروق رضی اللہ عنہ                            |
| ۲۹۷      | ۱۱  | مہر نہ ہونے کی شرط پر نکاح کا حکم                            |
| ۵۲۳      | ۱۱  | مہر معجل نقد کے عاجز کے لکھو کا مسئلہ                        |
| ۵۶۱      | ۱۱  | مہر کے لزوم کے ۱۳ اسباب                                      |
| ۶۱۸      | ۱۱  | نکاح خوانی کے دوران مہر پر بحث کا ایک مسئلہ اور حکم          |
| ۶۲۲      | ۱۱  | بعد طہوع و نکی کے کئے گئے نکاح میں مہر سے عدم رضامندی کا حکم |
| ۱۹۹۵۱۰۱  | ۱۲  | باب المہر  |
| ۱۲۳      | ۱۲  | مہر شرعی محمدی   |
| ۱۳۵      | ۱۲  | مہر ازواج مطہرات   |
| ۱۳۶      | ۱۲  | مہر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا                                 |
| ۱۳۲      | ۱۲  | مہر معجل و مؤجل  |
| ۱۶۶      | ۱۲  | مہر مؤجل   |
| ۱۶۵      | ۱۲  | مہر شرعی محمدی   |
| ۱۷۲      | ۱۲  | مہر شرعی بحساب روپے  |
| ۱۸۹، ۱۷۱ | ۱۲  | مہر کی اقسام ثلاثہ   |
| ۱۶۲      | ۱۲  | اقل مہر کی مقدار   |
| ۲۱۷      | ۱۳  | مہر معجل کا حکم  |
| ۳۳۳      | ۱۳  | تا بالغہ مہر معاف نہیں کر سکتی                               |
| ۲۱۸      | ۱۳  | مہر معجل میں عورت انتفاع سے روک سکتی ہے                      |
| ۳۲۲      | ۱۳  | مہر معجل کا حکم  |
| ۳۳۷      | ۱۳  | مہر عورت کا ترک ہے   |
| ۳۷۷      | ۱۳  | مہر نکاح میں بیع کا عوض                                      |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                             |
|----------|-----|---|
| ۵۹۱      | ۱۵  | مرد کی عورت کے مہر کا حکم               |
| ۱۱۳      | ۱۶  | مہر میں جائیداد کا حکم                  |
| ۱۲۱      | ۱۷  | مہر کے عوض جائیداد کا حکم               |
| ۱۳۸      | ۱۷  | مہر کی رقم سے خریدی گئی جائیداد کا حکم  |
| ۲۳۲      | ۱۸  | مہر معجل کا دعویٰ عورت پر دم کر سکتی ہے |
| ۷۳۱      | ۱۸  | مہر قرض کی طرح ہے                       |
| ۱۰۷      | ۱۸  | مہر میں جائیداد                         |
| ۱۸۳      | ۱۸  | مہر مثل سے زائد کا دعویٰ                |
| ۲۷۸      | ۱۸  | مہر مثل سے کم کا دعویٰ کا حکم           |
| ۷۳۱      | ۱۸  | مہر مثل قرض ہے                          |
| ۲۸۵      | ۱۹  | مہر میں شوہر کے علاوہ ورثاء کا حصہ      |
| ۹۸       | ۱۹  | ثبوت نکاح سے مہر مثل ثابت ہوگا          |
| ۳۳۶      | ۱۹  | لڑکی کا باپ مہر معاف کر دے تو حکم       |
| ۶۱۰      | ۱۹  | مہر کی معافی زبردستی ہو تو باطل         |
| ۳۸۷، ۳۳۱ | ۲۵  | مرض الموت میں مہر کی معافی کا حکم       |
| ۶۵۱      | ۲۵  | مرض الموت میں مہر کی معافی کا حکم       |
| ۳۳۰      | ۲۶  | مہر میراث ہے                            |
| ۱۱۹، ۵۸  | ۲۶  | مہر ترکہ کی تقسیم سے پہلے دیا جائے      |
| ۳۵۵      | ۲۶  | مہر معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے        |
| ۳۶۵      | ۲۶  | مہر کی مالک عورت ہے                     |

میت: دیکھئے موت

میراث:

|     |   |                                       |
|-----|---|---------------------------------------|
| ۵۴۲ | ۳ | میت کا غسل کفن و دفن سب سے مقدم ہے    |
| ۶۶۳ | ۹ | ترکہ سے بلا اجازت ورثاء ضیافت حرام ہے |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ   |
|----------|-----|---|
| ۶۶۵      | ۹   | ترک سے محتاجوں کو کھلانے کی شرط                       |
| ۲۲۲      | ۱۱  | کنیز کی اولاد ترکہ کی مستحق ہے                        |
| ۳۲۸      | ۱۱  | کناح سنی با دختر رافضی سے اولاد مستحق ترکہ ہے یا نہیں |
| ۳۲۱      | ۱۱  | کناح قاسد میں تواریث نہیں                             |
| ۳۶۶      | ۱۱  | اولاد زنا ماں کی میراث پائے گی                        |
| ۱۸۴      | ۱۲  | تابت انصیب اولاد کا ترکہ                              |
| ۱۸۴      | ۱۲  | کناح قاسد میں زوجین باہم وارث نہیں                    |
| ۲۷۱      | ۱۲  | متوفی لا ولد ہو تو میراث کا حکم                       |
| ۲۷۱      | ۱۲  | وراثت زوجہ ضروریات دین سے                             |
| ۶۰۳      | ۱۲  | عورت کی زوجیت کے منکر کا حکم                          |
| ۳۲۱      | ۱۳  | کناح قاسد و باطل میں تواریث نہیں                      |
| ۲۳۷      | ۱۳  | جہیز و مہر عورت کا ترکہ                               |
| ۲۳۷      | ۱۳  | شوہر و والدین چھوڑنے والی عورت کا ترکہ                |
| ۲۵۷      | ۱۴  | موافق ارث کا بیان                                     |
| ۲۵۰      | ۱۴  | رافضی سنی کا وارث ہو تو حکم                           |
| ۲۵۷      | ۱۴  | کوئی کافر کسی مسلمان کا وارث نہیں                     |
| ۲۵۸      | ۱۴  | مرد کسی کا وارث نہیں                                  |
| ۱۰۵      | ۱۶  | لڑکیوں کو باپ کے قدیم مکان سے ترکہ ملے گا             |
| ۲۰۷      | ۱۶  | وقف میں وراثت نہیں                                    |
| ۵۰۰      | ۱۶  | میراث کا ایک سوال                                     |
| ۱۳۸      | ۱۷  | عورت اپنے مال سے جائیداد خریدے تو اس کا حکم           |
| ۲۱۵، ۱۰۳ | ۱۷  | میراث کا ایک سوال و جواب                              |
| ۵۶۲، ۹۵  | ۱۷  | ادائے قرض تقسیم ترکہ میں مقدم ہے                      |
| ۱۵۷      | ۱۸  | ایک ترکہ کی تقسیم                                     |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ   |
|----------|-----|---|
| ۱۶۶      | ۱۸  | وارث کو میراث سے محروم کرنے کی وعید                       |
| ۲۵۵      | ۱۸  | میراث کے الجھے مسئلے کا شاندار فیصلہ                      |
| ۲۱۳      | ۱۸  | ترکہ کی تقسیم   |
| ۳۱۵      | ۱۸  | ایک جائداد کی تقسیم                                       |
| ۱۰۳      | ۱۹  | مرض الموت میں مورث کے لئے حکم                             |
| ۳۳۵      | ۱۹  | وراثت بلا تقسیم اگر بہہ کرے صرف دو ترکوں کو تو حکم        |
| ۱۱۹      | ۱۹  | متوفی نے ترکہ میں دین و عین چھوڑا تو حکم                  |
| ۲۶۳      | ۱۹  | وارث اپنے مال سے مورث کی تجھیز و تکفین کرے تو حکم         |
| ۲۹۷      | ۱۹  | مال مقطوع میں وارثوں کا حق نہیں                           |
| ۶۸۰      | ۱۹  | والد کے ترکہ میں بھائی کی ناجائز تقسیم کی ایک صورت کا حکم |
| ۱۷۵      | ۲۰  | کل جائداد صرف ورثہ میں تقسیم کرنے کا سوال                 |
| ۲۲۲      | ۲۱  | مردہ اپنے شوہر کا ترکہ نہ پائے گی                         |
| ۵۲۹      | ۲۱  | وارث ہونے کے لئے ضروری نہیں کہ وہ مورث کا مال لے          |
| ۵۵۰، ۵۳۵ | ۲۳  | میراث میں حرام مال چھوڑے تو حکم                           |
| ۲۰۷      | ۲۳  | مرض الموت میں حقوق کی معافی سے صرف غیر مالیہ معاف ہوں گے  |
| ۲۵۵      | ۲۳  | جوان اولاد کو میراث سے محروم نہ کرے                       |
| ۳۷۲      | ۲۵  | ایک صورت ترکہ کی شرعی تقسیم                               |
| ۶۵۷      | ۲۵  | تقسیم میراث کی ایک شکل                                    |
| ۵۹       | ۲۵  | زوج کا ترکہ زوجہ کو مہر لینے کی اجازت ہے یا نہیں          |
| ۲۳۲      | ۲۵  | میراث کی ایک شکل  |
| ۳۷۲      | ۲۵  | ایک صورت ترکہ کی تقسیم                                    |
| ۳۷۸      | ۲۵  | تقسیم ترکہ کی بعض صورتیں                                  |
| ۲۳۸      | ۲۵  | نابالغوں کی تقسیم حصص میں کمی حرام                        |
| ۲۶۳      | ۲۵  | باپ کے ہوتے بھائی بہن کا استحقاق نہیں                     |

| صفحہ   | جلد | عنوان   |
|--------|-----|---|
| ۳۶۳    | ۲۵  | یہی مری شوہر و والدین میں تقسیم وراثت کی صورت |
| ۳۶۶    | ۲۵  | چچا زاد کے ہوتے ہمانی ماموں زاد وارث نہیں     |
| ۳۶۹    | ۲۵  | مشترک مال کی تقسیم وراثت کا طریقہ             |
| ۶۵۷۶۰۰ | ۲۵  | روغی اور وجین وراثت نہیں                      |
| ۶۵۷    | ۲۵  | تقسیم ترکہ کی ایک مثل                         |
| ۳۹۳۶۵۵ | ۲۶  | کتاب القرائن                                  |

### میلا و شریف:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۱۲۳ | ۸  | میلا و شریف کا انعقاد مسجد میں   |
| ۶۲۱ | ۸  | میلا و عرب میں   |
| ۲۵۱ | ۱۰ | میلا و مذکوٰۃ کے مال سے کرے تو حکم   |
| ۳۰۸ | ۱۰ | میلا و کی شیرینی کا حکم  |
| ۵۸۲ | ۱۳ | میلا و شریف کی نذر کا حکم  |
| ۵۹۰ | ۱۳ | میلا و شریف کی نذر کا حکم  |
| ۶۶۹ | ۱۳ | سرکار محفل میلا و میں تشریف لاسکتے ہیں                                       |
| ۶۶۹ | ۱۳ | قیام میلا و، محفل میں سرکار <sup>علیہ السلام</sup> تشریف لانے کی وجہ سے نہیں |
| ۶۸۶ | ۱۳ | میلا و شریف پڑھوانے والے کی بے ادبی کا حکم                                   |
| ۵۲۲ | ۱۵ | میلا و شریف کی بھرات   |
| ۶۳۲ | ۱۵ | میلا و انبی پر خاص تارے کا طلوع  |
| ۲۵۳ | ۱۶ | میلا و کے لئے وقف صحیح ہے  |
| ۶۶۲ | ۲۱ | میلا و کے گھر کھانا کھانے کی دو صورتیں                                       |
| ۶۶۳ | ۲۱ | میلا و شریف میں قوالی کیسے ہو  |
| ۱۱۸ | ۲۳ | میلا و انبی کی شیرینی پر بیخ آیت پڑھنا                                       |
| ۱۱۹ | ۲۳ | میلا و کی محفل میں تلاوت کا حکم  |
| ۱۷۵ | ۲۳ | میلا و سے روکناؤ کر خدا سے روکتا ہے  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۲۰۴  | ۲۹  | میلا د شریف کرانے کا حکم                           |
| ۲۳۷  | ۲۹  | میلا د شریف کا ثبوت قرآن سے                        |
| ۵۴۷  | ۲۹  | میلا د شریف کی تاریخ                               |
| ۱۴۶  | ۳۰  | ابولہب کو میلا د رسول ﷺ کی خوشی منانے کا فائدہ ملا |

## ﴿ ن ﴾

### نافع و ضار:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۶۹۱ | ۹ | غیر خدا کو نافع و ضار سمجھنا کب شرک ہے                 |
| ۶۹۲ | ۹ | حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو نافع و ضار فرمایا |

### ناد علی:

|     |   |                                    |
|-----|---|------------------------------------|
| ۶۲۲ | ۷ | ناد علی کی ترکیب اور الفاظ و دعا   |
| ۸۲۱ | ۹ | ناد علی - یا علی - یا علی - یا علی |

### ناخن:

|     |    |                                      |
|-----|----|--------------------------------------|
| ۵۷۴ | ۲۲ | ناخن کتروانے کا حکم                  |
| ۶۷۹ | ۲۲ | سونے چاندی کے ناخن کا استعمال کا حکم |
| ۶۸۵ | ۲۲ | بدھ کے روز ناخن کاٹنے کی تفصیل       |

### ناف:

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| ۶۰۳ | ۲۲ | نومولود کی ناف کاٹنے کا حکم |
|-----|----|-----------------------------|

### نام رکھنا:

|        |    |                   |
|--------|----|-------------------|
| ۷۰۶۷۶۳ | ۲۳ | نام رکھنے کا بیان |
|--------|----|-------------------|

### نبیذ / تمر:

|     |    |                        |
|-----|----|------------------------|
| ۵۷۶ | ۲  | نبیذ تمر سے وضو کا حکم |
| ۱۹۳ | ۱۰ | نبیذ تمر سے وضو        |



| صفحہ | رد | عنوان مسئلہ |
|------|----|-------------|
|------|----|-------------|

نجاست:

| ۷۶۴، ۴۷۶، ۳۷۲، ۳۳۳ | ۱ | انجاس   |
|--------------------|---|---|
| ۱۶۳                | ۲ | تحقیق فی سبب تنجس الطاهر بالنجس                         |
| ۱۶۳                | ۲ | ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا لپیٹا تو حکم                    |
| ۲۸۲                | ۲ | ناپاک پانی میں بہائے گئے چوڑے کا حکم                    |
| ۳۱۶                | ۲ | شرابی کی موٹھیں بڑی تو جب پانی پے گا تو پانی ناپاک ہوگا |
| ۳۵۲                | ۲ | بہتی چیز کے پاک ہونے کی ایک صورت                        |
| ۳۶۳                | ۲ | نجاست مرئیہ وغیر مرئیہ کی پاکی کی ایک صورت              |
| ۳۷۳                | ۲ | نجاست دھونے میں پانی ناپاک کب ہوگا                      |
| ۳۷۷                | ۲ | زمین پر پڑی نجاست پر پانی بہایا تو احکام                |
| ۳۷۸                | ۲ | بہتی چیزوں کو پاک کرنے کا طریقہ                         |
| ۴۱۳                | ۲ | نجاست کے دھونے کے لئے شرط                               |
| ۴۶۳                | ۲ | نجاست سے پیدا شدہ کپڑے کا حکم                           |
| ۵۳۷                | ۲ | اناج کے ڈھیر کی ناپاکی اس کی تقسیم ہو چکی اب حکم        |
| ۵۶۳                | ۲ | جانوروں کے بدن پر لگی نجاست کا حکم                      |
| ۵۶۵                | ۲ | گوشت کا خون پاک ہے                                      |
| ۵۰                 | ۳ | نجاست کو دودھ وغیرہ سے دھونے کا حکم                     |
| ۵۱                 | ۳ | نجاست کو سرکہ سے دھونے کا حکم                           |
| ۵۳                 | ۳ | رقیق اور دلدار نجاستوں کی مقداریں اور حکم               |
| ۵۴                 | ۳ | جو تار اور موزہ جرم دار نجاست سے کیسے پاک ہوگا          |
| ۷۲                 | ۳ | نجاست مرئیہ کے احکام اور تحقیق                          |
| ۵۴                 | ۳ | نجاست ذی جرم اور بے جرم کی تعریف                        |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|---------|-----|--|
| ۲۵۴ -   | ۳   | نجاست کے بارے شک کا حکم                        |
| ۲۶۸     | ۳   | رحم کی رطوبت پاک ہے                            |
| ۳۱۷     | ۳   | کپڑا ایک کے لئے پاک دوسرے کے لئے ناپاک کی صورت |
| ۳۲۰     | ۳   | بے دھوئے کون سی چیزیں پاک ہیں                  |
| ۳۰۲     | ۳   | موت نجاست حقیقیہ یا حکمیہ                      |
| ۳۰۷     | ۳   | کافر کے مردے کا حکم                            |
| ۳۷۱     | ۳   | نجاست دھونے کے بعد کون سا اثر معاف ہے          |
| ۳۷۶     | ۳   | راکھ کب پاک ہے کب ناپاک ہے                     |
| ۵۱۳     | ۳   | نجاست حکمیہ نجاست حقیقیہ سے سخت ہے             |
| ۵۵۵     | ۳   | موت سے نجاست حقیقیہ لاحق ہوئی یا حکمیہ         |
| ۵۷۲۵۳۷۷ | ۴   | باب الانجاس                                    |
| ۱۷۳     | ۲۱  | سب سے زیادہ نجس کون                            |
| ۶۳۲     | ۲۱  | کون سے کیڑے نجس ہیں                            |
| ۱۶۹     | ۲۳  | موضع نجاست میں ذکر لسان ناجائز                 |
| ۲۵۳     | ۲۳  | نجاست کی جگہ قرآن مجید پڑھنا منع               |
| ۱۰۱     | ۲۵  | شراب پیشاب کی طرح ناپاک ہے                     |
| ۱۰۸     | ۲۵  | ہر مسکر نجاست غلیظہ ہے                         |

نحو :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۳۵ | ۱۰ | قول اگر مقولے کے بغیر ہو تو حکم                 |
| ۶۳۶ | ۱۰ | ادعیہ افطار میں ماضی کے صیغوں سے اخبار متعین ہے |
| ۱۳۰ | ۱۱ | حال اور عامل میں مقارنت ضروری ہے                |
| ۵۸۸ | ۱۲ | کنم اور می کنم میں فرق                          |

| صفحہ نمبر | جلد | عنوان مسئلہ                              |
|-----------|-----|--|
| ۵۷۷       | ۱۳  | فصل متعدی کا حکم                         |
| ۳۵۵       | ۱۳  | لائے لٹی جنس میں عموم سے ہے              |
| ۲۹۳       | ۱۵  | مرضی نحوی کی ایک تصریح                   |
| ۶۰۲       | ۲۸  | اسم تفضیل کی تفصیل و تشریح               |
| ۶۱۱       | ۲۸  | تحقیق رضوی بابت فعل التفضیل              |
| ۶۳۵       | ۲۸  | موضوع و محمول معرّفہ و مکرہ کا ایک ضابطہ |
| ۶۳۷       | ۲۸  | لام عہد کاتبہ و تواتر استغراق کا ہوگا    |
| ۷۶        | ۲۹  | مکرہ تحت اعلیٰ مفید عموم ہوتا ہے         |
| ۶۷۷       | ۳۰  | فور نیک میں اضافت بیانیہ                 |
| ۶۸۳       | ۳۰  | ذاتی میں یاہ نسبت ہے                     |
| ۶۸۳       | ۳۰  | نور ذات میں اضافت تشریحیہ ہے             |

نذر :

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| ۲۵۷     | ۱۳ | نذر سے پانچ اشیاء کا عدم لزوم        |
| ۶۰۸۵۵۸۱ | ۱۳ | باب النذر                            |
| ۷۴      | ۱۵ | نذر و نیاز جائز                      |
| ۲۶۳     | ۱۵ | کیا نذر شرعی عبادت ہے                |
| ۲۵۳     | ۱۶ | نذر و نیاز بزرگان کے لئے وقف صحیح ہے |
| ۵۷۵     | ۱۶ | نذر و فتوح جس کو دی اس کی ہیں        |
| ۲۵۱     | ۲۰ | قربانی کی نذر                        |

نسب :

|     |    |                              |
|-----|----|------------------------------|
| ۱۰۹ | ۱۰ | شرع میں نسب باپ سے ہے        |
| ۲۳۲ | ۱۱ | باپ شریف تو بیٹا بھی شریف ہے |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۳۳۱     | ۱۱  | نکاح فاسد میں وقت وطی سے 6 ماہ بعد اولاد ثابت النسب ہے   |
| ۳۶۵     | ۱۱  | حرمت مصاہرہ میں متارکہ سے قبل وطی اور اس سے اولاد کا حکم |
| ۳۳۷     | ۱۱  | سنی اور رافضیہ کا نکاح اور اولاد کا حکم                  |
| ۷۳۰     | ۱۱  | غیر سید نے سیدہ سے نکاح کیا تو اولاد کا حکم              |
| ۷۳۱     | ۱۱  | باپ شریف ماں طوائف تو نسب کا حکم                         |
| ۳۶۴     | ۱۲  | خاوند والی نکاح کی اولاد کا نسب                          |
| ۳۸۱۷۳۳۹ | ۱۳  | باب النسب  |
| ۲۹۹     | ۱۴  | حالت کفر کی صحبت کا بچہ حرامی                            |
| ۶۵۲     | ۱۴  | مرتد بیوی سے قبل اسلام اولاد کا حکم                      |
| ۶۸۵     | ۱۸  | متبنی کی ولدیت گود لینے والے کی طرف کرنا غلط             |
| ۲۳۹     | ۲۲  | زنا سے نسب ثابت نہیں ہوتا                                |
| ۲۵۶۷۱۹۷ | ۲۳  | نسب کے کچھ مسائل   |
| ۹۰      | ۲۶  | اثبات نسب میں بہت احتیاط چاہیے                           |
| ۱۳۵     | ۲۶  | بے نکاح اولاد ہو تو اس کا نسب صرف ماں سے                 |

## نصاری / نصرانی / نصرانیہ:

|          |    |   |
|----------|----|---|
| ۳۱۹۷۳۱۳  | ۲  | نصرانی کے جھوٹے کا حکم                      |
| ۵۵۳      | ۴  | عیسائی کی چھوٹی ہوئی چیز کا حکم             |
| ۵۸۷      | ۶  | نصاری کی تابعداری کرنے والے کی امامت کا حکم |
| ۲۶۲      | ۱۴ | نصرانیہ سے نکاح                             |
| ۱۰۵      | ۱۴ | فی زمانہ نصاریٰ کتابی ہیں یا نہیں           |
| ۱۱۷، ۱۱۵ | ۱۴ | فی زمانہ نصاریٰ کا حکم مع تفصیل             |
| ۱۲۲      | ۱۴ | نصاری کا ذبیحہ                              |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ   |
|----------|-----|---|
| ۲۷۶      | ۱۳  | نصاری کے کپڑے   |
| ۷۰۴      | ۱۳  | نصاری اور یہود پر مسلمان ہونا لازم                        |
| ۲۷۳      | ۱۵  | نصاری سے ترک معاملات صحیح نہیں                            |
| ۴۹۹      | ۱۹  | نصاری و یہود ایک دوسرے کو باطل کہتے ہیں اور دونوں سچے ہیں |
| ۲۲۳      | ۲۰  | آج کل کے نصاریٰ کا حکم                                    |
| ۲۳۹، ۲۳۶ | ۲۰  | یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ کا سوال                            |
| ۲۶۲      | ۲۱  | نصاری سے موالات کا حکم                                    |
| ۶۶۴      | ۲۱  | نصاری کے ساتھ کھانے پینے کا حکم                           |
| ۶۴۷      | ۲۱  | نصاری اور یہود کا فرامی ہیں                               |
| ۴۵۶      | ۲۲  | نصاری اور یہود پر لعنت کی وجہ                             |
| ۵۰۷      | ۲۳  | نصاری کے پاس توکری کا حکم                                 |
| ۴۸۱      | ۲۶  | نصاری کے عقاید قاسدہ کی تفصیل                             |
| ۳۰۲      | ۲۹  | نصاری تین خدائے ہیں                                       |

نظر:

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۵۹۵ | ۲ | نظر والے نے رفع نظر کے لئے اعضاء دعوئے توپانی کا حکم |
|-----|---|--|

نفاس:

|          |    |  |
|----------|----|--|
| ۱۳۰، ۱۱۷ | ۲  | حیض و نفاس والی عورت پانی میں ہاتھ ڈالے تو حکم |
| ۵۵۵      | ۳  | تلاوت کے وقت پاس نفاس والی بیٹھی ہو تو حکم     |
| ۴۵۶      | ۴  | نفاس سے آٹھ دن میں فارغ ہو تو حکم              |
| ۴۵۸، ۴۵۲ | ۱۶ | نساء مسجد سے نہ گزریں                          |
| ۴۸۲      | ۲۳ | عورت نفاس سے کب پاک ہوتی ہے                    |

نفاق : دیکھئے مناقب:

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

نقشہ:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۲۹۸     | ۱۱ | نفقہ کے نہ ہونے شرط پر بھی نفقہ واجب              |
| ۱۰۳     | ۱۲ | وطی و سفر سے منکرہ بوجہ وصولی مہر معجل کا نفقہ    |
| ۱۳۳     | ۱۲ | ناشزہ عورت کا نفقہ نہیں                           |
| ۲۱۳     | ۱۲ | نفقہ مثل کا معنی                                  |
| ۲۷۲     | ۱۲ | بعد موت شوہر زمانہ عدت کا نفقہ                    |
| ۲۷۳     | ۱۲ | ناشزہ کا نفقہ نہیں                                |
| ۲۷۵     | ۱۲ | آوارہ گرد عورت کا نفقہ                            |
| ۵۹۸     | ۱۲ | کون سی عدت کا نفقہ ہے اور کون سی عدت کا نہیں      |
| ۳۱۱     | ۱۳ | نفقہ در عدت                                       |
| ۲۰۷     | ۱۳ | لڑکا غنی تو نفقہ کس پر                            |
| ۲۹۳۶۲۱۵ | ۱۳ | باب النفقہ  |
| ۱۰۱     | ۱۳ | جن کا نفقہ واجب ان کی تصبیح گناہ                  |
| ۵۱۳     | ۱۶ | نفقہ کی ایک صورت                                  |
| ۲۰۶     | ۱۸ | تنگ دست والدین کا نفقہ کس پر ہے                   |
| ۶۱۶     | ۱۸ | عورت اور دیگر محارم کے نفقہ کا فرق                |
| ۱۳۳     | ۱۹ | جائز نفقہ کی تفصیل                                |
| ۶۳۳     | ۱۹ | محتاج باپ غنی لڑکے سے نفقہ کب بے اطلاع لے سکتا ہے |
| ۱۸۹     | ۲۰ | مدعی کو خرچہ دلانا حکم شرع کے خلاف ہے             |
| ۵۳۶     | ۲۳ | جوان بیٹے کا نفقہ باپ پر واجب نہیں                |
| ۲۷۲     | ۲۵ | محتاج باپ بیٹے کا مال بغیر قیمت لے سکتا ہے        |

نقشہ:

|     |   |                           |
|-----|---|---------------------------|
| ۱۵۵ | ۵ | اوقات بعض تحویلات کا نقشہ |
|-----|---|---------------------------|

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                     |
|---------|-----|---------------------------------|
| ۲۵۷۵۲۲۵ | ۲۱  | مقامات مقدسہ کے نقشے بنانا جائز |

## نکاح:

|             |    |  |
|-------------|----|--|
| ۵۳۶         | ۲  | زوجہ سے خانگی کاروبار لینا جائز ہے             |
| ۵۹۵         | ۲  | دلہن کو گھرا لائیں تو ایک مستحب عمل            |
| ۵۰۲ (حاشیہ) | ۳  | عقد نکاح میں عدت کی شرط کا حکم                 |
| ۷۱۰         | ۳  | دوسرے کی طرف سے نکاح کرانے میں اجازت کی صورتیں |
| ۲۹۴         | ۱۰ | نکاح کی حقیقت ایجاب و قبول ہے                  |
| ۳۰۹۵۱۰۹     | ۱۱ | باب النکاح                                     |
| ۲۶۵         | ۱۱ | محرم صفر میں نکاح کا حکم                       |
| ۲۶۵۵۲۶۱     | ۱۲ | نکاح الکافر                                    |
| ۳۱۸۵۲۸۷     | ۱۲ | نکاح ثانی کا حکم                               |
| ۳۶۸         | ۱۲ | نکاح میں توقیت                                 |
| ۱۶۰         | ۱۲ | نکاح فاسد کی ایک صورت                          |
| ۳۷۰         | ۱۲ | عدت میں نکاح کا حکم                            |
| ۲۲۳، ۳۰۸    | ۱۲ | عدت میں نکاح                                   |
| ۱۰۴         | ۱۳ | نکاح ثانی کا حکم                               |
| ۳۱۴         | ۱۳ | رافضی کا نکاح سیدہ سے نہیں                     |
| ۳۶۴         | ۱۳ | نکاح ثانی کا حکم                               |
| ۳۷۴         | ۱۳ | نکاح ثانی بغیر طلاق حرام حرام حرام             |
| ۱۱۶         | ۱۳ | نکاح کتابیہ کا حکم                             |
| ۱۲۲         | ۱۳ | کتابیہ سے نکاح کا حکم                          |
| ۶۵۳         | ۱۳ | مدخولہ سے عدت میں نکاح حرام                    |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ  |
|---------|-----|--|
| ۱۵۴     | ۱۵  | کافر سے مسلمان عورت کا نکاح نہیں                         |
| ۲۲۱     | ۱۵  | اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا حکم                        |
| ۳۶۰     | ۱۶  | فاسق کے نکاح پڑھانے کا حکم                               |
| ۲۲۸     | ۱۷  | نکاح میں وقت کی قید کی دو صورتیں اور حکم                 |
| ۱۰۹     | ۱۸  | نکاح کی گواہی سماع کی بنیاد پر درست ہے                   |
| ۳۳۳     | ۱۸  | نکاح کے وقت مہرنہ ہونے کی شرط کا حکم                     |
| ۳۳۸     | ۱۸  | نکاح نامے کی شرعی حیثیت                                  |
| ۶۰۹     | ۱۸  | نکاح رجسٹر کی شرعی حیثیت                                 |
| ۶۰۹     | ۱۸  | نکاح فضولی کا حکم  |
| ۶۲۲     | ۱۸  | بغیر طلاق نکاح ثانی اگر باپ کرائے تو حکم                 |
| ۳۲۰     | ۱۸  | نکاح فضولی کا حکم  |
| ۹۴      | ۱۹  | نکاح میں ایک شخص طرفین کا متولی ہو سکتا ہے               |
| ۱۶۹     | ۲۱  | نکاح کے رجسٹر کی شرعی حیثیت                              |
| ۶۷۴     | ۲۱  | کسی کی منکوحہ سے نکاح باطل کی صورت                       |
| ۴۰۷     | ۲۲  | شریعت آدم علیہ السلام میں حقیقی بہن سے نکاح حلال تھا     |
| ۵۷۴     | ۲۲  | داڑھی کی توہین کرنے والے کی بیوی نکاح سے نکل جائے گی     |
| ۱۹۵۵۱۸۳ | ۲۳  | نکاح کے کچھ مسائل  |
| ۱۹۳     | ۲۳  | قاضی کا رجسٹر شرط نکاح نہیں                              |
| ۲۰۶     | ۲۳  | سیدزادی کا غیر سید سے نکاح کا حکم                        |
| ۲۰۶     | ۲۳  | چند باطل نکاحوں کی مثالیں                                |
| ۱۷۰     | ۲۴  | خطبہ نکاح سنت ہے   |
| ۵۷۹     | ۲۵  | نکاح ثانی نہ کرنے والی عورت قیامت میں شوہر اول کو ملے گی |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                         |
|------|-----|-------------------------------------|
| ۶۵۵  | ۲۵  | کناح فضولی                          |
| ۷۳   | ۲۶  | شیعوں سے کناح جائز نہیں             |
| ۷۸   | ۲۶  | راضیہ زوجہ شریعہ نہیں               |
| ۱۷۶  | ۲۶  | منکوحہ غیر سے لاطمی میں کناح کا حکم |
| ۲۸۱  | ۲۶  | گواہوں کے بغیر کناح نہیں            |

## نماز:

|      |   |   |
|------|---|---|
| ۲۷۰  | ۱ | نماز میں مرد اور عورت کے بوسے کا حکم              |
| ۲۷۰  | ۱ | ایک کپڑے میں نماز                                 |
| ۸۲۲  | ۱ | صرف پا جامہ میں نماز کا حکم                       |
| ۸۹۳  | ۱ | نماز میں ننگیوں سے دیکھنے کا حکم                  |
| ۹۱۳  | ۱ | تکبیر تحریرہ میں رفع یدین کی ترک کی عادت کا حکم   |
| ۱۰۰۲ | ۱ | نماز میں مٹی سے بچانے کے لئے دامن اٹھانا          |
| ۱۰۲۱ | ۱ | نماز میں انگلیاں چٹکانے کے احکام                  |
| ۱۰۹۵ | ۱ | نمازی اپنے امام کے سوا القمہ دے تو حکم            |
| ۱۱۰۰ | ۱ | قیام نماز میں تلاوت بیت دعا کا حکم                |
| ۱۰۰۶ | ۱ | نماز میں عمل مکروہ اور غیر مکروہ کا قاعدہ کلیہ    |
| ۹۶   | ۲ | ناپاک زمین پر جوتا پہن کے کھڑا ہوا تو نماز کا حکم |
| ۲۵۲  | ۳ | وضو غسل سجدہ میں بے احتیاطیاں                     |
| ۲۶۸  | ۳ | شہید کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھنے کا حکم             |
| ۲۷۲  | ۳ | ڈھیلے سے صرف استنجاہ کر کے نماز کا حکم            |
| ۳۰۲  | ۳ | دو نمازیں ایک وقت میں پڑھنے کا حکم                |
| ۳۰۷  | ۳ | سونے سے نماز جانے کا خدشہ ہو تو نہ سونے           |

| صفحہ     | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|----------|-----|---|
| ۴۱۳      | ۳   | پولیس کے خوف سے چھپے شخص پر جمعہ جماعت ساقط     |
| ۴۲۲      | ۳   | سواری سے اتر نہ سکے تو سواری پر ہی پڑھے         |
| ۴۲۵      | ۳   | کھڑا ہونے سے زخم ہے تو بیٹھ کر نماز لازم        |
| ۴۲۷      | ۳   | ظہر یا جمعہ سنتیں بوجہ جماعت رہ جائیں تو حکم    |
| ۴۲۹      | ۳   | نماز تہجد مستحب ہے                              |
| ۴۵۶      | ۳   | آنکھ بنوائی طبیب نے حرکت سے منع کیا تو حکم      |
| ۴۵۹      | ۳   | نماز صبح، جمعہ، عیدین میں فقط واجبات کب ادا کرے |
| ۴۶۰      | ۳   | آدمی جیسے نماز پر قادر ہو ویسے فرض              |
| ۴۷۲      | ۳   | اندھیرا ترک جماعت کا کب عذر ہے                  |
| ۵۳۲      | ۳   | تیمم والے کے پیچھے طہارت والے کی نماز جائز      |
| ۶۵۹      | ۳   | جہاں نہ پانی ہو نہ مٹی تو کیا کرے               |
| ۷۰۵، ۳۲  | ۳   | تیمم والے نے نماز میں پانی پالیا تو نماز کا حکم |
| ۳۲، ۷۰۵  | ۳   | ایک سلام کے بعد پانی پالیا تو نماز کا حکم       |
| ۱۳۱      | ۳   | صاحب ترتیب کی قضا اور وقتیہ کا مسئلہ            |
| ۷۰۵      | ۳   | اقامت و سفر میں امام کا حال جاننا ضروری         |
| ۱۳۵      | ۳   | امام کے حال کا علم ضروری                        |
| کامل جلد | ۵   | کتاب الصلوٰۃ                                    |
| ۱۲۱      | ۵   | نماز کے اوقات                                   |
| ۳۲۳      | ۵   | نماز کی جگہوں کا بیان                           |
| ۳۶۱      | ۵   | اذان و اقامت کا بیان                            |
| ۱۱۵، ۱۰۲ | ۵   | تارک جماعت کا حکم                               |
| ۱۱۳      | ۵   | نماز نشہ میں                                    |

| صفحہ    | ردیف | عنوان مسئلہ   |
|---------|------|---|
| ۱۳۱     | ۶    | نماز کے مقامات                                      |
| ۱۳۱     | ۶    | جو نمازیں مجبوری میں پیشہ کر پڑھیں ان کا اعادہ نہیں |
| ۲۹      | ۶    | باریک کپڑے کے اعضا ظاہر ہوں میں نماز کا حکم         |
| ۱۵۵     | ۶    | نماز میں بحالت قیام پاؤں میں انگلی کا قاصلہ         |
| ۱۵۸     | ۶    | صرف تکبیر تحریر کی قدرت ہو تو کہنا واجب             |
| ۱۹۳     | ۶    | ریا کاری کی نماز کا حکم                             |
| ۱۹۳     | ۶    | نماز میں قرآن کریم پڑھنا فرض                        |
| ۲۰۶     | ۶    | نماز کے بعد مصلیٰ کا الٹ دینا کیسا ہے               |
| ۲۳۳     | ۶    | نماز کے بعد دعا میں تاخیر کیسی                      |
| ۲۳۳     | ۶    | نماز کے بعد دعا مانگنے کا ثبوت                      |
| ۲۳۲     | ۷    | نماز تسبیح کا بیان                                  |
| ۲۳۵     | ۷    | نماز سنی کا بیان                                    |
| ۲۳۶     | ۷    | نماز تسبیح کا بیان                                  |
| ۶۵۲۵۵۶۹ | ۷    | نماز غوشیہ کا بیان                                  |
| ۶۰۷     | ۷    | نماز کن فیکون کا بیان                               |
| ۶۰۷     | ۷    | نماز استقاء کا بیان                                 |
| ۶۱۳     | ۷    | نماز کسوف کا بیان                                   |
| ۶۱۵     | ۷    | نماز کے افعال کی حکمتیں                             |
| ۱۹۲     | ۸    | نماز کی پھلی رکعتوں میں سورت کا ملانا               |
| ۵۱۹     | ۸    | فضیلت نماز کا بیان                                  |
| ۵۲۳     | ۸    | نماز کی فضیلت                                       |
| ۵۲۹     | ۸    | فضائل نماز  |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۶۳   | ۱۰  | نماز کا ثبوت   |
| ۱۹۵  | ۱۰  | نماز بلا خشوع کا حکم                                 |
| ۵۹۸  | ۱۰  | نماز میں فرض ابتدائی ایک آیت ہے                      |
| ۶۰۳  | ۱۰  | عاری کے پیچھے لابس کی نماز نہیں ہے                   |
| ۷۸۵  | ۱۰  | نماز کا ایک اہم مسئلہ                                |
| ۲۲۸  | ۱۱  | آبادی میں بلا تلاش پانی اگر نماز پڑھی تو نماز کا حکم |
| ۲۶۵  | ۱۳  | نماز کا مذاق اڑانے والے کا حکم                       |
| ۳۶۷  | ۱۳  | نماز کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا                |
| ۲۸۷  | ۱۳  | نماز روزہ سے روکنا                                   |
| ۶۲۶  | ۱۳  | نماز نہ پڑھنے پر مار پیٹ                             |
| ۲۹۶  | ۱۳  | سلام پھیرتے وقت نیت حاضرین                           |
| ۵۰۰  | ۱۳  | نماز ظہر کی قسم حانث کب ہوگا                         |
| ۳۷۵  | ۱۳  | آیہ الکرسی سے نماز کا حکم                            |
| ۱۶۳  | ۱۳  | کافروں کی زمین پر نماز منع                           |
| ۲۰۶  | ۱۵  | نماز میں سرکار کو سلام کی حکمت                       |
| ۲۲۰  | ۱۵  | نماز میں انگلی شہادت اٹھانے کا جواز                  |
| ۱۲۳  | ۱۶  | نماز کے لئے مسجد شرط نہیں                            |
| ۲۹۹  | ۱۶  | نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا                    |
| ۵۰۳  | ۱۶  | نماز قبروں پر ناجائز ہے                              |
| ۳۳۲  | ۱۸  | قعدہ اولیٰ میں امام کے کھڑا ہونے کا مسئلہ            |
| ۵۵۷  | ۱۸  | مزدوری کی نیت سے نماز سے فرض ساقط ہو جاتا ہے         |
| ۲۵۳  | ۲۱  | نماز میں حضور قلب کا حکم                             |

| صفحہ | ردیف | عنوان مسئلہ   |
|------|------|---|
| ۶۳۵  | ۲۱   | تارک نماز کا حکم                                      |
| ۶۳۹  | ۲۱   | بچے کو نماز کا حکم دینے کی عمر                        |
| ۶۵۹  | ۲۱   | بے نمازی کے ساتھ کھانے پینے کا حکم                    |
| ۲۰۶  | ۲۱   | نماز توڑنا کب واجب                                    |
| ۱۵۳  | ۲۲   | تاجائز کپڑا پہن کر نماز کروہ تحریمی ہے                |
| ۲۱۷  | ۲۲   | تین مخصوصوں کو نماز ان کے کان کے اوپر نہیں جاتی       |
| ۳۳۷  | ۲۲   | نماز فجر کے بعد مصافحہ کا حکم                         |
| ۳۸۷  | ۲۲   | نیت کن نماز نہیں بلکہ شرط نماز ہے                     |
| ۲۰۹  | ۲۲   | نمازی کی تلاوت سے خارج نماز پر سجدہ تلاوت کا حکم      |
| ۲۰۹  | ۲۲   | نماز کے اختتام پر سلام کی حکمت                        |
| ۲۷۹  | ۲۲   | نماز قبر کی طرف منع ہے                                |
| ۵۶۳  | ۲۲   | نماز فجر و عصر کا مصافحہ سنت ہے                       |
| ۹۹   | ۲۳   | بے نمازی کا حکم                                       |
| ۱۰۱  | ۲۳   | تاجائز لباس میں نماز کروہ تحریمی                      |
| ۱۷۰  | ۲۳   | نماز عند الطلوع سے عوام کو منع نہ کیا جائے            |
| ۱۷۷  | ۲۳   | ایک رکعتی نماز کا حکم                                 |
| ۷۲۲  | ۲۳   | راستے پر نماز پڑھنا مکروہ ہے                          |
| ۱۷۷  | ۲۳   | ایک رکعتی نماز منع ہے                                 |
| ۳۶۳  | ۲۳   | تارک نماز قاضی نہیں بن سکتا                           |
| ۶۱۳  | ۲۳   | نماز میں عدم کراہت کی صورتیں                          |
| ۶۱۹  | ۲۳   | شمع، چراغ اور فانوس وغیرہ سامنے ہو تو نماز مکروہ نہیں |
| ۲۰۹  | ۲۵   | انگریزی دوا کپڑے پر لگے تو نماز کا حکم                |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------|-----|--|
| ۳۹۶  | ۲۶  | شب معراج نماز کی فرضیت                         |
| ۵۱   | ۲۸  | فاسق کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی                |
| ۱۹۳  | ۲۹  | غیر مقلدین کے پیچھے نماز کا حکم                |
| ۲۱۹  | ۲۹  | منکر میلاد وغیرہ کے پیچھے نماز کا حکم          |
| ۵۳۰  | ۲۹  | ایک نمازی کے قتل کا حکم                        |
| ۱۶۰  | ۲۹  | تمام جہان کے لوگ نماز میں قبلہ کی منہ کرتے ہیں |
| ۳۹۳  | ۲۹  | نماز میں آمین بالجہر درست نہیں                 |
| ۵۶۶  | ۲۹  | التحیات میں ندائے یا رسول اللہ                 |
| ۵۶۶  | ۲۹  | معافی کا قصد کر کے سلام عرض کرے                |
| ۲۱۱  | ۳۰  | نمازیں پچاس سے پانچ                            |

### ننگے سر نماز:

|     |   |                     |
|-----|---|---------------------|
| ۳۸۹ | ۷ | ننگے سر نماز کا حکم |
|-----|---|---------------------|

### نواقض وضو:

|          |   |  |
|----------|---|--|
| ۱۰۳۹۷۳۳۷ | ۱ | فصل فی النواقض                                 |
| ۶۷       | ۲ | رفع حدث کے معنی کی تحقیق                       |
| ۷۰       | ۲ | تا بالغ ہر وقت با وضو ہے                       |
| ۷۶       | ۲ | حدث کے دو معانی                                |
| ۷۷       | ۲ | حدث کی تعریف                                   |
| ۸۰       | ۲ | نجاست حکمیہ کے معنی کی تحقیق                   |
| ۸۲       | ۲ | حدث کے دو معانی کی تحقیق                       |
| ۹۲       | ۲ | نجاست حکمیہ صرف اعضائے وضو میں یا سارے بدن میں |
| ۹۵       | ۲ | محدث جب مطلق ہو تو حکم                         |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۹۷   | ۲   | وضو میں ۴ اعضاء کے دھونے کی تحقیق و مسح سر کی حکمت |
| ۱۰۰  | ۲   | وضو کی جگہ غسل کا حکم                              |
| ۱۷۲  | ۳   | نجاست کے پانی کا حکم                               |
| ۱۷۳  | ۳   | تے کب ناقص وضو ہے                                  |
| ۳۰۶  | ۳   | ورزش سے وضو نہیں ٹوٹتا                             |
| ۳۰۳  | ۴   | مکروحات کا ارتکاب نجاست حکم مگر وضو نہیں ٹوٹتا     |

نوٹ:

|         |    |                                      |
|---------|----|--------------------------------------|
| ۲۳۳     | ۱۷ | نوٹ ضمن نہیں                         |
| ۲۳۳     | ۱۷ | نوٹ مال ربوی نہیں                    |
| ۲۳۰     | ۱۷ | نوٹ کی تصحیح ابتداء کم و بیش سے جائز |
| ۵۵۸۷۳۹۵ | ۱۷ | کاغذی نوٹ پر مستقل رسالے             |
| ۶۰۱۰۲۷۵ | ۱۷ | نوٹ کم و بیش پر بیجا جاسکتا ہے       |
| ۳۰۹     | ۱۷ | نوٹ پر زکوٰۃ ہے                      |
| ۳۱۰     | ۱۷ | نوٹ مہربن سکتا ہے                    |
| ۱۰۳     | ۱۷ | مروجہ کچھریوں کے نیلام کا حکم        |

نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم :

|         |    |                                   |
|---------|----|-----------------------------------|
| ۶۰۳     | ۲۲ | تمام عالم نور محمدی ﷺ سے پیدا ہوا |
| ۷۷۰۷۶۵۷ | ۳۰ | نور محمدی ﷺ کا بیان               |

نوافل:

|         |    |                                |
|---------|----|--------------------------------|
| ۷۰۵۷۳۹۷ | ۷  | باب النوافل                    |
| ۶۰۳     | ۱۰ | نفل کی جماعت بتداعی مشروع نہیں |
| ۶۵۳۷۶۳۷ | ۱۰ | نفل روزوں کا بیان              |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

نیلام:

|       |    |   |
|-------|----|---|
| ۱۰۳   | ۱۷ | نیلام کی ایک خاص صورت                               |
| ۱۰۴   | ۱۷ | مروجہ نیلام کا حکم                                  |
| ۱۰۷   | ۱۷ | سرکاری نیلام کا حکم                                 |
| ۱۰۹   | ۱۷ | جائداد کا نیلام                                     |
| ۱۸۱   | ۱۸ | کورٹ کے نیلام کا حکم                                |
| ۵۳۹   | ۱۸ | نیلام سرکاری مختلف فیہ ہے                           |
| ۱۱۵   | ۲۰ | مکان کے مالک کی اجازت کے بغیر نیلام میں شفعہ کا حکم |
| ۱۱۵ - | ۲۰ | کچہریوں کی جبراً نیلام کی گئی جائداد کا حکم         |
| ۶۰۵   | ۲۳ | نیلامی والی بیع کا حکم                              |

نہند:

|     |   |                                   |
|-----|---|-----------------------------------|
| ۲۸۸ | ۱ | نہند کی دس صورتیں اور ان کے احکام |
|-----|---|-----------------------------------|



واجب:

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۲۳۹ | ۱ | وضو کے واجبات                                 |
| ۲۴۰ | ۱ | واجبات کی اقسام اور تعریضیں                   |
| ۲۶۳ | ۱ | واجب اور فرض کی اقسام میں نسبتیں              |
| ۹۵۰ | ۱ | واجب سے فرض کی تکمیل                          |
| ۲۲۵ | ۳ | فاسق معطن کے پیچھے پڑھی نماز کا اعادہ واجب ہے |
| ۳۲۴ | ۵ | مسلمان کے فعل محمل حسن محمول پر واجب ہے       |
| ۴۲۰ | ۵ | اذان سنت ہے یا واجب                           |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۶۴۱  | ۶   | واجب کے احکام  |
| ۶۱۵  | ۷   | جلسہ میں سرکار کی یاد واجب کیوں ہے                     |
| ۳۹۹  | ۸   | امام میں عیب شرعی ہو تو دوسری جگہ جمعہ کو جانا واجب ہے |
| ۵۹۸  | ۱۰  | واجب کے فرض چھوڑنا ناجائز لیکن اس کا عکس جائز          |
| ۷۸۹  | ۱۰  | حج کے واجبات   |
| ۳۸۰  | ۱۱  | خوارج کو کافر کہنا واجب ہے                             |
| ۳۳۲  | ۱۲  | حرام سے بچنا واجب ہے                                   |
| ۵۵۲  | ۱۲  | واجب لعینہ اور لعینہ کا بیان                           |
| ۲۰۸  | ۱۵  | ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ واجب ہے                         |
| ۲۳۲  | ۱۶  | مسجد کو بدلو بھر سے بچانا واجب ہے                      |
| ۶۱۰  | ۱۶  | فاسق کی اہانت واجب ہے                                  |
| ۱۸۷  | ۲۱  | ناجائز کاترک واجب ہے                                   |
| ۲۵۰  | ۲۲  | غیر محرم عید سے عورت کو پردہ واجب ہے                   |
| ۴۱۹  | ۲۲  | کن لوگوں پر سلام کا جواب واجب ہے                       |
| ۵۸۱  | ۲۲  | ڈاڑھی واجب ہے  |
| ۶۳۳  | ۲۲  | واجب کی تعریف اور واجب و سنت میں فرق                   |
| ۳۳۳  | ۲۲  | سلام کا جواب واجب کفایہ ہے                             |
| ۱۵۰  | ۲۸  | کبھی وجوب کیلئے ینبغی آتا ہے                           |
| ۱۹۵  | ۲۹  | تقلید واجب ہے  |

واقعہ :

|                    |   |       |
|--------------------|---|-------|
| ۵۵۸، ۴۵۳، ۴۳۳، ۴۳۳ | ۹ | واقعہ |
|                    |   |       |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ   |
|------|-----|---|
| ۸۴   | ۱۰  | امام محمد باقر علیہ الرحمہ کا واقعہ                                 |
| ۱۹۵  | ۱۰  | ایک امام کا سرکار ﷺ کو خواب میں دیکھنے کا واقعہ                     |
| ۴۵۵  | ۱۰  | امام الحرمین ابوالمعالی علیہ الرحمۃ کے زمانے کی حکایت               |
| ۶۲۳  | ۱۰  | صبح صادق کے انحطاط کی صحت کا مؤید واقعہ                             |
| ۶۸۹  | ۱۰  | سید ابو عبد اللہ کے خواب کا واقعہ                                   |
| ۷۲۱  | ۱۰  | حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ                              |
| ۷۷۳  | ۱۰  | ماتن و شارح کی ملاقات کا واقعہ                                      |
| ۳۰۰  | ۱۲  | حضرت ام ہانی کو سرکار ﷺ کا پیغام نکاح کا واقعہ                      |
| ۳۰۲  | ۱۲  | حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سرکار ﷺ کے پیغام نکاح کا واقعہ |
| ۳۰۵  | ۱۲  | حضرت رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ کا واقعہ                      |
| ۳۱۰  | ۱۲  | حضرت اسماء بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شجاعت کا واقعہ     |
| ۱۳۰  | ۱۳  | علمائے سوء کے بارے میں واقعہ  |
| ۳۶۸  | ۱۳  | واقعہ ولادت بچہ   |
| ۵۲۶  | ۱۳  | واقعہ قسم حضرت ایوب علیہ السلام                                     |
| ۵۶۲  | ۱۳  | واقعہ جب کہ بیوی کے ساتھ غیر شخص کو پائے                            |
| ۶۰۰  | ۱۳  | حضور غوث پاک علیہ الرحمہ کی کھڑاؤں کا واقعہ                         |
| ۶۰۱  | ۱۳  | واقعہ فیاض حضور غوث پاک   |
| ۶۰۳  | ۱۳  | واقعہ عجیبہ دھقانی کا   |
| ۴۷۹  | ۱۷  | دولت عثمانیہ کا ایک واقعہ   |
| ۲۲۳  | ۲۱  | یہودی طبیب سے علاج کا واقعہ   |
| ۳۲۳  | ۲۱  | حضرت امام سفیان ثوری سے متعلق حکایت                                 |
| ۲۲۱  | ۲۱  | یہودی طبیب سے علاج کا واقعہ   |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۴۱۷  | ۲۱  | امام شریک نجفی کا واقعہ  |
| ۴۳۲  | ۲۱  | حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضور ﷺ کی دعوت کا واقعہ          |
| ۴۳۴  | ۲۱  | کعبہ کو تصادم اور اہنام سے پاک کرنے کا واقعہ                     |
| ۴۷۷  | ۲۱  | حضرت علی بن حنیفہ کے مرید کا واقعہ                               |
| ۶۸۶  | ۲۲  | بدھ کے روز ناخن کاٹنے کا عجیب واقعہ                              |
| ۱۲۸  | ۲۳  | صحابہ کے چہرہ اکٹھا کرنے کے واقعات                               |
| ۲۳۹  | ۲۳  | موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ                   |
| ۵۳۹  | ۲۳  | اصحاب الرقیم علیہ الرحمہ کا واقعہ                                |
| ۶۹۲  | ۲۳  | عمران بن طعان رقاشی علیہ الرحمہ کا واقعہ                         |
| ۱۴۷  | ۲۳  | ایک عجیب واقعہ   |
| ۲۰۴  | ۲۳  | حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ                     |
| ۴۱۹  | ۲۳  | سورۃ قاتحہ پڑھانے پر معلم کی کثیر خدمت کا واقعہ                  |
| ۴۹۱  | ۲۳  | برنی کا قصہ  |
| ۴۹۷  | ۲۳  | ایک غلط حکایت دربارہ مصنف علیہ الرحمۃ                            |
| ۴۰۵  | ۲۳  | ماں کے گستاخ کا واقعہ  |
| ۳۹۷  | ۲۶  | واقعہ ہاروت ہاروت کی حقیقت                                       |
| ۴۰۰  | ۲۶  | منصور طاج کا واقعہ   |
| ۴۲۹  | ۲۶  | حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دجال کو تلواریں مارنے کا واقعہ جھوٹا ہے |
| ۵۴۰  | ۲۶  | جمع قرآن کا قصہ  |
| ۵۹۳  | ۲۶  | ابوالحسن علیہ الرحمۃ کے مرید کا واقعہ                            |
| ۲۳۷  | ۲۷  | مصنف کی نوعمری کا دلچسپ واقعہ                                    |
| ۲۱۹  | ۲۷  | جرجیر کے بارے میں ایک حکایت                                      |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ  |
|------|-----|--|
| ۸۲   | ۲۸  | امام زین العابدین اور امام زید کا واقعہ                  |
| ۲۲۸  | ۲۹  | ایک افتراءی مضحکہ خیز حکایت                              |
| ۳۲۹  | ۲۹  | ایک بے اصل حکایت   |
| ۵۵۳  | ۲۹  | تین شامی مجاہدین کا واقعہ                                |
| ۵۵۶  | ۲۹  | اولیاء کو ندا کرنے کے واقعات                             |
| ۵۸۹  | ۲۹  | احمد آباد میں قیام کا واقعہ                              |
| ۵۹۰  | ۲۹  | ایک تصنیف پر تقریظ کا واقعہ                              |
| ۵۱۷  | ۲۹  | سلطان اورنگزیب عالمگیر کے حکایت                          |
| ۸۶   | ۳۰  | سبع سناہل کی ایک حکایت پر اعتراض اور جواب                |
| ۲۳۵  | ۳۰  | واقعہ ولادت رسول ﷺ بزبان والدہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہا |
| ۲۵۶  | ۳۰  | ابوطالب اور راہب کا قصہ                                  |
| ۲۵۷  | ۳۰  | ایک کثیر کا واقعہ  |
| ۳۰۳  | ۳۰  | ایک انوکھا واقعہ   |
| ۲۷۷  | ۳۰  | غزوہ حنین کا واقعہ                                       |

## والدین:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۵۳  | ۲  | والدین کے کپڑے                                 |
| ۵۰۸ | ۲  | والدین کو حیات میں استخدام کا اختیار نہیں      |
| ۶۷۸ | ۱۰ | والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم                 |
| ۶۸۶ | ۱۰ | اطاعت والدین حج نفل سے اولیٰ ہے                |
| ۳۳۳ | ۱۱ | مردین سے میل جول میں والدین کی اطاعت ناجائز ہے |
| ۳۳۲ | ۱۲ | والدین کی خدمت                                 |

| صفحہ | جلد | موضوع مسئلہ                              |
|------|-----|--|
| ۳۱۰  | ۱۸  | والدین کی خدمت کرنے کے بارے میں احادیث   |
| ۱۵۷  | ۲۱  | والدین کی اطاعت جائز باتوں میں ہے        |
| ۲۱۳  | ۲۱  | والدین کے فرمان کی خلاف ورزی کب جائز     |
| ۲۱۰  | ۲۲  | والدین کے مافرمایوں کی سزا               |
| ۳۷۰  | ۲۳  | والدین کے حقوق                           |
| ۳۵۱  | ۲۳  | والدین پر اولاد کے حقوق                  |
| ۲۳۵  | ۲۸  | حضور کے والدین کفر سے منزه ہیں           |
| ۵۲۳  | ۲۸  | والدین اور سرکار کے احسان میں فرق        |
| ۲۶۷  | ۳۰  | حضور کے والدین اور آباؤ کے ایمان کا بیان |
| ۷۲۳  | ۳۰  | حضور کے والدین زعمہ ہو کر ایمان لائے     |

در:

|         |   |           |
|---------|---|-----------|
| ۳۸۵۵۳۹۷ | ۷ | باب الوتر |
|---------|---|-----------|

وجہ:

|    |    |                           |
|----|----|---------------------------|
| ۹۲ | ۲۳ | وجہ صادق کی شناخت و شرائط |
|----|----|---------------------------|

وحدة الوجود:

|     |    |                           |
|-----|----|---------------------------|
| ۶۱۷ | ۱۳ | وحدة الوجود کی صحیح تعبیر |
| ۶۳۱ | ۱۳ | وحدة الوجود کی تحقیق      |
| ۶۳۲ | ۱۳ | مسئلہ وحدت میں تین فریقے  |
| ۱۵۸ | ۲۳ | وحدة الوجود وغیرہ حق ہیں  |
| ۶۰۳ | ۲۶ | وحدة الوجود کا معنی       |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

وراثت:

دیکھئے میراث

ورزش:

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| ۳۰۶ | ۳ | ورزش کے پسینہ کا حکم |
|-----|---|----------------------|

ورد / اوراد / وظائف:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۶۱۲۵۶۰۵ | ۲۶ | اوراد و وظائف                               |
| ۵۲۸     | ۲۹ | یا شیخ عبدالقادر جیلانی شہداء اللہ کا وظیفہ |

وسیلہ:

دیکھئے توسل:

وصی / وصیت:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۵۰۹ | ۲  | ماں باپ بچے کا مال کب لے سکتے ہیں                      |
| ۵۱۱ | ۲  | عادت ڈالنے کے لئے خدمت لینا جائز ہے                    |
| ۵۲۰ | ۲  | یتیم بچے کے مال کے ساتھ مال ملا کر کھانے کا حکم        |
| ۵۲۱ | ۲  | دوسرے کے بچے سے کام لینے کا حکم                        |
| ۵۲۷ | ۲  | استاذ کا نابالغ سے پانی بھروا کر استعمال کرنے کا طریقہ |
| ۵۳۶ | ۲  | ماں باپ اولاد سے کب خدمت لے سکتے ہیں                   |
| ۳۰۷ | ۹  | اپنے جنازے کے بارے میں سیدۃ النساء کی وصیت             |
| ۲۹۳ | ۹  | مسجد کے لئے وصیت کا نفاذ                               |
| ۵۰۴ | ۹  | تہائی مال کی وصیت سے مسجد کا چراغ جلانا جائز ہے        |
| ۱۷۹ | ۱۰ | وصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ               |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|---------|-----|---|
| ۵۳۳     | ۱۰  | وصیت بالمال کا حکم                              |
| ۵۳۶     | ۱۰  | روزہ کے فدیہ کی وصیت کب واجب ہے                 |
| ۲۸۵     | ۱۳  | مستامن کے لئے وصیت کی تحقیق                     |
| ۲۳۷     | ۱۳  | کافر ذمی کے لئے وصیت جائز حربی کے لئے ناجائز    |
| ۲۶۳     | ۱۳  | وصیت ہدیہ ہے                                    |
| ۲۳۰     | ۱۶  | وقف کی وصیت بعد موت نافذ ہوگی                   |
| ۹۳      | ۱۷  | مرض الموت کے تصرفات غیر نافذ                    |
| ۱۶۵     | ۱۸  | وارث کے لئے وصیت نہیں                           |
| ۱۰۶     | ۱۹  | وصیت کا ایک سوال                                |
| ۱۰۸     | ۱۹  | وصیت کے مسائل                                   |
| ۱۰۸     | ۱۹  | وصیت کا ٹکٹ ترکہ کے برابر یا کم و بیش ہو تو حکم |
| ۲۳۱     | ۱۹  | نفاذ کی تفصیل                                   |
| ۵۳۱     | ۲۱  | حضرت ابو عثمان کی وصیت                          |
| ۶۵۷۷۳۰۵ | ۲۵  | کتاب الوصایا                                    |
| ۱۳۷     | ۲۶  | مشترکہ جائیداد میں صرف ایک وارث کی وصیت کا حکم  |
| ۲۷۲     | ۲۶  | وصیت ایک تہائی میں ہوتی ہے                      |
| ۲۷۳     | ۲۶  | محبوب کیلئے وصیت بالاجماع جائز                  |
| ۳۶      | ۲۷  | اضرار وصیت کے چند طریقے                         |
| ۶۱۸     | ۲۹  | شیخ احمد کی وصیت کے اشتہار کا حکم               |

وضو:

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| ۱۰۶۹۷۲۳۹ | ۱ | باب الوضو |
|----------|---|-----------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                 |
|------|-----|---|
| ۴۶   | ۲   | وضو میں ہر عضو جدا ہے                       |
| ۶۳   | ۲   | وضو کے پانی کے گناہ اولیاء دیکھتے ہیں       |
| ۷۴   | ۲   | بالعذر نامکمل وضو پر بھی ثواب ہے            |
| ۷۴   | ۲   | بالقصد آدھے وضو پر ثواب نہیں                |
| ۹۳   | ۲   | بسم اللہ سے وضو کی سات حدیثیں               |
| ۱۰۳  | ۲   | وضو کی ہچی تری سے مسح جائز                  |
| ۱۹۰  | ۲   | برف جے پانی سے وضو کا حکم                   |
| ۳۰۸  | ۲   | وضو نہر سے افضل یا حوض سے                   |
| ۳۸۹  | ۲   | وضو بھی کر لے اور پانی قابل وضو بھی رہے     |
| ۴۶۶  | ۲   | دھوپ سے گرم پانی سے وضو کا حکم              |
| ۴۷۸  | ۲   | چوری کے پانی سے وضو کا حکم                  |
| ۴۸۱  | ۲   | پینے کی سبیل سے وضو                         |
| ۵۷۶  | ۲   | صرف نبیذ تمر ہو تو وضو کا حکم               |
| ۵۹۴  | ۲   | مسواک دھوئے پانی سے وضو کا حکم              |
| ۲۵۵  | ۳   | ہندو کے بھرے پانی سے وضو کا حکم             |
| ۵۰۳  | ۳   | وضو کے بارے میں مستقل فتاویٰ                |
| ۵۱۲  | ۳   | وضو میں جس عضو کا دھونا مضر اس پر مسح کر لے |
| ۵۱۳  | ۳   | دھونا اور مسح جمع ہو سکتے ہیں               |
| ۵۱۶  | ۳   | پھٹے اعضا کے دھونے کی تفصیل                 |
| ۷۴۰  | ۳   | وضو میں مسح سر کا بہترین طریقہ              |
| ۷۴۲  | ۳   | ایضاً دوسرا طریقہ                           |
| ۱۹۱  | ۳   | وضو میں ناخن بھر جگہ خشک رہنے کا حکم        |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------|-----|--|
| ۲۳۷  | ۴   | وضو میں مسح کی جگہ مردھونے کا حکم              |
| ۳۰۹  | ۴   | سز میں وضو کی حاجت کا مسئلہ                    |
| ۳۶۶  | ۴   | اخبار یا کتاب میں آیت قرآن کو بے وضو چھونا     |
| ۵۶۸  | ۵   | وضو کی دعاؤں کی تحقیق                          |
| ۸۵   | ۵   | قبل معراج نماز میں وضو تھا                     |
| ۱۹۷  | ۷   | امام یا معتدی کا وضو جاتا رہا تو باہر کیسے آئے |
| ۵۰۲  | ۸   | مسجد میں جواز وضو کی ایک صورت                  |
| ۲۵۷  | ۱۳  | وضو نذر سے لازم نہیں ہوتا                      |
| ۲۸۲  | ۱۶  | وضو مسجد میں مکلف کو بشرط جائز ہے              |
| ۵۵۶  | ۱۸  | وضو کے لئے پانی اور مٹی نہ ملے تو کیا کرے      |
| ۵۶۹  | ۲۲  | وضو کے دوران سلام کا جواب                      |
| ۱۱۷  | ۲۳  | گلی کی مرغی کے جھوٹے سے وضو کا حکم             |
| ۵۲۲  | ۲۳  | سودی روپیہ سے بنے تالاب سے وضو کا حکم          |
| ۳۳۷  | ۲۳  | بے وضو دینی کتابوں کو ہاتھ لگانے کا حکم        |
| ۶۴۱  | ۲۳  | آگ پر پکی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا                |
| ۲۸۸  | ۲۵  | تابلخ کے پانی سے بابلخ کے وضو کا حکم           |

وظائف :

دیکھئے ورد

وعدہ :

دیکھئے عہد

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

وعظ / واعظ :

|         |    |                                  |
|---------|----|----------------------------------|
| ۱۹۹     | ۱۳ | واعظ کیسا ہو                     |
| ۲۲۲     | ۱۹ | وعظ کو طلب دنیا بنانے کی وعید    |
| ۲۳۶۶۲۳۵ | ۱۹ | وعظ پر اجرت                      |
| ۵۲۹     | ۱۹ | واعظ کو بطور صلہ کچھ دینے کا حکم |
| ۷۰      | ۲۹ | واعظ کی شرائط                    |

وقف :

|     |   |  |
|-----|---|--|
| ۱۶۶ | ۱ | ایک مسجد کی اشیاء دوسری مسجد میں دینے کے لئے شرط |
| ۲۸۳ | ۲ | وقف کے پانی کا حکم                               |
| ۲۸۴ | ۲ | پانی کے وقف کا حکم                               |
| ۲۸۵ | ۲ | قرآن کریم اور کتابوں کے وقف کا حکم               |
| ۲۸۶ | ۲ | جانداد غیر منقولہ کے توابع کا وقف                |
| ۲۸۸ | ۲ | وقف کسی کی ملک نہیں                              |
| ۲۸۹ | ۲ | سبیل کا وقف اور احکام                            |
| ۵۷۲ | ۶ | مسجد کی وقف شدہ جائے نمازوں پر نماز کا حکم       |
| ۷۰  | ۸ | میں نے اس زمین کو وقف کیا وقف میں کافی ہے        |
| ۲۰۸ | ۹ | وقفی قبرستان میں مکان بنانا                      |
| ۲۵۷ | ۹ | مسجد و مدرسہ کو قبرستان نہیں بنا سکتے            |
| ۲۶۳ | ۹ | وقف میں شہرت کافی ہے                             |
| ۲۶۵ | ۹ | وقف کا وقف نہیں                                  |
| ۲۶۷ | ۹ | وقفی زمین میں دوسری عمارت                        |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ   |
|---------|-----|---|
| ۵۱۲     | ۹   | گاہیل کا وقف صحیح ہے                                      |
| ۱۸۱     | ۱۰  | وقف نام ہونے کے بعد لازم ہو جاتا ہے                       |
| ۱۸۲     | ۱۰  | وقف میں میراث نہیں  |
| ۲۵۵     | ۱۰  | زکوٰۃ سے کتب نہیں لے سکتے                                 |
| ۳۲۷     | ۱۰  | زکوٰۃ سے زمین خرید کر وقف کرنا                            |
| ۲۲۸     | ۱۲  | اشیائے معقولہ کا وقف                                      |
| ۲۵۳۷۱۱۳ | ۱۶  | وقف کا مکمل بیان مع مصارف وقف                             |
| ۵۳۵     | ۱۸  | وقف صحیح کی تصحیح کے احکام و شرائط                        |
| ۱۱۸     | ۱۸  | کون سی چیز اصل وقف میں اور کون سی شرط میں داخل            |
| ۶۸۹     | ۱۹  | وقف کا سامان مصرف کے خلاف استعمال کرنا حرام ہے            |
| ۲۹۶     | ۲۰  | مدرسہ کیلئے وقف عمارت کا کرایہ تعلیم میں صرف کرنا صحیح ہے |
| ۵۰۳     | ۲۰  | چرم قربانی سے کتب خرید کر وقف کرنے کا سوال                |
| ۲۱۲     | ۲۱  | تبدیلی وقف کب جائز اور کب ناجائز                          |
| ۲۱۲     | ۲۱  | وقف کو سابقہ حالت پر باقی رکھنا واجب                      |
| ۵۳۲     | ۲۳  | بیع فاسد سے خریدے ہوئے گھر کے وقف کا حکم                  |
| ۲۹۰     | ۲۶  | مورث کی ذاتی نشت گاہ کے وقف کا مسئلہ                      |
| ۶۶      | ۲۹  | وقف کے بارے درمختار اور ہدایہ کی عبارت کا مطلب            |

وکیل / وکالت :

|     |   |   |
|-----|---|---|
| ۵۰۷ | ۲ | گھوڑا خریدنے کی وکالت کا مسئلہ                          |
| ۵۲۱ | ۲ | مباحات میں توکیل باطل ہے تفصیل                          |
| ۱۸۳ | ۳ | پانی لینے کو وکیل کیا اس نے پانی رنگت ملا خریدتا تو حکم |

| صفحہ  | جلد | عنوان مسئلہ   |
|-------|-----|---|
| ۱۵۸   | ۱۰  | وکیل اپنے مستحق نابالغ بچوں کو زکوٰۃ دے سکتا ہے                 |
| ۱۴۳   | ۱۱  | وکیل بالذکاح کے لئے شرط   |
| ۱۴۹   | ۱۱  | شرط کے ساتھ وکیل کا وکیل نکاح میں جائز مگر طلاق و عتاق میں نہیں |
| ۱۵۰   | ۱۱  | نکاح کے وکیل کی حیثیت   |
| ۱۶۳   | ۱۱  | توکیل کیا ہے  |
| ۱۷۲   | ۱۱  | وکیل غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے                                    |
| ۲۱۰   | ۱۱  | توکیل صرف ایجاب سے تام قبول ضروری نہیں                          |
| ۲۱۸   | ۱۱  | مرد کو وکیل بنانا جائز ہے                                       |
| ۲۲۳   | ۱۱  | وکیل بالذکاح مجاز توکیل نہیں                                    |
| ۲۵۴   | ۱۲  | صدر انجمن وکیل مجاز ہے  |
| ۵۶۶   | ۱۲  | وکیل بالطلاق کا حکم   |
| ۱۰۹   | ۱۶  | وکالت شرط فاسدہ سے فاسد نہیں ہوتا                               |
| ۱۱۰   | ۱۶  | وکیل کو موافق معمول کا اختیار ہے                                |
| ۵۶۲   | ۱۶  | سودی ڈگریاں دلوانے کیلئے وکالت کا پیشہ فسق                      |
| ۱۸۹   | ۱۸  | وکالت کی تعلیق کے بعد تفریق کا حکم                              |
| ۹۵۷۹۳ | ۱۹  | کتاب الوکالت  |
| ۱۱۳   | ۲۰  | وکیل بالشراء شفیع بھی ہو سکتا ہے                                |
| ۵۵۴   | ۲۳  | ضمان میں مؤکل کا تصرف جائز                                      |

ولی / ولایت / اولیاء / ولاء:

|     |   |                          |
|-----|---|--------------------------|
| ۹۵  | ۹ | شوہر عورت کا ولی نہیں ہے |
| ۲۷۰ | ۹ | ولی جنازہ پڑھ چکا تو حکم |



| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                                     |
|---------|-----|---|
| ۲۷۳     | ۹   | ولی کو جنازہ کے اجازہ کا اختیار کب نہیں ہے      |
| ۱۱۰     | ۱۱  | بالغہ پر ولایت اجبار نہیں                       |
| ۱۳۳     | ۱۱  | وکیل کے وکیل کے مسائل                           |
| ۲۱۳     | ۱۱  | پدر خائے ولی بالغ شوہر کے سامنے نکاح کرے تو حکم |
| ۲۳۶     | ۱۱  | اولیاء نکاح کی شرعی ترتیب                       |
| ۲۹۶     | ۱۱  | عورت اگر ولی نہ رکھے تو حکم                     |
| ۶۸۶۵۵۲۱ | ۱۱  | باب الولی                                       |
| ۷۲۰     | ۱۱  | بچے مسلمان کی ولایت کس کے لئے                   |
| ۱۱۵     | ۱۲  | ولایت کے مسائل                                  |
| ۱۱۵     | ۱۲  | بعد ولایت نکاح خواں کو ہے                       |
| ۳۹۰     | ۱۲  | نابالغہ و نابالغہ کا نکاح بذریعہ ولی            |
| ۳۹۹     | ۱۲  | بالغہ کو نکاح کے لئے ولی کی ضرورت نہیں          |
| ۳۲۳     | ۱۳  | باپ دادا کے بعد جوان بھائی ولی ہے               |
| ۲۱۳(ج)  | ۱۷  | ولایت سرکار کا بیان                             |
| ۵۱۱     | ۱۸  | دنیادی ولایت کی مجتہدانہ تحقیق                  |
| ۴۷۲     | ۱۸  | نابالغوں کی ولایت کی تفصیل                      |
| ۵۲۰     | ۱۸  | ولایت کی اقسام                                  |
| ۱۸۷     | ۱۹  | مال کے معاملہ میں ماں لڑکے کی ولی نہیں          |
| ۱۹۳     | ۱۹  | نابالغہ کی جائداد ہر ولی کے قبضہ کا حکم         |
| ۶۲۳     | ۱۹  | حصبہ نہ ہو تو ولایت کیسے ہوگی                   |
| ۶۲۳     | ۱۹  | ولایت نکاح کے ہے                                |
| ۶۳۵     | ۱۹  | مال کی ولایت کے سات آدمی                        |

| صفحہ | رد | عنوان مسئلہ  |
|------|----|--|
| ۲۷۵  | ۲۵ | مال یتیم میں تصرف کے مجاز ولی کی تین اقسام             |
| ۲۷۵  | ۲۵ | تابالغوں کا حصہ فروخت کرنے کا ماں کو اختیار نہیں       |
| ۲۷۳  | ۲۶ | ایک صورت میں بچوں کی ولایت کے حق کا سوال               |
| ۲۶۸  | ۲۶ | ماں مال کی ولی نہیں ہو سکتی                            |
| ۲۷۰  | ۲۶ | تابالغہ کے بالغ بھائی کی موجودگی میں ولایت ماں کو نہیں |

ولیمہ:

|     |    |                             |
|-----|----|-----------------------------|
| ۲۵۵ | ۱۱ | ولیمہ کی تعریف              |
| ۲۵۶ | ۱۱ | برائے شہرت ولیمہ کرے تو حکم |
| ۲۷۸ | ۱۱ | ولیمہ سنن مستحبہ سے ہے      |



حبہ:

|        |    |   |
|--------|----|---|
| ۵۱۳    | ۲  | بچوں کا نام لے کر مقصود ماں باپ کو دینا ہو تو حکم |
| ۵۱۷    | ۲  | اگر صرف بچوں کو ہی دی تو حکم                      |
| ۲۶۳    | ۳  | پانی بہہ کے بغیر محض قدرت سے مباح ہو جاتا ہے      |
| ۵۰۲    | ۳  | دی ہوئی چیز پھیر لینا گناہ ہے                     |
| ۳۰، ۳۹ | ۴  | مشترکہ چند لوگوں کو پانی بہہ کرنے کا مسئلہ        |
| ۱۱۹    | ۴  | کلام واقعی اور کلام طنز فرق پر دیکھ کر حکم لگے گا |
| ۷۱۹    | ۲  | کلام میں قرینہ کا لحاظ ضروری ہے                   |
| ۲۸۱    | ۹  | قبرستان وقف بہہ بیع سے مستثنیٰ ہے                 |
| ۱۰۸    | ۱۰ | بہہ اور صدقہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتے           |

| صفحہ       | ردیف | سوال و مسئلہ                                     |
|------------|------|--|
| ۱۲۵        | ۱۰   | تا بالذکر کیوں کہ یہ شدہ زیورات کی زکوٰۃ کی نہیں |
| ۱۸۱        | ۱۰   | دی ہوئی خیرات فقیر سے واپس نہیں لے سکتا          |
| ۱۵۹        | ۱۲   | زن و شو کا باہم بیہ                              |
| ۱۹۸        | ۱۲   | مبالغہ کو بیہ                                    |
| ۲۰۲        | ۱۲   | ہلاک مہروب کا حکم                                |
| ۲۰۸ تا ۲۰۵ | ۱۲   | مانع رجوع بیہ                                    |
| ۲۲۲        | ۱۲   | والدین کا جہز عرفاً بیہ ہے                       |
| ۲۲۵        | ۱۲   | بیہ مشاع کا حکم                                  |
| ۲۲۵        | ۱۲   | بیہ تاہین حیات بیہ کاملہ ہے                      |
| ۲۲۷        | ۱۲   | مانع رجوع بیہ                                    |
| ۲۵۵        | ۱۲   | دو شخص اور ایک گھر بیہ کریں                      |
| ۲۰۲        | ۱۳   | بیہ میں تعلق باطل                                |
| ۲۱۲        | ۱۳   | لڑکی بیہ کرنے کا حکم                             |
| ۲۲۱        | ۱۳   | کافر کے بیہ کا حکم                               |
| ۲۸۵        | ۱۳   | مستامن کے لئے بیہ وصیت کی تحقیق                  |
| ۱۰۵        | ۱۶   | بیہ بلا قبضہ باطل ہے                             |
| ۲۲۶        | ۱۶   | بیہ کب باطل ہوگا                                 |
| ۵۲۰        | ۱۶   | کافر کی بیہ کردہ زمین کا حکم                     |
| ۱۲۶        | ۱۶   | بیہ بالعوض صحیح ہے                               |
| ۱۰۶        | ۱۷   | بیہ کار رجوع کے حق کا حکم                        |
| ۱۲۳        | ۱۷   | معدوم کا بیہ باطل                                |
| ۳۷۲        | ۱۷   | بیہ کی ایک ناممکن صورت                           |

| صفحہ    | جلد | عنوان مسئلہ                           |
|---------|-----|---------------------------------------|
| ۱۱۰     | ۱۸  | ہبہ بالعوض بیع کی طرح ہے              |
| ۲۰۶     | ۱۸  | ہبہ کی آمدن کا حکم                    |
| ۲۳۳     | ۱۸  | ہبہ بالعوض بیع ہے                     |
| ۲۸۵     | ۱۸  | ہبہ بے قبضہ تام نہیں                  |
| ۳۱۶     | ۱۸  | مرض الموت کے ہبہ کا حکم               |
| ۳۹۰     | ۱۸  | ہبہ کا تصفیہ کا سوال                  |
| ۶۲۲     | ۱۸  | ہبہ صرف زبان سے مکمل نہیں             |
| ۶۲۵     | ۱۸  | قابل تقسیم کا ہبہ بلا تقسیم صحیح نہیں |
| ۱۱۳     | ۱۹  | ہبہ مشاع باطل ہے                      |
| ۳۹۶۵۱۷۹ | ۱۹  | کتاب الہبۃ                            |
| ۹۹      | ۲۰  | ہبہ بالعوض کا حکم                     |
| ۹۹      | ۲۰  | مجرد ہبہ میں شفعہ نہیں                |
| ۲۵۳     | ۲۵  | مرض الموت میں ہبہ کے احکام            |
| ۵۲۷     | ۲۵  | ہبہ مشروط نافذ ہے                     |
| ۹۲      | ۲۶  | ہبہ کب تام اور کب باطل ہوتا ہے        |
| ۳۶۲     | ۲۶  | مرض الموت کے ہبہ کی ایک صورت اور حکم  |
| ۳۶۹     | ۲۶  | قبضہ سے پہلے ہبہ باطل ہونے کی صورت    |

ہدیہ / ہدایا :

|     |    |   |
|-----|----|---|
| ۶۲۲ | ۲۱ | سرکار نے بادشاہوں کے ہدیے قبول فرمائے             |
| ۶۲۲ | ۲۱ | اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تحفہ |
| ۶۲۵ | ۲۱ | ہدیہ کفار کے احکام                                |

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                     |
|------|-----|---------------------------------|
| ۶۲۷  | ۲۱  | کفار کا ہدیہ گوشت حرام ہے       |
| ۶۰۸  | ۲۳  | ہدیہ قبول کرنا اور عوض دینا سنت |
| ۳۶۵  | ۲۳  | ہدایا اور تحائف کا لین دین      |

ہلال:

|         |    |  |
|---------|----|--|
| ۳۷۸۶۳۵۲ | ۱۰ | باب رکیہ ہلال                            |
| ۳۰۵     | ۱۰ | ہلال کا اثبات اور اس کے سات شرعی طریقے   |
| ۳۲۲     | ۱۰ | ہلال کے اثبات کے سات غلط طریقے           |
| ۳۲۹     | ۱۰ | ہلال کی رکیہ کا احکام                    |
| ۵۷۳     | ۱۰ | رمضان ہلال میں مستوری شہادت کب مقبول     |
| ۵۷۵     | ۱۰ | ہلال کے بارے میں اہل بیت کے قواعد کا حکم |
| ۶۰۸     | ۱۰ | ہلال کے بارے تارک گواہی نامعتبر          |
| ۳۵۸     | ۲۰ | شمس و قمر کے مطلع بدلنے کی مدت           |

ہمزاد:

دیکھئے جن

ہندو:

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| ۳۱۳ | ۲ | ہندو کے نہانے والے پانی کا حکم      |
| ۳۱۹ | ۲ | ہندو کے جھوٹے کا حکم                |
| ۳۷۳ | ۲ | ہندوؤں وغیرہ کے پانی کا حکم         |
| ۳۷۵ | ۲ | مشرکین کے برتن دھو کر استعمال کریں  |
| ۲۵۵ | ۳ | ہندو کے بھرے پانی سے وضو غسل کا حکم |
| ۲۶۹ | ۳ | ہندو بے نہائے کنویں میں گھسے تو حکم |

| صفحہ       | جلد | عنوان مسئلہ                                    |
|------------|-----|--|
| ۲۸۱        | ۳   | ہندو مرد و عورت بھی کنویں سے پانی بھریں تو حکم |
| ۲۸۴        | ۳   | ڈول نکالنے والا ہنود ہو تو حکم                 |
| ۵۶۵        | ۴   | ہنود کی اشیائے خشک و تر کا حکم شرعی            |
| ۵۱۰        | ۱۱  | مسلمان مرد و عورت ہندو سے نکاح                 |
| ۲۶۴        | ۱۲  | ہندو سے نکاح کا حکم                            |
| ۷۱۰ تا ۵۲۵ | ۱۳  | ہندوؤں کے شبہات کا ازالہ گاؤ کشی کے مسئلہ میں  |
| ۲۶۴        | ۱۶  | ہندو کے حکم سے بنی مسجد کا حکم                 |
| ۶۴۴        | ۲۲  | ہندو کا معنی غلام ہے                           |
| ۱۱۵        | ۲۳  | ہندوؤں کی بنی ہوئی مٹھائی کا حکم               |
| ۱۶۰        | ۲۴  | ہندویت پرست مشرک ہیں                           |
| ۲۵۴        | ۲۵  | ہنود سے رہن دخلی لینے کی تفصیل                 |
| ۹۴         | ۲۹  | ہندو کے مال کے مباح ہونے کی شرائط              |
| ۶۴۱        | ۲۹  | بدشگونئی میں ہندوانہ طریقہ                     |

ہنڈی :

|     |    |                                       |
|-----|----|---------------------------------------|
| ۲۵۶ | ۱۷ | ہنڈی میں تو غیر مسلم سے بھی احتیاط ہے |
| ۶۰۳ | ۱۷ | ہنڈی کے عدم جواز کا سبب               |
| ۷۱۲ | ۱۷ | ہنڈی کی تعریف                         |
| ۷۱۲ | ۱۷ | ہنڈی کے جواز کی صورت                  |
| ۷۱۵ | ۱۷ | ہنڈی اہل حرب سے جائز                  |

ہجرت :

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
| ۱۷۴ | ۹ | ہجرت کا جنازہ |
|-----|---|---------------|

| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ |
|------|-----|-------------|
|------|-----|-------------|

صحت:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۲۲۱ | ۱۱ | عرض تسعین میں روزے کا حکم                        |
| ۳۸۵ | ۲۰ | مطلع شمس و قمر کے بدلنے کی مدت                   |
| ۳۳۲ | ۲۹ | علم ہیئت کا ایک سوال اور جواب                    |
| ۶۶۳ | ۳۰ | علم ہیئت کی رو سے سورج اور چاند کی روشنی میں فرق |
| ۷۵۵ | ۳۰ | سہا کے کہتے ہیں                                  |



یا رسول اللہ کہتا:

|         |    |   |
|---------|----|---|
| ۶۸۰     | ۲۳ | یا رسول اللہ ﷺ کہنے کے دلائل                  |
| ۲۰۲     | ۲۹ | یا رسول اللہ ﷺ کہنے کے دلائل                  |
| ۵۶۸۵۵۲۹ | ۲۹ | یا رسول اللہ ﷺ کہنے کے دلائل                  |
| ۵۶۶     | ۲۹ | التحیات کے بعد ندا کے یا رسول اللہ ﷺ کا اثبات |
| ۵۵۶     | ۲۹ | اولیاء کو ندا کرنے کا طریقہ متواتر            |
| ۲۵۷۵۲۵۲ | ۳۰ | صحابی کا یا رسول اللہ ﷺ کہنا                  |
| ۲۹۶     | ۳۰ | ندائے یا رسول اللہ ﷺ کی تعلیم حضور نے دی      |

یتیم:

|     |    |  |
|-----|----|--|
| ۵۲۰ | ۲  | یتیم کے مال میں احتیاط                           |
| ۲۶۲ | ۱۰ | یتیم خانہ کے مکان کے مقدمہ میں زکوٰۃ کا خرچ کرنا |
| ۳۰۶ | ۱۲ | یتیم بچوں کے لئے بیٹھنے والی بیوہ کی توصیف       |



| صفحہ | جلد | عنوان مسئلہ                           |
|------|-----|---------------------------------------|
| ۲۲۰  | ۲۲  | یتیم کے مال پر قبضہ کرنے والا فاسق ہے |

یزید:

|        |    |   |
|--------|----|---|
| ۱۹۳    | ۱۰ | یزید پر لعنت                            |
| ۵۹۲۵۹۱ | ۱۳ | یزید فاسق ہے                            |
| ۶۰۳    | ۱۳ | یزید کو پلید کہنا جائز ہے               |
| ۶۸۲    | ۱۳ | یزید کے اخروی احکام                     |
| ۲۳۶    | ۱۵ | یزید کی تکفیر میں سکوت                  |
| ۲۳۶    | ۱۵ | یزید کافسق متواتر ثابت                  |
| ۵۲     | ۲۸ | یزید کی مغفرت کے بارے میں ایک غلط روایت |

یکمین:

دیکھئے قسم:

یہود

دیکھئے نصاریٰ کے ساتھ:



